



**BOSCH**

**Professional** HEAVY DUTY  
**GAS 12-40 MA**

**Robert Bosch Power Tools GmbH**  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A A5C (2024.11) T / 133




1 609 92A A5C




- en** Original instructions
- fr** Notice originale
- pt** Manual original
- es** Manual original
- pt** Manual de instruções original
- zh** 正本使用说明书
- zh** 原始使用說明書
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ<sup>ที่</sup>แบบ
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar** دليل التشغيل الأصلي
- fa** دفترچه راهنمای اصلی












English .....	Page 9
Français .....	Page 19
Português .....	Página 30
Español .....	Página 40
Português do Brasil .....	Página 51
中文 .....	頁 61
繁體中文 .....	頁 70
ไทย .....	หน้า 79
Bahasa Indonesia .....	Halaman 90
Tiếng Việt .....	Trang 100
عربى .....	الصفحة 111
فارسى .....	صفحه 122











4 |











# English

## Safety information for vacuum cleaners



**Read all the safety information and instructions.** Failure to observe the safety information and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

► **This vacuum cleaner is not intended for use by children or persons with physical, sensory or mental impairments. It should not be used by persons who have insufficient experience and knowledge.** Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.

► **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the vacuum cleaner.

► **Comply with all safety provisions for the substances being extracted.**

⚠ **WARNING** Never vacuum material that contains asbestos. Asbestos is a carcinogenic substance.

⚠ **WARNING** Only use the vacuum cleaner if you have been adequately informed about the use of the equipment, the substances to be vacuumed and how to dispose of these safely. Thorough instruction on how to use the equipment prevents accidental misuse and injuries.

⚠ **WARNING** The vacuum cleaner is suitable for vacuuming dry substances, and can also be used to vacuum liquids when taking appropriate measures. The penetration of liquids increases the risk of an electric shock.

► **Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas subject to explosion hazards.** Dust, vapours and liquids can ignite or explode.

⚠ **WARNING** Only use the socket for the purpose stipulated in the operating manual.

⚠ **WARNING** If you notice a foam or water leak, switch off the vacuum cleaner im-

mediately and empty the container. Otherwise, the vacuum cleaner can become damaged.

- **NOTE:** The vacuum cleaner must only be stored indoors.
- **NOTE:** Clean the liquid fill level sensors regularly and check whether they are damaged. Otherwise, the equipment may not function properly.
- **If operating the vacuum cleaner in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD).** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- **Always check the vacuum cleaner, cable and plug before use.** Do not use the vacuum cleaner if you discover any damage. Do not open the vacuum cleaner yourself. It should be repaired exclusively by a qualified professional using only genuine spare parts. Damaged vacuum cleaners, cables and plugs increase the risk of electric shock.
- **Do not crush the cable or run the device over it.** Do not pull on the power cable to pull the plug out of the socket or to move the vacuum cleaner. Damaged cables increase the risk of an electric shock.
- **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.
- **Ensure that the workplace is well ventilated.**
- **The vacuum cleaner should be repaired exclusively by a qualified professional using only genuine spare parts.** This will ensure that the safety of the vacuum cleaner is maintained.
- **If the dust extractor is being used in areas containing hazardous substances, then vacuum, wipe or seal the outside of the dust extractor before taking it out of the hazardous area.** All parts of the dust extractor are deemed contaminated and you must ensure appropriate measures are taken to prevent the hazardous substances from spreading.
- ⚠ **WARNING** The dust extractor contains dust particles that pose a risk to health. Emptying and maintenance procedures, including the disposal of dust containers, should only be carried out by professionals. Suitable protective equipment is required. Do not operate the vacuum cleaner unless the complete filter system is correctly inserted. Otherwise, you are putting your health at risk.
- **Before using the equipment for the first time, check that the vacuum hose is in perfect condition. Leave the vacuum hose fitted to the vacuum cleaner while doing this so that no dust escapes accidentally.** Otherwise, you may end up inhaling dust particles.
- **Do not sit on the vacuum cleaner.** You can damage the vacuum cleaner this way.
- **Take care when using the power cable and the vacuum hose.** Improper use of these can put other people at risk.

- **Do not clean the vacuum cleaner by spraying a jet of water directly at it.** Water entering the top of the vacuum cleaner will increase the risk of electric shock.
- **Connect the dust extractor to a properly earthed power supply system.** The plug socket and extension cable must have a fully functioning protective conductor.
- **Do not use the socket on the vacuum cleaner when wet vacuuming or in the humid condition.** Contact with water poses a risk of short circuit or electric shock.

## Symbols

The following symbols may provide you with important information pertaining to the use of your dust extractor. Please take note of these symbols and their meaning. Knowing what these symbols mean will help you to use your extractor more effectively and more safely.


### Symbols and their meaning



**WARNING! Read all the safety and general instructions.** Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



Dust extractor from dust class M in accordance with IEC/EN 60335-2-69 for the **dry extraction** of harmful dusts with an exposure limit of  $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$



**WARNING!** The dust extractor contains dust particles that pose a risk to health. Emptying and maintenance procedures, including the disposal of dust containers, should only be carried out by professionals. Suitable protective equipment is required. Do not operate the dust extractor unless the complete filter system is correctly inserted. Otherwise, you are putting your health at risk.



Only attach a maximum of one L-BOXX.

The weight of the L-BOXX along with its contents must not exceed 15 kg.




**Do not hang the dust extractor on a crane hook, e.g. in order to transport it.** The dust extractor is not suitable for moving with a crane. There is a risk of injury and damage if you do this.

### Symbols and their meaning



**Do not sit or stand on the dust extractor.** The dust extractor may tip over and become damaged if you do this. This poses a risk of injury.



A

**A**  
LED indicator for automatic filter cleaning mode

M

**M**  
LED indicator for manual filter cleaning mode

28/22

**28/22**  
Indicator LED: Vacuum hose diameter  
Button for automatic filter cleaning



Button for manual filter cleaning



Vacuum hose diameter button (volumetric flow rate)



**Automatic start/stop function**  
Extracts dust that accumulates from working power tools; the dust extractor switches on automatically and off again with a time delay. The plug socket on the dust extractor is constantly live.



**Switching off**  
The plug socket on the dust extractor is without power.



**Extraction**  
Extracting dust deposits and dust from the extraction system.  
The plug socket on the dust extractor is constantly live.



**Min/Max**  
Continuous regulation of suction power:

- Maximum suction power for applications with a high level of dust generation
- Reduced suction power for applications that generate a low level of dust, and also to regulate the suction between the connected power tool and the surface of the workpiece (e.g. when sanding)

**Symbols and their meaning**

Data logging is activated in this dust extractor.

**max.**  
2100 W  
**min.**  
100 W

Permitted connected load of the connected power tool (country-specific)

## Product Description and Specifications

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

### Intended Use

The dust extractor is intended for collecting, vacuuming, conveying and separating non-flammable dry dusts and non-flammable liquids. The dust extraction capability of the dust extractor has been tested and corresponds to dust class M. It is suitable for the increased demands in professional use, e.g. in trade, industry and workshops.

Dust extractors from dust class M in accordance with IEC/EN 60335-2-69 may only be used to vacuum and extract harmful dust with an exposure limit of  $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$ .

Only use the dust extractor if you can fully evaluate all functions and carry them out without restrictions, or if you have received corresponding instructions.

### Product Features

The numbering of the product features refers to the representation of the vacuum cleaner on the graphic pages.

- (1) Container
- (2) Main switch
- (3) Hose adapter
- (4) Plug socket for power tool
- (5) Indicator LED **A**: Automatic filter cleaning mode
- (6) Indicator LED **M**: Manual filter cleaning mode
- (7) Indicator LED **22/28**: Vacuum hose diameter
- (8) Vacuum hose diameter button (volumetric flow rate)
- (9) Button for manual filter cleaning
- (10) Button for automatic filter cleaning

- (11) Suction power regulator
- (12) Carrying handle
- (13) L-BOXX holder
- (14) Guide handle pushbutton
- (15) Retractable guide handle
- (16) Top part of dust extractor
- (17) Pull strap
- (18) Fastening opening
- (19) Catch for top part of dust extractor
- (20) Wheel
- (21) Castor
- (22) Castor brake
- (23) Sealing plug for extraction connection
- (24) Cable holder
- (25) Rear handle section
- (26) Holder for floor nozzle
- (27) Floor nozzle
- (28) Combi brush nozzle
- (29) Combi power tool adapter
- (30) Pre-filter cover
- (31) Pre-filter release button
- (32) Suction tube
- (33) Vacuum hose
- (34) Curved nozzle
- (35) Fleece filter bag holder
- (36) Fleece filter bag
- (37) Flat-pleated filter
- (38) Vacuum hose snap fastener
- (39) PowerTool adapter (front part)
- (40) PowerTool adapter (rear part)
- (41) Combi brush nozzle release button
- (42) Guide rails for the retractable guide handle
- (43) Filter cover for flat-pleated filter
- (44) Closing flap for filter cover
- (45) Pre-filter
- (46) Fill level sensor
- (47) Float
- (48) Float locking mechanism
- (49) Magnet

### Technical data

Wet/dry extractor	GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
Article number <b>3 601 JMO ...</b>		
	... 120/... 1F0	... 1D0/... 1G0
	... 180/... 1E0/... 1N0	... 1C0
	... 1K0	... 160
	... 1L0/... 170	

Wet/dry extractor		GAS 12-40 MA	
		... 1H0	... 130
		W	1200
Rated power input	W	1200	1200
Frequency	Hz	50-60	60
Container volume (gross)	l	40	40
Net volume (dry)	l	28	26
Net volume (liquid)	l	20	18
Volume of fleece filter bag	l	19	19
Vacuum pressure <sup>A)</sup>			
– Dust extractor	hPa	220	180
– Turbine	hPa	230	200
Flow rate <sup>A)</sup>			
– Dust extractor	l/s	28	26
	m <sup>3</sup> /h	100.8	93.6
– Turbine	l/s	71.5	70
	m <sup>3</sup> /h	257	252
Dust class		M	M
Weight <sup>B)</sup>	kg	14.1	14.5
Protection class		(I)/I	(I)/I
Protection rating		IPX4	IPX4

A) Measured using a vacuum hose 4 m long and 28 mm in diameter

B) Weight without mains connection cable and without mains plug

The specifications apply to the specified rated voltages. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Values can vary depending on the product, scope of application and environmental conditions. To find out more, visit [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

#### Plug socket on the dust extractor

Permitted connected load of the connected power tool			
3 601 JMO ...	Rated voltage	Maximum power	Minimum power
... 120/... 1F0	230 V	2100 W	100 W
... 180/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1K0	220-230 V	2100 W	100 W
... 1L0/... 170	220-240 V	1660 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 130	230 V	1100 W	100 W
... 1D0/... 1G0	127 V	705 W	100 W
... 1C0	115 V	525 W	100 W
... 160	110 V	560 W	100 W

Permitted connected load of the connected power tool.

These values can differ for other country-specific models. Please take note of the information on the socket of the dust extractor.

#### Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to **EN 60335-2-69**.

Typically the A-weighted sound pressure level of the dust extractor is **74 dB(A)**. Uncertainty K = **2 dB**. The noise level when working can exceed the volume stated. **Wear hearing protection!**

Vibration total values  $a_h$  (triax vector sum) and uncertainty K determined according to **EN 60335-2-69**:  
 $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1.5 \text{ m/s}^2$ .

#### Assembly

- **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making**

**tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

### Fitting the vacuuming accessories (see figure A)

The vacuum hose (33) has a clip system that can be used to connect vacuuming accessories (combi power tool adapter (29), curved nozzle (34), combi brush nozzle (28)).

#### Fitting the curved nozzle

- Push the curved nozzle (34) onto the vacuum hose (33) until you hear both snap fasteners (38) on the vacuum hose engage.
- To remove the adapter, press the snap fasteners (38) inwards and pull apart the components.

#### Fitting the floor nozzle and tubes

- If required, place the suction tubes (32) firmly inside one another and then attach them firmly to the curved nozzle (34).
- Attach the floor nozzle (27) firmly to the suction tube (32) or the curved nozzle (34).

#### Fitting the combi power tool adapter

The combi power tool adapter (29) consists of the Power-Tool adapter (front part) (39) and the PowerTool adapter (rear part) (40).

The combi power tool adapter (29) is compatible with Bosch power tools.

With an inner diameter of 38.5 mm and an outer diameter of 45 mm, the PowerTool adapter (rear part) (40) can be used for power tools manufactured by other brands.

Place the PowerTool adapter (front part) (39) on the Power-Tool adapter (rear part) (40) and connect both adapters by twisting them in opposite directions (see figure B).

Push the combi power tool adapter (29) onto the vacuum hose (33) until you hear both push buttons (38) on the vacuum hose click into place.

To remove the adapter, press the push buttons (38) inwards and pull the combi power tool adapter out of the vacuum hose.

To separate the two adapters, loosen the connection by twisting in opposite directions and pulling the adapters apart.

#### Fitting the Combi Brush Nozzle

Push the combi brush nozzle (28) onto the vacuum hose (33) until you hear both push buttons (38) on the vacuum hose click into place.

To remove the adapter, press the snap fasteners (38) inwards and pull apart the components.

#### Adjusting the Combi Brush Nozzle (see figure C)

You can use the combi brush nozzle (28) as a crevice nozzle or brush.

Press the release button (41) and push the brush forwards to use the combi brush nozzle (28) as a brush.

Press the release button (41) and pull the brush backwards to use the combi brush nozzle (28) as a crevice nozzle.

### Fitting the vacuum hose (see figure D)

Pull the sealing plug (23) out of the hose adapter (3).

Attach the vacuum hose (33) to the hose adapter (3) and turn it clockwise as far as it will go.

► **Always seal the extraction connection with the sealing plug whenever you remove the vacuum hose.** This prevents dust from escaping.

**Note:** The friction generated by the dust in the vacuum hose and accessory during extraction causes an electrostatic charge that the user may experience as static discharge (depending on environmental factors and their physiological state).

Bosch generally recommends using an anti-static vacuum hose (accessory) to vacuum up fine dust and dry materials.

#### Attaching the Vacuum Hose to the Dust Extractor (see figure E)

Wrap the fitted vacuum hose (33) into the compartment for the vacuum hose. Pull up both pull straps (17) and hook them into the fastening openings (18).

### Changing the Fleece Filter Bag (dry extraction)

A fleece filter bag (36) must be used for the dry extraction of dust class M materials.

Insofar as materials with or without an exposure limit of  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (dust class L materials) are extracted, these can be sucked straight into the container.

**Note:** Switch off the automatic filter cleaning when using the fleece filter bag (see "Automatic/Manual Filter Cleaning (see figure L)", page 16).

**⚠ WARNING** The dust extractor contains dust particles that pose a risk to health.

**Emptying and maintenance procedures, including the disposal of dust containers, should only be carried out by professionals. Suitable protective equipment is required. Do not operate the vacuum cleaner unless the complete filter system is correctly inserted.** Otherwise, you are putting your health at risk.

#### Inserting/Removing the Fleece Filter Bag (see figures F–G)

Open the catches (19) and remove the top part of the dust extractor (16).

For inserting put the fleece filter bag (36) on the fleece filter bag holder (35) and insert the fleece filter bag (36) with the fleece filter bag holder (35) into the container (1).

For removing close the opening of the full fleece filter bag by pulling the catch. Pull the sealed fleece filter bag (36) out of the fleece filter bag holder (35) and remove it from the dust extractor.

Put the top part of the dust extractor (16) back on and connect the container (1) with the top part of the dust extractor (16) by closing the catches (19).

## Attaching the L-Boxx (see figure H)

You can attach an L-Boxx to the top part of the dust extractor for transporting the extractor and to provide space-saving storage for extractor accessories and/or the power tool. Attach the vacuum hose to the dust extractor (see figure E). Click the L-Boxx onto the holders (13).

- **Do not use the dust extractor with an L-Boxx attached.** This will raise the dust extractor's centre of gravity. The extractor may tip over. There is a risk of injury and damage if you do this.
- **Do not carry the dust extractor by the carrying handle of the attached L-Boxx.** The dust extractor is too heavy for the carrying handle of the L-Boxx. There is a risk of injury and damage if you do this.

## Installing the Retractable Guide Handle (see figures I–J)

**Note:** The retractable guide handle cannot be removed. When assembling, ensure that the guide handle is aligned correctly.

Before inserting the guide handle (15), align it using the R (right) and L (left) markings.

Insert the guide handle (15) into the guide rails (42).

Press the guide handle (15) down to the stop line until the guide handle audibly clicks into place.

Press the snap fastener (14) to change the length of the guide handle (15).

## Operation

- **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

### Start-up

- **Pay attention to the mains voltage.** The voltage of the power source must correspond with the data on the type plate of the vacuum cleaner.
- **Make sure you inform yourself about the applicable regulations/laws on how to handle harmful types of dust in your country.**

The dust extractor may be used for vacuuming and extracting the following materials:

– Dusts with an exposure limit of  $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$

- **Products that are only sold in AUS and NZ:** Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

The dust extractor must categorically not be used in potentially explosive areas.

To ensure optimum suction power, you must always fully unwind the vacuum hose (33) from the top part of the dust extractor (16).

## Adjusting the Suction Power

You can adjust the suction power to a continuously variable degree using the suction power regulator (11).

Set the suction power regulator (11) to maximum suction power when completing applications that generate a high level of dust.

Set the suction power regulator (11) to the reduced suction power position when completing applications that generate a low level of dust, and also to regulate the suction between the connected power tool and the surface of the workpiece (e.g. when sanding).

## Volume Flow Monitoring

The dust extractor is fitted with volume flow monitoring. In the "extraction" operating mode, the volume flow monitoring is fixed to a value of 20 m/s.

If the value falls below this, e.g. due to accumulated dirt in the vacuum hose, a full fleece filter bag or a clogged flat-pleated filter, one of the LED indicators (7) 22 or 28 will flash and an audible alarm signal will sound. If this happens, switch off the dust extractor and check it as described in the "Rectifying faults" section.

**Note:** When working with power tools that have a low air feed into the vacuum hose (e.g. jigsaws, sanders, etc.), an audible alarm signal may sound. To avoid the warning message, it is recommended that you also use a suitable dust extraction adapter with a false air intake from the range of accessories.

## Adjusting the hose diameter

Hose diameter	Volume flow setting
22 mm	28 m <sup>3</sup> /h
28 mm	45 m <sup>3</sup> /h

To regulate the suction power, select the hose diameter used.



Press the vacuum hose diameter button (8).  
LED indicator (7) 22 or 28 will light up.

## Plug socket on the dust extractor

- **Observe the permitted connected load of the plug socket on the dust extractor. Exceeding the maximum permitted connected load can cause the dust extractor to be overloaded. The motor protection device will be triggered.** Send the dust extractor to an authorised Bosch after-sales service centre.

The plug socket for power tools (4) is live as soon as the mains plug of the dust extractor is plugged into the socket and the main switch is in position 1. It can be used as an external power connection on the dust extractor, e.g. when working with extraction systems. In position 1+, the automatic start/stop feature of the dust extractor is activated. The dust extractor can be switched on remotely via the connected power tool.

## Dry vacuuming

### Vacuuming up dust deposits



To **switch on the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 1.

To **switch off the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 0.

### Extracting dust that accumulates from working power tools (see figure K)

- There must be a sufficient air exchange rate in the room when the exhaust air comes back into the room.
- Be aware of the corresponding national regulations.

The dust extractor has an integrated plug socket for power tools (4), which can be used to connect an external power tool. Observe the maximum permitted load of the connected power tool.

Fit the combi power tool adapter (29) (see figure B).

Insert the combi power tool adapter (29) into the extraction outlet of the power tool.



To switch on the **automatic start/stop feature** of the dust extractor, turn the main switch (2) to position 1+.

To **start the dust extractor**, switch on the power tool connected to the plug socket (4). The dust extractor will start automatically.

To **stop dust extraction**, switch the power tool off.

The automatic start/stop run-on function will run for up to 15 s longer in order to extract the remaining dust from the vacuum hose.



To **switch off the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 0.

### Using the extraction system (accessory)



Connect the extraction system to the vacuum hose (33).

To **extract dust via the extraction system**, turn the main switch (2) to position 1.

Hold the extraction system up to the wall and switch on the power tool. The negative pressure this creates causes the extraction system to stick to the wall independently.

Switch off the power tool and carefully remove the extraction system from the wall.



To **switch off the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 0.

## Wet vacuuming

- Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or

**solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas subject to explosion hazards.** Dust, vapours and liquids can ignite or explode.

- The vacuum cleaner must not be used as a water pump. The vacuum cleaner is designed for vacuuming air and vacuuming water mixtures.

**Note:** The requirements for the degree of penetration (dust class M) have only been verified for dry extraction.

### Before Starting Wet Extraction

Empty the container (1) and remove the fleece filter bag (36).

Check the fill level sensor (46) for dirt. The fill level sensor must be clean in order for the dust extractor to switch off automatically when the container is full (see "Cleaning the fill level sensor (see figures P-Q)", page 17).

- During wet extraction, the automatic filter cleaning function must be deactivated.

Press the automatic filter cleaning button (10) to activate manual filter cleaning (see "Manual Filter Cleaning", page 16). This deactivates automatic filter cleaning and LED indicator A (5) goes out.

### Vacuuming up liquids

- A WARNING** If you notice a foam or water leak, switch off the vacuum cleaner immediately and empty the container. Otherwise, the vacuum cleaner can become damaged.

To **switch on the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 1.

The dust extractor is equipped with fill level sensors (46). If the maximum fill level has been reached, the dust extractor automatically switches off and the two LED indicators A (5) and M (6) flash simultaneously once a second. Restart protection is activated and can be deactivated by switching the dust extractor on and off once.

**Note:** Check the fill level regularly and empty the container in good time. If, during wet extraction, an acoustic warning signal sounds, no measures are necessary. The operational safety of the dust extractor is not impaired.

To **switch off the dust extractor**, turn the main switch (2) to position 0.

Hold the container (1) in the rear handle section (25) and twist it forwards to drain the liquid.

### After Wet Extraction

After wet vacuuming, always clean the fill level sensor (46) (see "Cleaning the fill level sensor (see figures P-Q)", page 17).

To prevent mould growth after wet extraction:

- Remove the flat-pleated filter (37) and leave this to dry thoroughly.
- Remove the top part of the dust extractor (16), open the filter cover (43) and leave both elements to dry thoroughly.

## Automatic/Manual Filter Cleaning (see figure L)

### Automatic Filter Cleaning

**Note:** The automatic filter cleaning function is set to be on by default when the dust extractor is switched on.

The LED indicator **A (5)** will light up continuously.

When the automatic filter cleaning function is active, the flat-pleated filter **(37)** is cleaned by two blasts of air (pulsating noise). This activates as soon as the sensor detects that the airflow has dropped below a specific level.

Regular use of the filter cleaning function will increase the service life of the filter.

In order to achieve an optimum filter service life, deactivate the automatic filter cleaning function only in exceptional cases, e.g. for wet extraction.

### Manual Filter Cleaning

Press the manual filter cleaning button **(9)** to run manual filter cleaning. The flat-pleated filter **(37)** is cleaned using 2 blasts of air. The LED indicator **M (6)** will light up white for 2 s. If LED indicator **M (6)** goes out, the next blast of air can be triggered. To do this, press the manual filter cleaning button **(9)** again.

**Note:** For manual filter cleaning, please note that the time interval between each time a button is pressed should be 2–3 s. Continuously pressing the manual filter cleaning button **(9)** multiple times will cause the over-temperature protection of the dust extractor to be activated. The over-temperature protection will be automatically suspended after a while (see "Rectifying Errors", page 17).

To switch off the manual filter cleaning, press the automatic filter cleaning button **(10)**.

A flat-pleated filter with surface dirt is still fully functional. It is not necessary to clean the flat-pleated filter manually by shaking or blowing it out; this may even damage the filter.

## Maintenance and service

### Maintenance and Cleaning

► **Pull the plug out of the socket before cleaning or performing maintenance on the vacuum cleaner, making tool adjustments, changing accessories or putting away the vacuum cleaner.** This safety measure prevents the vacuum cleaner from being started accidentally.

► **To ensure safe and efficient operation, always keep the dust extractor and the ventilation slots clean.**

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

► **Wear a dust mask when servicing and cleaning the vacuum cleaner.**

Clean the housing of the dust extractor occasionally with a damp cloth.

► **Do not use compressed air to clean the dust extractor.**

The filter or other components may become damaged.

At least once a year a technical inspection of the dust extractor must be carried out by the manufacturer or someone who has been trained (e.g. to check for filter damage, to check that the dust extractor is tight and that the control unit is in perfect working order).

### Cleaning and maintenance after extracting hazardous substances

- All parts that may have come into contact with the hazardous substances must be considered contaminated.
- Vacuum, wipe down and seal the outside of the dust extractor thoroughly before removing it from the area containing the hazardous substances.
- Only clean, dismantle and perform maintenance on the dust extractor if this can be done without endangering yourself or other persons. Wear personal protective equipment for cleaning and maintenance tasks. Undertake the work in a well ventilated room.
- First clean the outside of the dust extractor before dismantling it.
- All parts of the dust extractor that cannot be adequately cleaned must be disposed of in impermeable bags. Please observe the applicable regulations for the disposal of such waste.
- Clean the maintenance area after completing the work.

### Cleaning the container

Wipe the container **(1)** from time to time using a non-abrasive off-the-shelf cleaning product and leave it to dry.

### Cleaning/Changing the Flat-Pleated Filter (see figures M–N)

► **Hold the filter cover by the closing flap whilst opening it, and make sure that the opened filter cover clicks into the vertical position.** There is a risk of injury if the filter cover falls down.

The suction power is dependent on the condition of the filter. Therefore, the filter should be cleaned regularly.

If the flat-pleated filter **(37)** becomes damaged, replace it immediately.

- Before each time you clean/replace the flat-pleated filter **(37)**, remove the vacuum hose **(33)** and insert the sealing plug **(23)** into the hose adapter **(3)**.
- Pull on the closing flap **(44)** and twist the filter cover **(43)** upwards until it clicks into the vertical position.
- Hold the flat-pleated filter **(37)** by the supports and take it out from above.
- Use a damp cloth to remove any dust and dirt that accrues around the edge of the container **(1)** when removing the flat-pleated filter **(37)**.
- The flat-pleated filter can be rinsed out under running water.
- Insert the cleaned (or a new) flat-pleated filter **(37)**, ensuring that it is positioned correctly and securely.
- Close the filter cover **(43)**, ensuring you hear it click into place.

### Cleaning the Pre-Filter (see figure O)

- **The pre-filter must not be wet cleaned.**
- **Do not reach between the guide handle and the dust extractor from above in order to unlock to pre-filter cover.** Otherwise, your hand might get caught.  
Pull the guide handle (15) up until the pre-filter cover is freely accessible from the rear.  
Press the release button (31) of the pre-filter cover (30) and take it from the pre-filter compartment.

Remove the pre-filter (45).

Brush down the flaps of the pre-filter with a soft brush.

Place the pre-filter into the pre-filter cover (30).

Place the pre-filter cover (30) into the pre-filter compartment and fold it in.

### Cleaning the fill level sensor (see figures P-Q)

Pull the dust extractor's mains plug from the plug socket.

Remove the top part of the vacuum cleaner (16).

Empty the container (1).

Move the float (47) or gently tap it to remove the dirt.

Clean the floater (47) using a soft cloth.

If necessary, you can also remove the float. To do this, press the locking mechanism (48) and remove the float (47).

Clean the magnet (49) using a brush.

Reinsert the float (47).

### Storage and transport

#### Storage

- Wrap the power cable around the cable holder (24).
- Insert the accessory into the corresponding brackets.
- Wrap the vacuum hose (33) into the compartment for the vacuum hose. Pull up both pull straps (17) and hook them into the fastening openings .

- Click the L-BOXX onto the holders (13).
- Remove the fleece filter bag as soon as it is full.
- Only ever carry the dust extractor by the carrying handle (12).
- To transport the dust extractor, insert the sealing plug (23) into the hose adapter (3).
- Store the dust extractor on a level surface in a dry room and secure it so that it cannot be used by unauthorised persons.
- Put the castor brake (22) down to hold the castors (21) in place.

#### Transport (see figure R)

- To transport the dust extractor, insert the sealing plug (23) into the hose adapter (3).
- To make transporting the dust extractor easier and gentler on the back, completely empty the container or dispose of the full fleece filter bag beforehand.
- Only ever carry the dust extractor by the carrying handle (12).
- Unlock the castor brake (22) for pushing or pulling the dust extractor.
- Only use the extended guide handle (15) to push or pull the dust extractor. The dust extractor must not be pulled up steps by the guide handle. The carrying handle must be used in this instance.
- When carrying the dust extractor up steps, ensure there is nobody directly behind you, in case the dust extractor should unexpectedly fall.

### Rectifying Errors

- **If a fault (e.g. a filter damage) occurs, the vacuum cleaner must be switched off immediately. The fault must be repaired before resuming operation.**

Problem	Remedy
Suction turbine will not switch on.	<p>Check the mains cable, mains plug, fuse, socket and fill level sensors (46).</p> <p>The main switch (2) is set to "automatic start/stop".</p> <p>Set the main switch (2) to the "extraction" symbol or switch on the power tool plugged into the plug socket (4).</p>
The suction turbine switches off.	<p>During wet extraction, the LED indicators <b>A</b> and <b>M</b> will flash slowly and simultaneously.</p> <p>Empty the container (1).</p> <p>During dry extraction, the LED indicators <b>A</b> and <b>M</b> will flash quickly and simultaneously: The overload protection on the dust extractor socket is activated.</p> <p>Switch off the power tool.</p>
The dust extractor shuts down.	<p>The dust extractor is overloaded due to the maximum voltage of the dust extractor plug socket being exceeded: The motor protection device is triggered.</p> <p>Send the dust extractor to an authorised <b>Bosch</b> after-sales service centre.</p>
The suction turbine will not switch on again after the container has been emptied.	<p>Switch the dust extractor off and wait 5 s before switching it back on.</p> <p>Clean the fill level sensors (46) and the space between the fill level sensors (46) using a brush.</p>

Problem	Remedy
The suction power is decreasing.	<p>Remove any blockages from the vacuum nozzle, suction tube, vacuum hose (33) or flat-pleated filter (37).</p> <p>Change the fleece filter bag (36).</p> <p>Make sure the filter cover (43) is engaged correctly.</p> <p>Place the top part of the vacuum cleaner (16) on correctly and close the catches (19).</p> <p>Clean or change the flat-pleated filter (37).</p>
Dust is escaping during extraction	<p>Check that the flat-pleated filter (37) has been fitted correctly.</p> <p>Clean or change the flat-pleated filter (37).</p>
Automatic switch-off (wet extraction) is not working.	<p>Clean the fill level sensors (46) and the space between the fill level sensors (46) using a cloth.</p> <p>Check the fill level regularly.</p>
Acoustic warning signal sounds.	<p>Suction power setting too low.</p> <p>Set the suction power regulator (11) to a higher setting.</p> <p>Hose diameter setting is wrong.</p> <p>Set the correct vacuum hose diameter.</p> <p>Vacuum hose (33) is blocked or twisted.</p> <p>Remove blockage or untwist hose.</p> <p>Fleece filter bag full</p> <p>Change the fleece filter bag (36).</p> <p>Flat-pleated filter (37) is dirty.</p> <p>Clean or change the flat-pleated filter if required.</p> <p>The airflow supplied by the connected power tool is insufficient</p> <p>Open the false air intake on the power tool if there is one or use a suitable dust extraction adapter with a false air intake.</p> <p>Malfunction of the monitoring electronics</p> <p>Contact an authorised <b>Bosch</b> after-sales service centre.</p>
Acoustic warning signal sounds during wet extraction.	No measures necessary.
The automatic filter cleaning function is not working.	The automatic filter cleaning function only activates when the airflow drops below a specific level. To check the filter is working or to manually clean the filter, switch to manual mode by pressing the manual filter cleaning button (9).
Manual filter cleaning cannot be triggered.	<p>Over-temperature protection of the dust extractor is activated.</p> <p>Pressing the manual filter cleaning button (9) continuously ten times has triggered the over-temperature protection. The over-temperature protection will be automatically suspended after 20 s.</p> <p>Pressing the manual filter cleaning button (9) continuously 30 times has triggered the over-temperature protection. The over-temperature protection will be automatically suspended after 4 min.</p> <p>If the problem persists, contact an authorised <b>Bosch</b> after-sales service centre.</p>
The automatic filter cleaning function is not activated.	Contact an authorised <b>Bosch</b> after-sales service centre.

## After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare

parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you

with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

#### **Malaysia**

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY  
No. 8A, Jalan 13/6  
46200 Petaling Jaya  
Selangor  
Tel.: (03) 79663194  
Toll-Free: 1800 880188  
Fax: (03) 79583838  
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com  
www.bosch-pt.com.my

**You can find further service addresses at:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### **Disposal**

The vacuum cleaner, its accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of the vacuum cleaner along with household waste.

## **Français**

### **Consignes de sécurité pour les aspirateurs**



**Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

**Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

► **Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances.** Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.

► **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec l'aspirateur.

► **Observez toutes les consignes de sécurité relatives aux matières à aspirer.**

**AVERTISSEMENT** N'aspirez jamais des matériaux contenant de l'amiante. L'amiante est considérée comme étant cancérogène.

**AVERTISSEMENT** Ne mettez en marche l'aspirateur qu'après vous être suffisamment informé sur son utilisation, sur la nature des matières à aspirer et sur la façon de les éliminer en toute sécurité. Une initiation approfondie sur son utilisation réduit le risque de mauvaise manipulation et de blessure.

**AVERTISSEMENT** L'aspirateur est conçu pour l'aspiration de matières sèches et aussi de liquides, moyennant certaines mesures. La pénétration de liquides dans l'appareil ou tout contact avec des liquides augmente le risque de choc électrique.

► **N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N'aspirez pas de poussières très chaudes, incandescentes ou explosives. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive.** Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.

**AVERTISSEMENT** N'utilisez la prise de courant que pour les usages mentionnés dans la présente notice.

**AVERTISSEMENT** Arrêtez immédiatement l'aspirateur dès que de la mousse ou de l'eau en ressort et videz la cuve.

L'aspirateur risque sinon d'être endommagé.

- **ATTENTION ! Ne rangez l'aspirateur qu'en intérieur.**
- **ATTENTION ! Nettoyez régulièrement les capteurs de niveau de liquide et vérifiez alors qu'ils ne sont pas endommagés.** Il y a sinon risque de dysfonctionnement.
- **Si l'utilisation de l'aspirateur dans un environnement humide ne peut pas être évitée, utilisez un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.
- **Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de l'aspirateur, de la fiche et du cordon d'alimentation.** N'utilisez pas l'aspirateur si des défauts sont constatés. **N'ouvrez pas l'aspirateur vous-même.** Confiez-le pour réparation à un professionnel qualifié utilisant seulement des pièces de rechange d'origine. Un aspirateur, un câble et/ou une fiche endommagés augmentent le risque d'un choc électrique.
- **Veillez à ne pas écraser ou coincer le câble.** Ne tirez pas sur le câble pour l'extraire de la prise électrique

**ou pour déplacer l'aspirateur.** Un câble endommagé augmente le risque de choc électrique.

- **Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche imprudente de l'aspirateur.
- **Veillez à bien aérer la zone de travail.**
- **Ne confiez la réparation de l'aspirateur qu'à un professionnel qualifié utilisant seulement des pièces de rechange d'origine.** Ceci est indispensable pour préserver la sécurité de fonctionnement de l'aspirateur.
- **Après une utilisation de l'aspirateur dans des zones contenant des matières nuisibles à la santé, aspirez, essuyez ou étanchez l'extérieur de l'aspirateur avant de le sortir de la zone de danger.** Toutes les parties de l'aspirateur sont alors considérées comme contaminées. Vous devez prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter toute dissémination des matières nuisibles à la santé.

#### **AVERTISSEMENT**

L'aspirateur contient des poussières nuisibles à la santé. Confiez son vidage, son entretien et le retrait du bac collecteur de poussière à un professionnel qualifié. Le port d'équipements de protection appropriés est obligatoire. N'utilisez l'aspirateur qu'avec le système de filtration complet et bien en place. Vous mettriez sinon votre santé en danger.

- **Avant de mettre en marche l'aspirateur, assurez-vous du bon état du tuyau d'aspiration.** Laissez alors le tuyau d'aspiration raccordé à l'aspirateur pour éviter que de la poussière ne sorte involontairement. Vous risqueriez sinon d'aspirer de la poussière.
- **Ne vous asseyez jamais sur l'aspirateur.** Vous risqueriez d'endommager l'aspirateur.
- **Soyez prudent lors de l'utilisation du cordon d'alimentation et du tuyau d'aspiration.** Vous pourriez sinon mettre en danger d'autres personnes.
- **Ne dirigez jamais un jet d'eau directement sur l'aspirateur pour le nettoyer.** Toute pénétration d'eau à l'intérieur de la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.
- **Branchez l'aspirateur sur une prise électrique correctement reliée à la terre.** La prise électrique et la rallonge doivent posséder un conducteur de mise à la terre.
- **N'utilisez pas la prise électrique de l'aspirateur lors de l'aspiration de liquides ou dans des environnements humides.** Il y a risque de court-circuit ou de choc électrique si elle venait à entrer en contact avec de l'eau.

## Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et leur signification. Une bonne connaissance des symboles vous permettra d'utiliser l'aspirateur au mieux et en toute sécurité.


### Symboles et leur signification




**AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.



Aspirateur conforme à la classe de filtration M selon CEI/EN 60335-2-69 conçu pour l'aspiration à sec de poussières nuisibles à la santé avec une valeur limite d'exposition  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**AVERTISSEMENT ! L'aspirateur contient des poussières nuisibles à la santé. Confiez son vidage, son entretien et le retrait du bac collecteur de poussière à un professionnel qualifié. Le port d'équipements de protection appropriés est obligatoire. N'utilisez l'aspirateur qu'avec le système de filtration complet et bien en place.** Vous mettriez sinon votre santé en danger.



Ne clipsez pas plus d'un coffret L-BOXX. Le poids du coffret L-BOXX et de son contenu ne doit pas dépasser 15 kg.




max. 1 L-BOXX  
max. 15 kg



**N'accrochez pas l'aspirateur à un plan, un crochet de grue ou autre pour le transporter.** L'aspirateur n'est pas grutabale. Il y a alors risque de blessure et de dommage matériel.



**Ne vous asseyez jamais sur l'aspirateur et ne l'utilisez pas comme marchepied ou tabouret.** L'aspirateur risque de basculer et d'être endommagé. Il y a risque de blessure.



**A**

Indicateur LED Mode nettoyage de filtre automatique

**M**

Indicateur LED Mode nettoyage de filtre manuel

## Symboles et leur signification

28 22

### 28/22

Indicateur LED Diamètre du flexible d'aspiration



Touche Nettoyage de filtre automatique



Touche Nettoyage de filtre manuel



Touche Diamètre du flexible d'aspiration (débit d'air)



#### Mise en marche/arrêt automatique

Aspiration des poussières produites par les outils électroportatifs pendant leur utilisation

L'aspirateur se met en marche automatiquement et s'arrête de façon différente.

La prise électrique de l'aspirateur est en permanence sous tension.



#### Arrêt

La prise électrique de l'aspirateur est hors tension.



#### Aspiration

Aspiration des poussières qui se sont déposées et des poussières du système d'aspiration.

La prise électrique de l'aspirateur est en permanence sous tension.



#### Min/Max

Réglage en continu de la force d'aspiration :

- Puissance d'aspiration maximale pour les applications générant beaucoup de poussière
- Puissance d'aspiration réduite pour les applications générant peu de poussière et pour réguler la force d'aspiration entre l'outil électroportatif raccordé et la surface de la pièce (p. ex. lors de ponçages)



Le protocole des données est activé sur cet aspirateur.



Indication de la puissance maximale admissible de l'outil électroportatif raccordé (diffère selon les pays)

## Utilisation conforme

L'aspirateur est conçu pour la collecte, l'aspiration, l'évacuation et la séparation de poussières sèches ininflammables et de liquides ininflammables. L'aspirateur a été testé et reconnu conforme à la classe de filtration M. Il est destiné aux applications professionnelles exigeantes, sur les chantiers, dans l'industrie et dans les ateliers.

Les aspirateurs conformes à la classe M selon CEI/EN 60335-2-69 ne doivent être utilisés que pour l'aspiration à sec de poussières nuisibles à la santé avec une valeur limite d'exposition  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

N'utilisez l'aspirateur qu'après vous être familiarisé avec toutes ses fonctions ou après avoir été initié à son utilisation.

## Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l'aspirateur dans les pages graphiques.

- (1) Cuve
- (2) Interrupteur principal
- (3) Orifice de raccordement du flexible
- (4) Prise électrique pour outil électroportatif
- (5) Indicateur LED A Mode nettoyage de filtre automatique
- (6) Indicateur LED M Mode nettoyage de filtre manuel
- (7) Indicateur LED Diamètre du flexible d'aspiration  
22/28
- (8) Touche Diamètre du flexible d'aspiration (débit d'air)
- (9) Touche Nettoyage de filtre manuel
- (10) Touche Nettoyage de filtre automatique
- (11) Sélecteur de puissance d'aspiration
- (12) Poignée de transport
- (13) Fixation pour coffret L-BOXX
- (14) Bouton-pression de la poignée-étrier
- (15) Poignée-étrier escamotable
- (16) Partie supérieure de l'aspirateur
- (17) Sangle
- (18) Ouverture de fixation
- (19) Patte de fermeture de la partie supérieure de l'aspirateur
- (20) Roue fixe
- (21) Roue pivotante
- (22) Frein de roue pivotante
- (23) Obturateur de raccord d'aspiration
- (24) Fixe-câble
- (25) Zone de préhension arrière
- (26) Fixation pour suceur pour sols
- (27) Suceur pour sols
- (28) Suceur-brosse combiné

## Description du produit et des prestations

Veuillez tenir compte des illustrations dans la partie avant de la notice d'utilisation.

- |  |  |
|--|--|
| (29) Adaptateur d'aspiration combiné (pour outil électro-portatif) | (39) Adaptateur PowerTool (partie avant)               |
| (30) Cache du préfiltre  | (40) Adaptateur PowerTool (partie arrière)             |
| (31) Touche de déverrouillage du préfiltre                         | (41) Touche de déverrouillage du suceur-brosse combiné |
| (32) Tube d'aspiration   | (42) Glissières de la poignée-étier télescopique       |
| (33) Flexible d'aspiration   | (43) Couvre-filtre du filtre plissé plat               |
| (34) Coude d'aspiration  | (44) Patte de fermeture du couvre-filtre               |
| (35) Support de sac-filtre en non-tissé                            | (45) Préfiltre   |
| (36) Sac-filtre en non-tissé                                       | (46) Capteur de niveau de remplissage                  |
| (37) Filtre plissé plat  | (47) Flotteur  |
| (38) Bouton-pression du flexible d'aspiration                      | (48) Verrouillage du flotteur                          |
|  | (49) Aimant  |

### Caractéristiques techniques

Aspirateur eau et poussière		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
Référence 3 601 JMO ...		... 120/... 1F0 ... 180/... 1E0/... 1N0 ... 1K0 ... 1L0/... 170 ... 1H0 ... 130	... 1D0/... 1G0 ... 1C0 ... 160
Puissance absorbée nominale	W	1 200	1 200
Fréquence	Hz	50-60	60
Contenance (brute) de la cuve	l	40	40
Contenance nette (matières sèches)	l	28	26
Contenance nette (liquides)	l	20	18
Volume du sac-filtre en non-tissé	l	19	19
Dépression <sup>A)</sup>			
- Aspirateur	hPa	220	180
- Turbine	hPa	230	200
Débit <sup>A)</sup>			
- Aspirateur	l/s m <sup>3</sup> /h	28 100,8	26 93,6
- Turbine	l/s m <sup>3</sup> /h	71,5 257	70 252
Classe de filtration		M	M
Poids <sup>B)</sup>	kg	14,1	14,5
Classe de protection		⊕/I	⊕/I
Indice de protection		IPX4	IPX4

A) mesurée avec tuyau d'aspiration de Ø 28 mm et de 4 m de longueur

B) Poids sans cordon d'alimentation ni fiche mâle

Les données sont valables pour les tensions nominales indiquées. Elles peuvent varier lorsque les tensions diffèrent de ces valeurs et pour les versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d'utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

## Prise électrique de l'aspirateur

Puissance maximale admissible de l'outil électroportatif raccordé			
3 601 JMO ...	Tension nominale	Puissance maximale	Puissance minimale
... 120/... 1F0	230 V	2 100 W	100 W
... 180/... 1E0/... 1N0	220 V	2 100 W	100 W
... 1K0	220–230 V	2 100 W	100 W
... 1L0/... 170	220–240 V	1 660 W	100 W
... 1H0	220 V	1 000 W	100 W
... 130	230 V	1 100 W	100 W
... 1D0/... 1G0	127 V	705 W	100 W
... 1C0	115 V	525 W	100 W
... 160	110 V	560 W	100 W

Indication de la puissance maximale admissible de l'outil électroportatif raccordé.

Pour les modèles vendus dans d'autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de l'aspirateur.

## Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées conformément à **EN 60335-2-69**.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l'aspirateur est de **74** dB(A). Incertitude K = **2** dB. Le niveau sonore peut dépasser les valeurs indiquées pendant l'utilisation de l'outil. **Portez un casque antibruit !**

Valeurs globales de vibration  $a_h$  (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à **EN 60335-2-69** :

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

## Montage

- **Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche imprudente de l'aspirateur.

## Montage des accessoires d'aspiration (voir figure A)

Le flexible d'aspiration (33) est pourvu d'un système de clipage permettant le raccordement des accessoires d'aspiration (adaptateur d'aspiration combiné (29), coude d'aspiration (34), suceur-brosse combiné (28)).

### Montage du coude d'aspiration

- Emboîtez le coude d'aspiration (34) sur le flexible d'aspiration (33) jusqu'à ce que les deux boutons poussoirs (38) s'enclenchent de manière audible.
- Pour le retirer, appuyez sur les boutons-pressions (38) et tirez.

### Montage du suceur pour sols et des tubes

- Emboîtez en cas de besoin les tubes d'aspiration (32) l'un dans l'autre puis dans le coude d'aspiration (34).
- Emboîtez fermement le suceur pour sols (27) sur le tube d'aspiration (32) ou le coude d'aspiration (34).

### Montage de l'adaptateur d'aspiration combiné

L'adaptateur d'aspiration combiné (29) est constitué de l'adaptateur PowerTool (partie avant) (39) et de l'adaptateur PowerTool (partie arrière) (40).

L'adaptateur d'aspiration combiné (29) est compatible avec les outils électroportatifs Bosch.

Avec son diamètre intérieur de 38,5 mm et son diamètre extérieur de 45 mm, l'adaptateur PowerTool (partie arrière) (40) est aussi utilisable pour les outils électroportatifs d'autres fabricants.

Emboîtez l'adaptateur PowerTool (partie avant) (39) sur l'adaptateur PowerTool (partie arrière) (40) et raccordez les deux adaptateurs l'un à l'autre en les tournant dans le sens opposé (voir figure B).

Emboîtez l'adaptateur d'aspiration combiné (29) sur le flexible d'aspiration (33) jusqu'à ce que les deux boutons-pressions (38) de l'adaptateur d'aspiration s'enclenchent de manière audible.

Pour le retrait, appuyez sur les boutons-pressions (38) et séparez l'adaptateur d'aspiration combiné du flexible d'aspiration.

Pour séparer les deux adaptateurs, tournez-les dans le sens opposé et déboîtez-les.

### Montage du suceur-brosse combiné

Emboîtez le suceur-brosse combiné (28) sur le flexible d'aspiration (33) jusqu'à ce que les deux boutons poussoirs (38) s'enclenchent de manière audible.

Pour le retirer, appuyez sur les boutons-pressions (38) et tirez.

### Réglage du suceur-brosse combiné (voir figure C)

Vous pouvez utiliser le suceur-brosse combiné (28) comme suceur droit ou comme brosse.

Pour utiliser le suceur-brosse combiné (28) comme brosse, appuyez sur la touche de déverrouillage (41) et poussez la brosse vers l'avant.

Pour utiliser le suceur-brosse combiné (28) comme suceur droit, appuyez sur la touche de déverrouillage (41) et tirez la brosse vers l'arrière.

### **Montage du tuyau d'aspiration (voir figure D)**

Retirez l'obturateur (23) du raccord d'aspiration (3).

Emboîtez le tuyau d'aspiration (33) sur le raccord (3) et tournez-le à fond dans le sens horaire.

► **Replacez toujours l'obturateur sur le raccord d'aspiration lorsque vous retirez le tuyau d'aspiration.** Vous évitez ainsi que de la poussière sorte par l'orifice.

**Remarque :** Lors de l'aspiration, le frottement de la poussière contre les parois du tuyau d'aspiration et de l'accessoire génère des charges électrostatiques pouvant donner lieu à des décharges électrostatiques plus ou moins gênantes pour l'utilisateur (dépend des conditions environnementales et de la sensibilité corporelle de chacun). Bosch recommande pour cette raison l'utilisation d'un tuyau d'aspiration antistatique (accessoire) pour l'aspiration de poussières fines et de matières sèches.

### **Fixation du flexible d'aspiration à l'aspirateur (voir figure E)**

Enroulez le flexible d'aspiration (33) raccordé dans le logement de l'aspirateur prévu à cet effet. Tirez les deux sangles (17) vers le haut et accrochez-les au niveau des ouvertures de fixation (18).

### **Remplacement du sac-filtre en non-tissé (aspiration de matières sèches)**

Pour l'aspiration de matières sèches correspondant à la classe de filtration M, vous devez impérativement utiliser soit un sac-filtre en non-tissé (36).

Les matières avec valeur limite d'exposition  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (conformes à la classe de filtration L) peuvent être aspirées directement dans la cuve.

**Remarque :** Lors de l'utilisation d'un sac-filtre en non-tissé, désactivez le nettoyage de filtre automatique (voir « Nettoyage de filtre automatique/manuel (voir figure L) », Page 26).

**A AVERTISSE- MENT** **L'aspirateur contient des poussières nuisibles à la santé. Confiez son vidage, son entretien et le retrait du bac collecteur de poussière à un professionnel qualifié. Le port d'équipements de protection appropriés est obligatoire. N'utilisez l'aspirateur qu'avec le système de filtration complet et bien en place.** Vous mettriez sinon votre santé en danger.

### **Mise en place/retrait du sac-filtre en non-tissé (voir figures F-G)**

Ouvrez les pattes de fermeture (19) et retirez la partie supérieure de l'aspirateur (16).

Pour la mise en place, placez le sac-filtre en non-tissé (36) sur le support de sac-filtre en non-tissé (35) et logez le sac-filtre (36) avec son support (35) dans la cuve (1).

Pour le retrait, fermez l'ouverture du sac-filtre plein en tirant sur la languette. Dégarez le sac-filtre fermé (36) du support de sac-filtre (35) et sortez-le de l'aspirateur.

Remettez en place la partie supérieure (16) de l'aspirateur et fermez les clips de fermeture (19) pour réunir la cuve (1) et la partie supérieure (16).

### **Clipsage d'un coffret L-BOXX (voir figure H)**

Pour ranger et transporter des accessoires de l'aspirateur et/ou un outil électroportatif, vous pouvez clipser un coffret L-BOXX sur la partie supérieure de l'aspirateur.

Fixez le flexible d'aspiration à l'aspirateur (voir figure E).

Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (13).

► **N'utilisez pas l'aspirateur quand un coffret L-BOXX est cliqué.** En présence d'un coffret L-BOXX, le centre de gravité de l'aspirateur est plus haut que la normale. L'aspirateur risque de basculer. Il y a alors risque de blessure et de dommage matériel.

► **Ne portez pas l'aspirateur par la poignée du coffret L-BOXX cliqué.** La poignée du coffret L-BOXX n'est pas prévue pour supporter le poids de l'aspirateur. Il y a alors risque de blessure et de dommage matériel.

### **Montage de la poignée-étier escamotable (voir figures I-J)**

**Remarque :** La poignée-étier escamotable n'est pas démontable. Veillez lors du montage à bien orienter la poignée-étier.

Avant de procéder au montage, vérifiez l'orientation de la poignée-étier (15) au moyen des marquages R (droite) et L (gauche).

Insérez la poignée-étier (15) dans les glissières (42).

Poussez la poignée-étier (15) vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.

Pour modifier la longueur de la poignée-étier (15), appuyez sur le bouton-pression (14).

## **Utilisation**

► **Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche imprudente de l'aspirateur.

### **Mise en marche**

► **Tenez compte de la tension secteur !** La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'aspirateur.

► **Informez-vous sur les directives/lois en vigueur dans votre pays concernant l'exposition aux poussières nocives à la santé.**

L'aspirateur peut être utilisé pour aspirer les matières suivantes :

- Poussières avec une valeur limite d'exposition  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

N'utilisez jamais l'aspirateur dans des pièces ou locaux présentant des risques d'explosion.

Pour disposer de la capacité d'aspiration maximale, déroulez toujours complètement le tuyau d'aspiration (33) de la partie supérieure de l'aspirateur (16).

#### Réglage de la puissance d'aspiration

Le sélecteur de puissance d'aspiration (11) permet de faire varier en continu la puissance d'aspiration.

Pour les applications générant beaucoup de poussière, réglez le sélecteur (11) sur la puissance d'aspiration maximale.

Pour les applications générant peu de poussière et pour réguler la puissance d'aspiration entre l'outil électroportatif raccordé et la surface de la pièce (p. ex. lors de ponçages), placez le sélecteur (11) sur la position pour puissance d'aspiration réduite.

#### Surveillance de débit d'air

L'aspirateur est doté d'une surveillance de débit d'air. La surveillance de débit d'air est préréglée à une valeur de 20 m/s en mode « Aspiration ».

Quand le débit d'air devient inférieur à cette valeur (par ex. en raison de la présence d'un bouchon de saletés dans le flexible d'aspiration, d'un sac-filtre en non-tissé plein ou d'un filtre plissé plat colmaté), l'un des indicateurs LED (7) 22 ou 28 clignote et un signal d'alerte retentit. Dans un tel cas, arrêtez l'aspirateur et contrôlez-le comme indiqué à la section « Dépannage ».

**Remarque :** En cas de raccordement à des outils électroportatifs générant un faible débit d'air dans le flexible d'aspiration (scies sauteuses, ponceuses, etc.), un signal d'alerte peut retentir. Pour éviter le signal d'alerte, il est recommandé d'utiliser en plus un adaptateur d'aspiration adapté avec régulateur d'air (accessoire séparé).

#### Réglage du diamètre du flexible d'aspiration

Diamètre du flexible	Valeur du débit d'air
22 mm	28 m <sup>3</sup> /h
28 mm	45 m <sup>3</sup> /h

Pour réguler la puissance d'aspiration, sélectionnez le diamètre de flexible utilisé.



Appuyez sur la touche Diamètre de flexible d'aspiration (8). L'indicateur LED (7) 22 ou 28 s'allume.

#### Prise électrique de l'aspirateur

► Respectez la puissance de raccordement admissible de la prise électrique de l'aspirateur. Tout dépassement de la puissance de raccordement maximale admissible peut conduire à une surcharge de l'aspirateur. Le disjoncteur de protection du moteur se déclenche. Envoyez l'aspirateur à un centre de Service Après-Vente Bosch agréé.

Après avoir branché le cordon d'alimentation de l'aspirateur dans une prise secteur, la prise électrique pour outils électroportatifs (4) est sous tension dès que l'interrupteur

principal est placé dans la position 1. Elle peut être utilisée comme prise électrique externe, p. ex. lors de travaux avec des systèmes d'aspiration. Dans la position 1+, la fonction de mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur est active. L'aspirateur se met alors en marche automatiquement, en même temps que l'outil électroportatif raccordé.

#### Aspiration de matières sèches

##### Aspiration de poussières déposées



Pour mettre en marche l'aspirateur, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 1.



Pour arrêter l'aspirateur, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 0.

##### Aspiration des poussières produites pendant l'utilisation des outils électroportatifs (voir figure K)

► Au cas où l'air sortant de l'appareil est directement rejeté dans la pièce, il est impératif de veiller à un taux de renouvellement d'air suffisant dans la pièce. Respectez les réglementations nationales en vigueur.

L'aspirateur dispose d'une prise électrique pour outils électroportatifs (4). Vous pouvez raccorder à cette prise un outil électroportatif externe. Tenez compte de la puissance de raccordement maximale admissible de l'outil électroportatif raccordé.

Montez l'adaptateur d'aspiration combiné (29) (voir figure B).

Reliez l'adaptateur d'aspiration combiné (29) au raccord d'aspiration de l'outil électroportatif.



Pour activer la fonction de mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 1+.

Pour mettre en marche l'aspirateur, allumez l'outil électroportatif raccordé à la prise électrique (4). L'aspirateur démarre automatiquement.

Pour arrêter l'aspirateur, éteignez l'outil électroportatif. Afin d'aspirer totalement la poussière encore présente dans le flexible d'aspiration, l'aspirateur continue de fonctionner encore 15 s avant de s'arrêter (fonction arrêt différé).



Pour arrêter l'aspirateur, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 0.

##### Utilisation du système d'aspiration (accessoire)

Raccordez le système d'aspiration au flexible d'aspiration (33).

Pour aspirer les poussières avec le système d'aspiration, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 1.

Appliquez le système d'aspiration contre le mur et allumez l'outil électroportatif. La dépression générée permet au système d'aspiration d'adhérer de lui-même au support (mur).

Éteignez l'outil électroportatif et dégagiez avec précaution le système d'aspiration du mur.



Pour arrêter l'aspirateur, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 0.

## Aspiration de liquides

► N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N'aspirez pas de poussières très chaudes, incandescentes ou explosives. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive. Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.

► N'utilisez pas l'aspirateur comme une pompe à eau. L'aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d'air et d'eau.

**Remarque :** Les exigences pour le degré de perméabilité (classe de filtration M) n'ont été attestées que pour l'aspiration de matières sèches.

### Avant l'aspiration de liquides

Videz la cuve (1) et retirez le sac-filtre en non-tissé (36).

Vérifiez si le capteur de niveau de remplissage (46) n'est pas encrassé. Il faut que le capteur soit propre pour que l'aspirateur s'arrête automatiquement lorsque la cuve est pleine (voir « Nettoyage du capteur de niveau de remplissage (voir figures P-Q) », Page 27).

► Pendant l'aspiration de liquides, le nettoyage de filtre automatique doit être désactivé.

Actionnez la touche Nettoyage de filtre automatique (10) pour activer le nettoyage de filtre manuel (voir « Nettoyage de filtre manuel », Page 26). Cela désactive le nettoyage de filtre automatique, l'indicateur LED A (5) s'éteint.

### Aspiration de liquides

**AVERTISSEMENT** Arrêtez immédiatement l'aspirateur dès que de la mousse ou de l'eau en ressort et videz la cuve.

L'aspirateur risque sinon d'être endommagé.

Pour mettre en marche l'aspirateur, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 1.

L'aspirateur est équipé de capteurs de niveau de remplissage (46). Quand la hauteur de remplissage maximale est atteinte, l'aspirateur s'éteint automatiquement et les deux indicateurs LED A (5) et M (6) clignotent simultanément 1 fois par seconde. La protection anti-redémarrage est active et peut être désactivée en éteignant/rallumant 1 fois l'aspirateur.

**Remarque :** Vérifiez régulièrement le niveau de remplissage et videz la cuve à temps. Si un signal d'alerte retentit pendant l'aspiration de liquides, il n'y a aucune mesure à prendre. La sécurité de fonctionnement de l'aspirateur n'est pas altérée.

Pour arrêter l'aspirateur, placez l'interrupteur principal (2) dans la position 0.

Saisissez la cuve (1) au niveau de la zone de préhension arrière (25) et basculez-la vers l'avant pour la vider.

### Après l'aspiration de liquides

Après chaque aspiration d'un liquide, nettoyez le capteur de niveau de remplissage (46) (voir « Nettoyage du capteur de niveau de remplissage (voir figures P-Q) », Page 27).

Pour éviter la formation de moisissures après avoir aspiré des liquides :

- Retirez le filtre plissé plat (37) et laissez-le bien sécher.
- Retirez la partie supérieure de l'aspirateur (16), ouvrez le couvre-filtre (43) et laissez les deux bien sécher.

### Nettoyage de filtre automatique/manuel (voir figure L)

#### Nettoyage de filtre automatique

**Remarque :** Le nettoyage de filtre automatique est toujours actif à la mise en marche de l'aspirateur (réglage par défaut). L'indicateur LED A (5) est allumé en permanence.

Lorsque le nettoyage de filtre automatique est actif, le filtre plissé plat (37) est nettoyé par 2 jets d'air (bruit de pulsation). Cela se produit dès que le capteur détecte un débit d'air inférieur à un certain seuil.

Une utilisation régulière du nettoyage de filtre prolonge la durée de vie du filtre.

Pour prolonger au maximum la durée de vie du filtre, ne désactivez le nettoyage de filtre automatique que si cela est vraiment nécessaire (p. ex. pour l'aspiration de liquides).

#### Nettoyage de filtre manuel

Actionnez la touche Nettoyage de filtre manuel (9) pour activer le nettoyage de filtre manuel. Le filtre plat plissé (37) est nettoyé par 2 jets d'air. L'indicateur LED M (6) s'allume en blanc pendant 2 s. Dès que l'indicateur LED M (6) s'éteint, un nouveau cycle de nettoyage peut être déclenché. Appuyez pour cela à nouveau sur la touche Nettoyage de filtre manuel (9).

**Remarque :** Il convient d'attendre 2 à 3 s entre chaque actionnement de la touche de nettoyage manuel. Un actionnement répété sans pause de la touche Nettoyage de filtre manuel (9) provoque l'activation de la protection contre la surchauffe de l'aspirateur. La protection contre la surchauffe se désactive automatiquement au bout d'un certain temps (voir « Dépannage », Page 28).

Pour désactiver le nettoyage de filtre manuel, actionnez la touche Nettoyage de filtre automatique (10).

Un filtre plissé encrassé en surface reste entièrement fonctionnel. Il n'est pas nécessaire de nettoyer manuellement le filtre plissé plat en le tapotant ou en soufflant dessus, cela risquerait même de l'endommager.

## Entretien et service après-vente

### Maintenance et nettoyage

► Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de

**changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche imprudente de l'aspirateur.

► **Toujours tenir propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, confiez le remplacement à **Bosch** ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage **Bosch** afin de ne pas compromettre la sécurité.

► **Portez un masque anti-poussières lors de la maintenance et du nettoyage de l'aspirateur.**

Nettoyez de temps en temps le carter de l'aspirateur avec un chiffon humide.

► **Ne nettoyez pas l'aspirateur à l'air comprimé.** Le filtre ou d'autres composants pourraient être endommagés.

Faites effectuer au moins une fois par an un contrôle technique du système d'aspiration (incluant notamment un contrôle de l'état du filtre, de l'étanchéité de l'aspirateur et du fonctionnement correct du dispositif de contrôle) par le fabricant ou par une personne qualifiée.

**Maintenance et nettoyage après l'aspiration de matières nocives pour la santé**

- Toutes les pièces qui sont entrées en contact avec des matières nocives pour la santé doivent être considérées comme étant contaminées.
- Aspirez, essuyez ou étanchez soigneusement l'extérieur de l'aspirateur avant de quitter un espace ou local contenant des matières nocives pour la santé.
- Ne procédez au nettoyage, au démontage et à la maintenance de l'aspirateur que si cela est sans danger pour vous et d'autres personnes. Portez des équipements de protection individuelle lors de tous les travaux de nettoyage et de maintenance. Effectuez les travaux dans un local bien aéré.
- Nettoyez l'extérieur de l'aspirateur avant de le démonter.
- Mettez au rebut (dans des sacs hermétiques) toutes les pièces de l'aspirateur impossibles à nettoyer correctement. Observez ce faisant la législation en vigueur concernant l'élimination de ce type de déchets.
- Nettoyez pour finir le poste de travail.

**Nettoyage de la cuve**

Nettoyez de temps en temps la cuve (1) au moyen d'un détergent non abrasif du commerce et laissez-la sécher.

**Nettoyage/remplacement du filtre plissé plat (voir figures M-N)**

► **Saisissez le couvre-filtre par la patte de fermeture lors de son ouverture et veillez à ce que le couvre-filtre ouvert s'enclenche dans la position verticale.** Une chute du couvre-filtre risquerait de causer des blessures.

Le pouvoir aspirant dépend l'état du filtre. Il est donc important de nettoyer le filtre régulièrement.

Remplacez le filtre plissé plat (37) dès qu'il est endommagé.

- Avant chaque nettoyage/remplacement du filtre plissé plat (37), débranchez le flexible d'aspiration (33) et insé-

rez le bouchon (23) dans l'orifice de raccordement du flexible (3).

- Tirez sur la patte de fermeture (44) et basculez le couvre-filtre (43) vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verticale.
- Saisissez le filtre plissé plat (37) au niveau des nervures et sortez-le par le haut.
- Retirez avec un chiffon humide la poussière et les saletés qui tombent sur le bord de la cuve (1) lors du retrait du filtre plissé plat (37).
- Le filtre plissé plat peut être rincé sous l'eau courante.
- Mettez en place un filtre plissé neuf ou le filtre plissé nettoyé (37) en veillant à son positionnement correct.
- Refermez le couvre-filtre (43) en veillant à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

**Nettoyage du préfiltre (voir figure O)**

► **Le préfiltre ne doit pas être nettoyé avec un liquide.**

► **Ne glissez pas vos doigts entre la poignée-étier et l'aspirateur pour déverrouiller le cache du préfiltre.**

Vous risqueriez de coincer votre main.

Tirez la poignée-étier (15) vers le haut jusqu'à ce que le cache de préfiltre soit librement accessible par l'arrière.

Appuyez sur la touche de déverrouillage (31) du cache de préfiltre (30) et délogez le cache.

Retirez le préfiltre (45).

Brossez les lamelles du préfiltre avec une brosse souple.

Placez le préfiltre dans le cache de préfiltre (30).

Insérez le cache de préfiltre (30) dans le logement de préfiltre en veillant à ce qu'il s'enclenche.

**Nettoyage du capteur de niveau de remplissage (voir figures P-Q)**

Débranchez le câble de l'aspirateur de la prise secteur.

Retirez la partie supérieure de l'aspirateur (16).

Videz la cuve (1).

Secouez le flotteur (47) ou tapotez-le légèrement pour faire tomber la poussière.

Nettoyez le flotteur (47) avec un chiffon doux.

Retirez le flotteur si nécessaire. Pour cela, appuyez sur le verrouillage (48) et sortez le flotteur (47).

Nettoyez l'aimant (49) avec une brosse.

Remettez en place le flotteur (47).

**Rangement et transport**

**Rangement**

- Enroulez le câble d'alimentation secteur autour du fixe-câble (24).
- Logez les accessoires dans les fixations prévues à cet effet.
- Enroulez le flexible d'aspiration (33) dans le logement prévu à cet effet. Tirez les deux sangles (17) vers le haut et accrochez-les au niveau des ouvertures de fixation.
- Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (13).
- Retirez le sac-filtre en non-tissé dès qu'il est plein.
- Ne portez l'aspirateur que par la poignée (12).

- Pour transporter l'aspirateur, insérez le bouchon (23) dans l'orifice de raccordement du flexible (3).
- Rangez l'aspirateur dans un local sec avec un sol plan et assurez-vous qu'il ne puisse pas être utilisé par une personne non autorisée.
- Bloquez les roues pivotantes (21) en actionnant le frein (22).

#### Transport (voir figure R)

- Pour transporter l'aspirateur, insérez le bouchon (23) dans l'orifice de raccordement du flexible (3).
- Pour simplifier le transport et ménager votre dos, videz la cuve complètement ou retirez le sac-filtre en non-tissé s'il est plein.
- Ne portez l'aspirateur que par la poignée (12).

- Déverrouillez le frein de roue pivotante (22) pour déplacer l'aspirateur.
- Ne déplacez l'aspirateur qu'au moyen de la poignée-étrier (15) déployée à fond. Ne montez pas des marches d'escalier en tirant l'aspirateur par la poignée-étrier. Utilisez pour cela la poignée de transport.
- Lorsque vous portez l'aspirateur dans un escalier, veillez à ce que personne ne se trouve directement derrière vous car il y a risque de blessure au cas où l'aspirateur devait basculer vers l'arrière accidentellement.

#### Dépannage

- En présence d'un dysfonctionnement (par ex. déchirement du filtre), arrêtez aussitôt l'aspirateur. Supprimez la cause du dysfonctionnement avant de remettre en marche l'aspirateur.

Problème	Remède
La turbine d'aspiration ne fonctionne pas.	Contrôlez le cordon d'alimentation et son connecteur, la prise électrique et les capteurs de niveau de remplissage (46). L'interrupteur principal (2) se trouve sur « Mise en marche/arrêt automatique ». Placez l'interrupteur principal (2) sur le symbole « Aspiration » ou allumez l'outil électroportatif raccordé à la prise électrique (4).
La turbine d'aspiration s'arrête.	Lors de l'aspiration de liquides, les indicateurs LED <b>A</b> et <b>M</b> clignotent lentement et simultanément. Videz la cuve (1). Lors de l'aspiration de matières sèches, les indicateurs LED <b>A</b> et <b>M</b> clignotent rapidement et simultanément : la protection contre les surcharges de la prise électrique de l'aspirateur est active. Éteignez l'outil électroportatif.
L'aspirateur s'arrête.	Surcharge de l'aspirateur suite au dépassement de la tension maximale au niveau de la prise électrique de l'aspirateur : le disjoncteur de protection moteur a déclenché. Envoyez l'aspirateur à un centre de Service Après-Vente Bosch agréé.
La turbine d'aspiration ne fonctionne plus après le vidage de la cuve.	Arrêtez l'aspirateur, attendez 5 s puis remettez-le en marche après 5 s. Nettoyez les capteurs de niveau de remplissage (46) et l'espace entre les capteurs de niveau de remplissage (46) avec une brosse.
Le pouvoir aspirant diminue.	Débouchez la buse d'aspiration, le tube d'aspiration , le flexible d'aspiration (33) ou le filtre plissé plat (37). Remplacez le sac-filtre en non-tissé (36). Emboîtez correctement le couvre-filtre (43). Il doit s'enclencher. Remettez en place correctement la partie supérieure de l'aspirateur (16) et verrouillez correctement les pattes de fermeture (19). Nettoyez ou remplacez le filtre plissé plat (37).
Rejet de poussières lors de l'aspiration	Vérifiez si le filtre plissé plat (37) est bien en place. Nettoyez ou remplacez le filtre plissé plat (37).
L'arrêt automatique (aspiration de liquides) ne fonctionne pas.	Nettoyez les capteurs de niveau de remplissage (46) et l'espace entre les capteurs de niveau de remplissage (46) avec un chiffon. Contrôlez régulièrement le niveau de remplissage.
Un signal d'alerte retentit.	Une puissance d'aspiration trop faible a été réglée. Placez le sélecteur (11) sur une valeur plus élevée.

Problème	Remède
	Le mauvais diamètre de flexible a été sélectionné. <u>Réglez le bon diamètre de flexible d'aspiration.</u>
	Flexible d'aspiration (33) obturé ou trop coudé. <u>Débouchez le flexible ou supprimez le coude.</u>
	Sac-filtre en non-tissé plein <u>Remplacez le sac-filtre en non-tissé (36).</u>
	Filtre plissé plat (37) encrassé. <u>Nettoyez le filtre plissé plat ou remplacez-le si nécessaire.</u>
	Débit d'air pas suffisant pour l'outil électroportatif raccordé Si existant : Ouvrez le régulateur d'air de l'outil électroportatif ou utilisez un adaptateur d'aspiration approprié avec régulateur d'air. Dysfonctionnement de l'électronique de surveillance <u>Contactez un centre de service après-vente agréé outillage Bosch.</u>
Un signal d'alerte retentit lors de l'aspiration de liquides.	Aucune mesure n'a besoin d'être prise.
Le nettoyage de filtre automatique ne fonctionne pas.	Le nettoyage de filtre automatique ne s'active que lorsque le débit d'air devient inférieur à un certain seuil. Pour vérifier le fonctionnement ou pour activer le nettoyage de filtre manuel, sélectionnez le mode manuel en actionnant la touche Nettoyage de filtre manuel (9).
Le nettoyage de filtre manuel ne se laisse pas activer.	<p>La protection contre la surchauffe de l'aspirateur est active.</p> <p>La protection contre la surchauffe s'est déclenchée après 10 actionnements successifs de la touche Nettoyage de filtre manuel (9). La protection contre la surchauffe se désactive automatiquement au bout de 20 s.</p> <p>La protection contre la surchauffe s'est déclenchée après 30 actionnements successifs de la touche Nettoyage de filtre manuel (9). La protection contre la surchauffe se désactive automatiquement au bout de 4 min.</p> <p>Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente agréé Bosch.</p>
Le nettoyage de filtre automatique ne fonctionne pas.	Contactez un centre de service après-vente agréé outillage Bosch.

## Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de recharge. Des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de recharge se trouvent également sous : [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de recharge, nous préciser impérativement le numéro d'article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du produit.

### Maroc

Robert Bosch Morocco SARL  
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed  
20300 Casablanca  
Tel. : +212 5 29 31 43 27  
E-Mail : [sav.outillage@ma.bosch.com](mailto:sav.outillage@ma.bosch.com)

## Vous trouverez d'autres adresses de service sous :

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Élimination des déchets

Les aspirateurs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas l'aspirateur avec les ordures ménagères !

## Português

### Instruções de segurança para aspiradores



**Leia todas as instruções de segurança e instruções.** A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

**Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.**

- **Este aspirador não se destina a ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insuficientes.** Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.
- **Vigie as crianças.** Desta forma garante que nenhuma criança brinca com o aspirador.
- **Respeite todas as normas de segurança para as substâncias a aspirar.**

**AVISO** Nunca aspire substâncias que contenham asbesto. Asbesto é considerado como sendo cancerígeno.

**AVISO** Use o aspirador apenas se tiver recebido informações suficientes para o uso, para os materiais a aspirar e para a eliminação segura dos mesmos. Uma instrução cuidadosa reduz as operações erradas e lesões.

**AVISO** O aspirador é apropriado para aspirar substâncias secas e, através de medidas apropriadas, também para aspirar líquidos. A entrada de líquidos aumenta o risco de choque elétrico.

► Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós, os vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.

**AVISO** Só utilizar a tomada para as finalidades determinadas nas instruções de serviço.

**AVISO** Desligue imediatamente o aspirador assim que sair espuma

**ou água e esvazie o recipiente.** Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

- **ATENÇÃO! O aspirador só deve ser armazenado em recintos fechados.**
- **ATENÇÃO! Limpe regularmente os sensores do nível de enchimento para líquidos e verifique se estão danificados.** Caso contrário a função pode ser prejudicada.
- **Se não for possível evitar o funcionamento do aspirador em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque elétrico.
- **Antes de qualquer utilização, verifique o aspirador, o cabo e a ficha.** Não utilize o aspirador se detetar danos no mesmo. Não abra o aspirador, as reparações devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico qualificado e devem ser usadas somente peças de substituição originais. Aspiradores, cabos e fichas danificados aumentam o risco de choque elétrico.
- **Não passe por cima do cabo, nem o esmague. Não puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada nem para deslocar o aspirador.** Cabos danificados aumentam o risco de um choque elétrico.
- **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.
- **Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho.**
- **Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas com peças de substituição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do aspirador.
- **Se o aspirador tiver sido utilizado em áreas com substâncias prejudiciais para a saúde, então aspire, limpe ou vede o exterior do aspirador antes de o retirar da área de perigo.** Todas as peças do aspirador são consideradas contaminadas e tem de assegurar com medidas adequadas que as substâncias prejudiciais para a saúde não se podem espalhar.
- **AVISO** O aspirador contém pó prejudicial para a saúde. Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó, exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não use o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário estará a pôr em risco a sua saúde.
- **Antes da colocação em funcionamento, controle o estado impecável da mangueira de aspiração. Deixe a mangueira de aspiração montada no aspirador para não sair inadvertidamente pó.** Caso contrário, poderá inalar o pó.
- **Não utilize o aspirador como assento.** O aspirador pode ser danificado.

- **Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiração com muito cuidado.** É possível que outras pessoas sejam colocadas em perigo.
- **Não limpe o aspirador com um jato de água direto.** A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de um choque elétrico.
- **Ligue o aspirador a uma rede elétrica ligada corretamente à terra.** A tomada e o cabo de extensão têm de ter um condutor de proteção funcional.
- **Não utilize a tomada no aspirador ao aspirar líquidos ou num ambiente húmido.** Através do contacto com água existe o perigo de curto-círcito ou de um choque elétrico.

## Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização do seu aspirador. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A correta interpretação dos símbolos ajuda-o a utilizar o aspirador melhor e com mais segurança.

### Símbolos e seus significados



#### **AVISO! Leia todas as instruções de segurança e instruções.**

A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/o ferimentos graves.



Aspirador da classe de pó M segundo IEC/EN 60335-2-69 para **aspirar a seco** pós prejudiciais para a saúde com valor limite de exposição  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**AVISO! O aspirador contém pó prejudicial para a saúde. Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó, exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não use o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado.** Caso contrário estará a pôr em risco a sua saúde.



**max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg**

Engatar no máximo apenas uma L-Boxx.

O peso da L-Boxx com o conteúdo não pode exceder os 15 kg.


### Símbolos e seus significados



**Não pendure o aspirador, p.ex. para efeitos de transporte, num gancho de grua.** O aspirador não pode ser transportado por grua. Existe perigo de ferimentos e danos.



**Não utilize o aspirador como assento, escada ou base.** O aspirador pode tomar e ser danificado. Existe perigo de ferimentos.

**A****A**

Indicador LED do modo de limpeza automática do filtro

**M****M**

Indicador LED do modo de limpeza manual do filtro

**28/22****28/22**

Indicador LED do diâmetro da mangueira de aspiração



Tecla Limpeza automática do filtro



Tecla Limpeza manual do filtro



Tecla Diâmetro da mangueira de aspiração (débito volúmico)



#### **Sistema start/stop automático**

Aspirar o pó resultante de ferramentas elétricas em funcionamento; o aspirador liga-se automaticamente e desliga-se de forma retardada. A tomada no aspirador encontra-se permanentemente sob tensão.



#### **Desligar**

A tomada no aspirador encontra-se sem corrente.



#### **Aspirar**

Aspirar o pó depositado e o pó do sistema de aspiração. A tomada no aspirador encontra-se permanentemente sob tensão.



#### **Min./Máx.**

Regulação contínua da potência de aspiração:

- máximo poder de aspiração para aplicação com forte formação de pó
- poder de aspiração reduzido para aplicações com pouca formação de pó

### Símbolos e seus significados



**max.**  
2100 W  
**min.**  
100 W

e para regular a força de aspiração entre a ferramenta elétrica conectada e a superfície da peça (p. ex. ao lixar)

O registo de dados está ativado neste aspirador.

Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada (específico do país)

## Descrição do produto e do serviço

Favor observar as ilustrações na parte dianteira deste manual de instruções.

### Utilização adequada

O aspirador destina-se a recolher, aspirar, transportar e separar pó seco não inflamável e líquidos não inflamáveis. O aspirador foi testado contra pó e corresponde à classe de pó M. É adequado para as elevadas exigências na utilização profissional, p. ex. nas artes e ofícios, na indústria e nas oficinas.

Os aspiradores da classe de pó M segundo IEC/EN 60335-2-69 destinam-se apenas a aspirar pó prejudiciais para a saúde com um valor limite de exposição  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Use o aspirador carregador apenas se souber avaliar e usar todas as funções sem limitações e se tiver recebido instruções suficientes sobre as mesmas.

### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do aspirador na página de esquemas.

- (1) Depósito
- (2) Interruptor principal
- (3) Encaixe da mangueira
- (4) Tomada para a ferramenta elétrica
- (5) Indicador LED A Modo de limpeza automática do filtro
- (6) Indicador LED M Modo de limpeza manual do filtro
- (7) Indicador LED 22/28 Diâmetro da mangueira de aspiração
- (8) Tecla Diâmetro da mangueira de aspiração (débito volúmico)
- (9) Tecla Limpeza manual do filtro

- (10) Tecla Limpeza automática do filtro
- (11) Regulador do poder de aspiração
- (12) Pega de transporte
- (13) Encaixe L-BOXX
- (14) Botão de pressão do estribo guia
- (15) Estribo guia extraível
- (16) Parte superior do aspirador
- (17) Tira de tração
- (18) Abertura de fixação
- (19) Fecho para a parte superior do aspirador
- (20) Roda
- (21) Rotele de guia
- (22) Travão do rolete de guia
- (23) Tampão de fecho para a conexão de aspiração
- (24) Suporte do cabo
- (25) Área de agarre posterior
- (26) Suporte para bocal para chão
- (27) Bocal para chão
- (28) Bocal para escova combinado
- (29) Adaptador de aspiração combinado (para ferramenta elétrica)
- (30) Cobertura do pré-filtro
- (31) Tecla de desbloqueio do pré-filtro
- (32) Tubo de aspiração
- (33) Mangueira de aspiração
- (34) Bocal curvo
- (35) Suporte do saco de filtro de velo
- (36) Saco de filtro de velo
- (37) Filtro de pregas planas
- (38) Botão de pressão da mangueira de aspiração
- (39) Adaptador PowerTool (peça dianteira)
- (40) Adaptador PowerTool (peça posterior)
- (41) Tecla de desbloqueio do bocal para escova combinado
- (42) Calhas de guia para o estribo guia extraível
- (43) Cobertura do filtro de pregas planas
- (44) Patilha de fecho da cobertura do filtro
- (45) Pré-filtro
- (46) Sensor do nível de enchimento
- (47) Flutuador
- (48) Bloqueio do flutuador
- (49) Íman

## Dados técnicos

Aspirador universal		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
Número de produto 3 601 JMO ...		... 120/... 1F0 ... 180/... 1E0/... 1N0 ... 1K0 ... 1L0/... 170 ... 1H0 ... 130	... 1D0/... 1G0 ... 1C0 ... 160
Potência nominal absorvida	W	1200	1200
Frequência	Hz	50–60	60
Capacidade do depósito (bruto)	l	40	40
Volume líquido (seco)	l	28	26
Volume líquido (líquido)	l	20	18
Volume do saco de filtro de velo	l	19	19
Vácuo <sup>A)</sup>			
– Aspirador	hPa	220	180
– Turbina	hPa	230	200
Fluxo <sup>A)</sup>			
– Aspirador	l/s m <sup>3</sup> /h	28 100,8	26 93,6
– Turbina	l/s m <sup>3</sup> /h	71,5 257	70 252
Classe de pó		M	M
Peso <sup>B)</sup>	kg	14,1	14,5
Classe de proteção		⊕/I	⊕/I
Tipo de proteção		IPX4	IPX4

A) medido com uma mangueira de aspiração Ø 28 mm e 4 m de comprimento

B) Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

As informações aplicam-se às tensões nominais indicadas. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

## Tomada no aspirador

3 601 JMO ...	Tensão nominal	Potência máxima	Potência mínima
... 120/... 1F0	230 V	2100 W	100 W
... 180/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1K0	220–230 V	2100 W	100 W
... 1L0/... 170	220–240 V	1660 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 130	230 V	1100 W	100 W
... 1D0/... 1G0	127 V	705 W	100 W
... 1C0	115 V	525 W	100 W
... 160	110 V	560 W	100 W

Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada.

No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicações na tomada do aspirador.

## Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 60335-2-69**.

O nível de pressão sonora avaliado como A do aspirador é normalmente **74 dB(A)**. Incerteza K = **2 dB**. O nível sonoro durante os trabalhos pode ultrapassar os valores indicados.

### Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração  $a_h$  (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo

**EN 60335-2-69:**

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ , K =  $1,5 \text{ m/s}^2$ .

## Montagem

- **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

### Montar acessórios de aspiração (ver figura A)

A mangueira de aspiração (33) está equipada com um sistema de clipe, com o qual podem ser conectados acessórios de aspiração (adaptador de aspiração combinado (29), bocal curvo (34), bocal para escova combinado (28)).

#### Montar o bocal curvo

- Insira o bocal curvo (34) na mangueira de aspiração (33) até os dois botões de pressão (38) da mangueira de aspiração engatarem de forma audível.
- Para desmontar, prima os botões de pressão (38) para dentro e separe os componentes.

#### Montar bocal para chão e tubos

- Insira os tubos de aspiração (32) bem um no outro e depois no bocal curvo (34).
- Insira bem o bocal para chão (27) no tubo de aspiração (32) ou no bocal curvo (34).

#### Montar o adaptador de aspiração combinado

O adaptador de aspiração combinado (29) é composto pelo adaptador PowerTool (peça dianteira) (39) e pelo adaptador PowerTool (peça posterior) (40).

O adaptador de aspiração combinado (29) é compatível com ferramentas elétricas Bosch.

O adaptador PowerTool (peça posterior) (40) pode ser utilizado com ferramentas elétricas de outros fabricantes devido ao seu diâmetro interior de 38,5 mm e ao diâmetro exterior de 45 mm.

Insira o adaptador PowerTool (peça dianteira) (39) no adaptador PowerTool (peça posterior) (40) e ligue os dois adaptadores rodando opostamente (ver figura B).

Insira o adaptador de aspiração combinado (29) na mangueira de aspiração (33), até que os dois botões de pressão (38) da mangueira de aspiração engatem de forma audível.

Para desmontar, pressione os botões de pressão (38) para dentro e retire o adaptador de aspiração combinado da mangueira de aspiração.

Para separar os dois adaptadores, solte a ligação rodando opostamente e separe os adaptadores.

#### Montar o bocal para escova combinado

Insira o bocal para escova combinado (28) na mangueira de aspiração (33), até que os dois botões de pressão (38) da mangueira de aspiração engatem de forma audível.

Para desmontar, prima os botões de pressão (38) para dentro e separe os componentes.

#### Ajustar o bocal para escova combinado (ver figura C)

Pode utilizar o bocal para escova combinado (28) como bocal para juntas ou escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (41) e empurre a escova para a frente, para utilizar o bocal para escova combinado (28) como escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (41) e puxe a escova para trás, para utilizar o bocal para escova combinado (28) como bocal para juntas.

#### Montar a mangueira de aspiração (ver figura D)

Retire o tampão de fecho (23) do encaixe da mangueira (3). Insira a mangueira de aspiração (33) na respetiva fixação da mangueira (3) e rode-a para a direita até ao batente.

#### ► Feche sempre a conexão de aspiração com o tampão de fecho quando retira a mangueira de aspiração.

Deste modo evita a saída de pó.

**Nota:** Ao aspirar, forma-se carga eletrostática, através da fricção do pó na mangueira e nos acessórios de aspiração, que é perceptível ao utilizador na forma de descarga estática (dependente das influências ambientais e da sensibilidade do corpo).

Por norma, a Bosch recomenda uma mangueira de aspiração antiestática (acessórios) para aspirar pó fino e materiais secos.

#### Fixar a mangueira de aspiração no aspirador (ver figura E)

Enrole a mangueira de aspiração montada (33) no compartimento para a mesma. Puxe as duas alças de retenção (17) e enganche-as nas aberturas de fixação (18).

#### Trocar o saco de filtro de velo (aspirar a seco)

Para aspirar a seco substâncias da classe de poeiras M tem de usar um saco de filtro de velo (36).

Desde que sejam aspiradas substâncias sem ou com um valor limite de exposição  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (de acordo com a classe de poeiras L), as mesmas podem ser aspiradas diretamente para o depósito.

**Nota:** na utilização do saco de filtro de velo desligue a limpeza automática do filtro (ver "Limpeza do filtro automática/manual (ver figura L)", Página 37).



**O aspirador contém pó prejudicial para a saúde. Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a**

**eliminação do recipiente coleto de pó, exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não use o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado.** Caso contrário estará a pôr em risco a sua saúde.

#### Colocar/retirar o saco de filtro de velo (ver figuras F–G)

Abra os fechos (19) e retire a parte superior do aspirador (16).

Para colocar, insira o saco de filtro de velo (36) no respetivo suporte (35) e coloque o saco de filtro de velo (36) com o respetivo suporte (35) no recipiente (1).

Para retirar, feche a abertura do saco de filtro de velo cheio puxando pelo fecho. Puxe o saco de filtro de velo fechado (36) do respetivo suporte (35) e retire-o do aspirador.

Coloque novamente a parte superior do aspirador (16) e ligue-a fechando os fechos (19) do recipiente (1) com a parte superior do aspirador (16).

#### Engatar a L-BOXX (ver figura H)

Para o transporte do aspirador e para o acondicionamento em pouco espaço dos acessórios de aspiração e/ou ferramenta elétrica, pode engatar uma L-BOXX na parte superior do aspirador.

Fixe a mangueira de aspiração no aspirador (ver figura E). Engate a L-BOXX nos encaixes (13).

- **Não aspire com a L-BOXX engatada.** O centro de gravidade do aspirador desloca-se para cima. O aspirador pode tombar. Existe perigo de ferimentos e danos.
- **Não transporte o aspirador na pega de transporte da L-BOXX engatada.** O aspirador é demasiado pesado para a pega de transporte da L-BOXX. Existe perigo de ferimentos e danos.

#### Montar o estribo guia extraível (ver figuras I–J)

**Nota:** o estribo guia extraível não pode ser desmontado. Tenha atenção ao alinhamento correto do estribo guia durante a montagem.

Antes da colocação, alinhe o estribo guia (15) com base nas marcações R (direita) e L (esquerda).

Coloque o estribo guia (15) nas calhas de guia (42).

Pressione para baixo o estribo guia (15) até à linha de encosto, até que o estribo guia engate de forma audível.

Pressione o botão de pressão (14), para alterar o comprimento do estribo guia (15).

## Funcionamento

- **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

#### Colocação em funcionamento

► **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com a que consta na chapa de identificação do aspirador.

► **Informe-se a respeito das regras/leis vigentes no seu país, para o manuseio de pós nocivos à saúde.**

O aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes materiais:

- pós não prejudiciais para a saúde com um valor limite de exposição  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

O aspirador não deve ser utilizado em recintos com perigo de explosão.

Para garantir um poder de aspiração ideal, tem de desenrolar por completo a mangueira de aspiração (33) da parte superior do suporte (16).

#### Regular a potência de aspiração

Através do regulador da potência de aspiração (11) pode regular progressivamente a potência de aspiração.

Coloque o regulador da potência de aspiração (11) na potência de aspiração máxima para aplicações com forte formação de pó.

Coloque o regulador da potência de aspiração (11) na posição de potência de aspiração reduzida, para aplicações com reduzida formação de pó e para regular a força de aspiração entre a ferramenta elétrica conectada e a superfície da peça (p. ex. ao lixar).

#### Monitorização do débito volátmico

O aspirador dispõe de uma monitorização do débito volátmico. A monitorização do débito volátmico está definida, no modo de operação "Aspirar" para um valor de 20 m/s. Se este valor não for alcançado, p. ex. devido a sujeira acumulada na mangueira de aspiração, a um saco de filtro de velo cheio ou a um filtro de pregas planas entupido, um dos indicadores (7) 22 ou 28 pisca e soa um sinal de aviso acústico. Neste caso, desligue o aspirador e verifique o mesmo tal como descrito na secção "Eliminar falhas".

**Nota:** ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja alimentação de ar na mangueira de aspiração é reduzida (p. ex. serras verticais, lixeadeiras etc.), pode soar um sinal de aviso acústico. Para evitar a mensagem de aviso, é recomendado utilizar adicionalmente um adaptador de aspiração adequado com abertura de ar complementar do programa de acessórios.

#### Ajustar o diâmetro da mangueira

Diâmetro da mangueira	Valor de ajuste do débito volátmico
22 mm	28 m <sup>3</sup> /h
28 mm	45 m <sup>3</sup> /h

Para regular o poder de aspiração, selecione o diâmetro da mangueira utilizado.



Pressione a tecla Diâmetro da mangueira de aspiração (8). O indicador LED (7) 22 ou 28 acende-se.

### **Tomada no aspirador**

- **Observe a potência de conexão admissível da tomada no aspirador. Exceder a potência de conexão máxima admissível pode causar sobrecarga no aspirador. O fusível de proteção do motor dispara.** Envie o aspirador para um posto de assistência técnica Bosch autorizado.

Assim que a ficha de rede do aspirador estiver encaixada na tomada e o interruptor principal estiver na posição **1**, a tomada para ferramentas elétricas (**4**) fica sob tensão. Esta pode ser utilizada como tomada elétrica externa no aspirador, p. ex. ao trabalhar com sistemas de aspiração. Na posição **1+** o sistema start/stop automático do aspirador está ativado. O aspirador pode ser ligado remotamente através da ferramenta elétrica conectada.

### **Aspirar a seco**

#### **Aspirar pó depositado**



Para **ligar o aspirador**, rode o interruptor principal (**2**) para a posição **1**.



Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal (**2**) para a posição **0**.

#### **Aspiração de pó produzido durante o funcionamento de ferramentas elétricas (ver figura K)**

- **Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto. Observe as respetivas diretrizes nacionais.**

No aspirador está integrada uma tomada para ferramentas elétricas (**4**). Pode ligar uma ferramenta elétrica externa a esta tomada. Respeite a potência de ligação máxima permitida da ferramenta elétrica ligada.

Monte o adaptador de aspiração combinado (**29**) (ver figura **B**).

Insira o adaptador de aspiração combinado (**29**) no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.



Para **ligar o sistema start/stop automático** do aspirador, rode o interruptor principal (**2**) para a posição **1+**.

Para a **colocação em funcionamento do aspirador** ligue a ferramenta elétrica conectada à tomada (**4**). O aspirador inicia-se automaticamente.

Desligue a ferramenta elétrica para **terminar a aspiração**. A função de inércia do sistema start/stop automático funciona durante 15 s para aspirar o pó residual da mangueira de aspiração.



Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal (**2**) para a posição **0**.

### **Utilização do sistema de aspiração (acessório)**

Ligue o sistema de aspiração à mangueira de aspiração (**33**).

- 1 **Para aspirar pós através do sistema de aspiração**, rode o interruptor principal (**2**) para a posição **1**.

Mantenha o sistema de aspiração na parede e ligue a ferramenta elétrica. O sistema de aspiração adere automaticamente à parede devido ao vácuo gerado. Desligue a ferramenta elétrica e retire cuidadosamente o sistema de aspiração da parede.



Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal (**2**) para a posição **0**.

### **Aspirar em molhado**

- **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes, ardentes ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, os vapores ou os líquidos podem inflamar ou explodir.
- **O aspirador não pode ser operado como bomba de água.** O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de água.

**Nota:** Os requisitos em termos de grau de permeabilidade (classe de poeiras M) foi apenas comprovado para aspirar a seco.

#### **Antes de aspirar em molhado**

Esvazie o recipiente (**1**) e retire o saco de filtro de velo (**36**). Verifique o sensor do nível de enchimento (**46**) quanto a sujidade. Apenas um sensor do nível de enchimento limpo permite o desligamento automático do aspirador quando o nível máximo de enchimento do recipiente é alcançado (ver "Limpar o sensor do nível de enchimento (ver figuras **P-Q**)", Página 38).

- **A limpeza automática do filtro tem de estar desativada durante a aspiração de líquidos.**

Pressione a tecla Limpeza automática do filtro (**10**), para ativar a limpeza manual do filtro (ver "Limpeza manual do filtro", Página 37). Deste modo, a limpeza automática do filtro é desativada e o indicador LED **A** (**5**) apaga-se.

#### **Aspirar líquidos**

- AVISO** **Deslique imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvazie o recipiente.** Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

Para **ligar o aspirador**, rode o interruptor principal (**2**) para a posição **1**.

O aspirador está equipado com sensores do nível de enchimento (**46**). Quando a altura máxima de enchimento é alcançada, o aspirador desliga-se automaticamente e os dois indicadores LED **A** (**5**) e **M** (**6**) piscam simultaneamente 1 vez por segundo. A proteção contra rearranque

involuntário está ativada e pode ser desativada ligando/desligando 1 vez o aspirador.

**Nota:** verifique regularmente o nível de enchimento e esvazie o recipiente atempadamente. Se durante a aspiração de líquidos soar um sinal de aviso acústico, não têm de ser adotadas quaisquer medidas. A segurança de funcionamento do aspirador não é prejudicada.

Para **desligar o aspirador**, rode o interruptor principal (2) para a posição **0**.

Agarre o recipiente (1) na área de agarre posterior (25) e incline-o para a frente para esvaziar o líquido.

#### Após a aspiração de líquidos

Após cada aspiração de líquidos, limpe o sensor do nível de enchimento (46) (ver "Limpar o sensor do nível de enchimento (ver figuras P–Q)", Página 38).

Para evitar a formação de bolor depois de aspirar líquidos:

- Retire o filtro de pregas (37) e deixe-o secar bem.
- Retire a parte superior do aspirador (16), abra a cobertura do filtro (43) e deixe secar ambas muito bem.

#### Limpeza do filtro automática/manual (ver figura L)

##### Limpeza automática do filtro

**Nota:** por norma, está definida a limpeza automática do filtro quando o aspirador é ligado.

O indicador LED A (5) acende-se permanentemente.

Na limpeza automática do filtro, o filtro de pregas planas (37) é limpo por 2 sopros de ar (ruído pulsante). Tal sucede assim que o sensor deteta que o fluxo de ar cai abaixo de um determinado nível.

Uma realização regular da limpeza do filtro aumenta a vida útil do filtro.

Para conseguir a melhor durabilidade do filtro, desative a limpeza automática do filtro apenas em casos excepcionais, p. ex. ao aspirar líquidos.

##### Limpeza manual do filtro

Pressione a tecla Limpeza manual do filtro (9), para efetuar a limpeza manual do filtro. O filtro de pregas planas (37) é limpo por 2 sopros de ar. O indicador LED M (6) acende-se a branco durante 2 s. Quando o indicador LED M (6) se apaga, o sopro de ar seguinte pode ser ativado. Para o efeito, pressione novamente a tecla Limpeza manual do filtro (9).

**Nota:** na limpeza manual do filtro, tenha em atenção que cada pressão na tecla deve ser feita com um intervalo de 2–3 s. Pressionando várias vezes a tecla Limpeza manual do filtro (9) de forma contínua faz com que a proteção contra sobreaquecimento do aspirador seja ativada. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após algum tempo (ver "Eliminar falhas", Página 38).

Para desligar a limpeza manual do filtro, pressione a tecla Limpeza automática do filtro (10).

Um filtro de pregas com superfície suja está operacional. Uma limpeza manual do filtro de pregas através de batimentos e sopro não é necessária e pode até danificar o filtro.

## Manutenção e assistência técnica

### Manutenção e limpeza

► **Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

► **Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela **Bosch** ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas **Bosch**, para evitar perigos de segurança.

► **Use uma máscara de proteção durante a manutenção e limpeza do aspirador.**

De tempos a tempos, limpe a carcaça do aspirador com um pano húmido.

► **Não limpe o aspirador com ar comprimido.** O filtro ou outros componentes podem ficar danificados.

No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída (p. ex. verificar se há danos no filtro, controlar a estanqueidade do aspirador e o bom funcionamento dos dispositivos de controlo).

### Limpeza e manutenção após a aspiração de substâncias prejudiciais à saúde

- Considere todas as peças que possam ter entrado em contacto com substâncias prejudiciais à saúde como contaminadas.
- Aspire, limpe ou vede minuciosamente o exterior do aspirador antes de o retirar da área com substâncias prejudiciais à saúde.
- Limpe, desmonte e faça a manutenção do aspirador apenas se não representar perigo para si e para outras pessoas. Use equipamento de proteção individual durante a manutenção e limpeza. Efetue os trabalhos num espaço bem ventilado.
- Limpe primeiro o exterior do aspirador antes de o desmontar.
- Elimine todas as peças do aspirador que não possam ser limpas satisfatoriamente em sacos impermeáveis. No processo, observe os regulamentos aplicáveis para a eliminação desses resíduos.
- Limpe a área de manutenção após a conclusão dos trabalhos.

### Limpar o recipiente

Lave o recipiente (1) de tempos a tempos com um detergente convencional não abrasivo e depois deixe-o secar.

### Limpar/trocar o filtro de pregas planas (ver figuras M–N)

► **Agarre a cobertura do filtro pela patilha de fecho ao abrir e certifique-se de que a cobertura do filtro**

**engata na posição vertical.** Existe perigo de ferimentos se a cobertura do filtro cair.

O poder de aspiração depende do estado do filtro. Por isso, limpe regularmente o filtro.

Substitua imediatamente um filtro de pregas (37) danificado.

- Antes de cada limpeza/troca do filtro de pregas planas (37) desmonte a mangueira de aspiração (33) e coloque o tampão de fecho (23) no encaixe da mangueira (3).
- Puxe a patilha de fecho (44) e vire a cobertura do filtro (43) para cima até que engate na posição vertical.
- Segure o filtro de pregas (37) pelas barras e retire-o puxando para cima.
- Remova o pó e a sujidade, que ocorre ao remover o filtro de pregas planas (37) da borda do recipiente (1) com um pano húmido.
- O filtro de pregas planas pode ser lavado sob água corrente.
- Coloque o filtro de pregas planas (37) limpo ou um novo e certifique-se do assento correto e seguro.
- Feche a cobertura do filtro (43), de modo a que engate de forma audível.

#### Limpar o pré-filtro (ver figura O)

► **O pré-filtro não pode ser molhado quando é limpo.**

► **Não agarre por cima entre o estribo guia e o aspirador para desbloquear a cobertura do pré-filtro.** Caso contrário, poderá entalar a sua mão.

Puxe o estribo guia (15) para cima, até que a cobertura do pré-filtro fique acessível a partir de trás.

Pressione a tecla de desbloqueio (31) da cobertura do pré-filtro (30) e retire-a do compartimento do pré-filtro.

Retire o pré-filtro (45).

Escove as lamelas do pré-filtro com uma escova macia.

Coloque o pré-filtro na respetiva cobertura (30).

Coloque a cobertura do pré-filtro (30) no compartimento do pré-filtro e feche-o.

#### Limpar o sensor do nível de enchimento (ver figuras P-Q)

Retire a ficha de rede do aspirador da tomada.

Retire a parte superior do aspirador (16).

Esvazie o depósito (1).

Mova o flutuador (47) ou bata-o ligeiramente para remover a sujidade.

Limpe o flutuador (47) com um pano macio.

Se necessário, também pode retirar o flutuador. Para efeito, pressione o bloqueio (48) e retire o flutuador (47).

Limpe o íman (49) com uma escova.

Coloque novamente o flutuador (47).

#### Arrecadação e transporte

##### Armazenamento

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo (24).
- Encaixe o acessório nos suportes previstos para o efeito.
- Enrole a mangueira de aspiração (33) no compartimento para a mesma. Puxe as duas alças de retenção (17) para cima e enganche-as nas aberturas de fixação.
- Engate a L-Boxx nos encaixes (13).
- Retire o saco de filtro de velo assim que estiver cheio.
- Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte (12).
- Para o transporte do aspirador, insira o tampão de fecho (23) no encaixe da mangueira (3).
- Deposite o aspirador num recinto seco com base plana e proteja-o contra utilização não autorizada.
- Para travar os roletes de guia (21) pressione o travão dos roletes de guia (22) para baixo.

##### Transporte (ver figura R)

- Para o transporte do aspirador, insira o tampão de fecho (23) no encaixe da mangueira (3).
- Para o transporte mais simples e cômodo do aspirador, esvazie completamente o recipiente ou descarte o saco de filtro de velo cheio.
- Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte (12).
- Desbloqueie o travão dos roletes de guia (22) para empurrar ou puxar o aspirador.
- Utilize apenas o estribo guia extraído (15) para empurrar ou puxar o aspirador. O aspirador não pode ser puxado pelo estribo guia em degraus de escadas. Neste caso, deve ser usada a pega de transporte.
- Certifique-se de que não existe ninguém diretamente atrás de si ao transportar o aspirador nas escadas, caso o aspirador seja deixado cair inadvertidamente.

#### Eliminar falhas

► **Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha tem de ser eliminada antes da nova colocação em funcionamento.**

Problema	Solução
A turbina de aspiração não arranca.	Verificar o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, a proteção, a tomada e os sensores do nível de enchimento (46).
O interruptor principal (2) encontra-se em "Sistema start/stop automático".	Colocar o interruptor principal (2) no símbolo "Aspirar" ou ligar a ferramenta elétrica conectada à tomada (4).

Problema	Solução
A turbina de aspiração desliga-se.	<p>Na aspiração de líquidos os indicadores LED <b>A</b> e <b>M</b> piscam lentamente e em simultâneo.</p> <p><u>Esvaziar o recipiente (1).</u></p> <p>Na aspiração a seco os indicadores LED <b>A</b> e <b>M</b> piscam rapidamente e em simultâneo: a proteção contra sobrecarga da tomada no aspirador está ativada.</p> <p><u>Desligar a ferramenta elétrica.</u></p>
O aspirador desliga-se.	<p>Sobrecarga do aspirador quando a tensão máxima da tomada no aspirador é excedida: o fusível de proteção do motor dispara.</p> <p><u>Envie o aspirador para um posto de assistência técnica Bosch autorizado.</u></p>
A turbina de aspiração não arranca depois de se esvaziar o recipiente.	<p><u>Desligar o aspirador e esperar 5 s, após os 5 s voltar a ligar.</u></p> <p>Limpar os sensores do nível de enchimento (46) assim como o espaço intermédio dos sensores do nível de enchimento (46) com uma escova.</p>
O poder de aspiração enfraquece.	<p>Eliminar os entupimentos do bocal de aspiração , do tubo de aspiração , da mangueira de aspiração (33) ou do filtro de pregas (37).</p> <p><u>Trocá o saco de filtro de velo (36).</u></p> <p><u>Engatar corretamente a cobertura do filtro (43).</u></p> <p><u>Colocar corretamente a parte superior do aspirador (16) e fechar os fechos (19).</u></p> <p><u>Limpar ou trocar o filtro de pregas planas (37).</u></p>
Saída de pó ao aspirar	<p><u>Verificar a montagem correta do filtro de pregas planas (37).</u></p> <p><u>Limpar ou trocar o filtro de pregas planas (37).</u></p>
O dispositivo de desligamento automático (aspirar líquidos) não arranca.	<p>Limpar os sensores do nível de enchimento (46) assim como o espaço intermédio dos sensores do nível de enchimento (46) com um pano.</p> <p><u>Verificar regularmente o nível de enchimento.</u></p>
Soa o sinal de aviso acústico.	<p>O poder de aspiração está ajustado muito reduzido.</p> <p><u>Ajustar o regulador do poder de aspiração (11) para um valor mais elevado.</u></p> <p>Diâmetro da mangueira errado ajustado.</p> <p><u>Ajustar o diâmetro correto da mangueira.</u></p> <p>Mangueira de aspiração (33) entupida ou dobrada.</p> <p><u>Eliminar o entupimento ou a dobraria.</u></p> <p>Saco de filtro de velo cheio</p> <p><u>Trocá o saco de filtro de velo (36).</u></p> <p>Filtro de pregas (37) sujo.</p> <p><u>Limpar o filtro de pregas e, se necessário substituir.</u></p> <p>Fluxo de ar insuficiente devido à ferramenta elétrica conectada</p> <p>Caso exista: abrir a abertura de ar complementar da ferramenta elétrica ou utilizar um adaptador de aspiração adequado com abertura de ar complementar.</p> <p>Falha de funcionamento do sistema eletrónico de monitorização</p> <p><u>Entre em contacto com um posto de assistência técnica Bosch autorizado.</u></p>
Soa um sinal de aviso acústico ao aspirar líquidos.	<u>Não têm de ser adotadas quaisquer medidas.</u>
A limpeza automática do filtro não funciona.	A limpeza automática do filtro só é ativada quando o fluxo de ar cai abaixo de um determinado nível. Para verificar o funcionamento ou para a limpeza manual do filtro mude para o modo manual pressionando a tecla Limpeza manual do filtro (9).
Não é possível ativar a limpeza manual do filtro.	A proteção contra sobreaquecimento do aspirador está ativada.

Problema	Solução
A pressão 10 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (9) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 20 s.	A pressão 30 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (9) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 4 min.
A limpeza automática do filtro não é ativada.	Se o problema persistir, dirija-se a um posto de assistência técnica <b>Bosch</b> autorizado.
<b>Serviço pós-venda e aconselhamento</b>	<b>Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.</b>

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

#### Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas  
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Vila Norte  
13065-900, CP 1195  
Campinas, São Paulo  
Tel.: 0800 7045 446  
[www.bosch.com.br/contacto](http://www.bosch.com.br/contacto)

**Outros endereços de serviço encontram-se em:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Eliminação

Aspirador, acessórios e embalagens devem ser reciclados de forma ambientalmente correta.

Não deite o aspirador para o lixo doméstico!



## Español

### Indicaciones de seguridad para aspiradores



**Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones.** Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

**Guarda todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.**

► **Este aspirador no está previsto para la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.

► **Vigile los niños.** Así se asegura, que los niños no jueguen con el aspirador.

► **Observe todas las normas de seguridad relativas a los materiales que se van a aspirar.**

**ADVERTENCIA** No aspire nunca sustancias que contienen asbestos. El amianto es cancerígeno.

**ADVERTENCIA** Utilice el aspirador solamente si ha recibido suficiente información para el uso del aspirador, sobre las sustancias que deben ser absorbidas y para su eliminación segura. Una instrucción exhaustiva reduce el riesgo de un manejo incorrecto y lesión.

**ADVERTENCIA** El aspirador es adecuado para aspirar sustancias secas y con medidas adecuadas también para aspirar líquidos. La penetración de líquidos aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

► **No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvos calientes, ardientes o explosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo de explosión.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden encendiarse o explotar.

**ADVERTENCIA** Utilice únicamente la caja de enchufe para los fines especificados en las instrucciones de servicio.

## ADVERTEN-CIA

**Apague inmediatamente el aspirador, tan pronto como se escape la espuma o el agua y vacíe el recipiente.** En caso contrario podría dañarse el aspirador.

► **¡ATENCIÓN! El aspirador solo debe guardarse en espacios interiores.**

► **¡ATENCIÓN! Limpie los sensores de nivel de líquido periódicamente y verifique si están dañados.** De lo contrario, la función puede verse afectada.

► **Si fuese imprescindible utilizar el aspirador en un entorno húmedo, es necesario conectarlo a través de un interruptor de protección FI.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

► **Verifique el aspirador, los cables y los conectores antes de cada uso. No use el aspirador si detecta daños. No abra el aspirador usted mismo y sólo déjelo reparar por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales.** Los aspiradores, cables, o enchufes dañados comportan un mayor riesgo de electrocución.

► **No aplaste ni pase por sobre el cable. No tire del cable para sacar el enchufe de la caja de enchufe o para mover el aspirador.** Un cable dañado comporta un mayor riesgo de electrocución.

► **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

► **Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.**

► **Sólo deje reparar el aspirador por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales.** Con ello se mantiene la seguridad del aspirador.

► **Si el aspirador se ha utilizado en zonas con sustancias peligrosas para la salud, entonces aspire, límpie o lleve el exterior del aspirador antes de sacarlo de la zona peligrosa.** Todas las piezas del aspirador se consideran contaminadas y debe tomar las medidas adecuadas para garantizar que no se propaguen las sustancias peligrosas para la salud.

## ADVERTEN-CIA

**El aspirador contiene polvo nocivo. Deje que las operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la extracción de los colectores de polvo, se lleven a cabo sólo por personal calificado. Se requiere un equipo de protección apropiado. No opere el aspirador sin el sistema de filtro completo y correctamente colocado.** De lo contrario ello podría afectar a su salud.

► **Antes de la puesta en servicio, verifique el perfecto estado de la manguera de aspiración. Al hacerlo, deje montada la manguera de aspiración en el aspirador para que el polvo no se escape involuntariamente.** En caso contrario podría llegar Ud. a inspirar polvo.

► **No utilice el aspirador como asiento.** Podría dañar el aspirador.

► **Utilice el cable de la red y la manguera de aspiración con cuidado.** Podría poner en peligro a otras personas.

► **No limpie el aspirador con un chorro de agua directo.** Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua en la parte superior del aspirador.

► **Conecte el aspirador a una red de corriente debidamente conectada a tierra.** La caja de enchufe y el cable de prolongación deben tener un conductor protector apto funcionalmente.

► **El enchufe macho de conexión, debe ser conectado sólamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.**

► **No utilice la caja de enchufe del aspirador cuando aspire en húmedo o en un ambiente húmedo.** El contacto con el agua puede provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.

## Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso del aspirador. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, el aspirador.


### Simbología y su significado



**¡ADVERTENCIA! Lea integralmente estas indicaciones de seguridad e instrucciones.** Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.



Aspirador de clase de polvo M según IEC/EN 60335-2-69 para **aspirar en seco** polvos nocivos con un valor límite de exposición de  $\geq 0,1 \text{ mg}/\text{m}^3$



**¡ADVERTENCIA! El aspirador contiene polvo nocivo. Deje que las operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la extracción de los colectores de polvo, se lleven a cabo sólo por personal calificado. Se requiere un equipo de protección apropiado. No utilice el aspirador sin tener el sistema de filtro completa y correctamente colocado.** De lo contrario, podría afectar a su salud.



**max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg**

Sólo hacer un clic en una caja L-Boxx.

El peso de la caja L-Boxx con el contenido no debe sobrepasar los 15 kg.

**Simbología y su significado**

**No cuelgue el aspirador de polvo, p. ej. para transportarlo, en un gancho de grúa.** El aspirador de polvo no es apto para una grúa. Existe el riesgo de lesiones y daños.



**No utilice el aspirador de polvo como asiento, escalera o peldaño.** El aspirador podría volcar y dañarse. Existe peligro de lesión.

**A**

Indicador LED de modo de limpieza automática del filtro

**M**

Indicador LED de modo de limpieza manual del filtro

**28/22**

Indicador LED de diámetro de manguera de aspiración



Tecla de limpieza automática del filtro



Tecla de limpieza manual del filtro



Tecla de diámetro de manguera de aspiración (caudal volumétrico)

**Sistema automático de arranque y parada**

Aspiración del polvo generado por las herramientas eléctricas en funcionamiento; el aspirador se conecta automáticamente y se desconecta con un retardo de tiempo.

La caja de enchufe del aspirador está permanentemente bajo tensión.

**Desconexión**

La caja de enchufe del aspirador está sin corriente.

**Aspiración**

Aspiración del polvo depositado y del polvo del sistema de aspiración.

La caja de enchufe del aspirador está permanentemente bajo tensión.

**Mín./Máx.**

Regulación continua de la fuerza de aspiración:

**Simbología y su significado**

- máxima potencia de aspiración para aplicaciones con alta generación de polvo
- reducida potencia de aspiración para aplicaciones con baja generación de polvo y para regular la fuerza de aspiración entre la herramienta eléctrica conectada y la superficie de la pieza de trabajo (p. ej. al lijar)



En este aspirador está activado el registro de datos.



Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada (específica del país)

**Descripción del producto y servicio**

Tenga en cuenta las figuras que aparecen en la parte delantera de las instrucciones de uso.

**Utilización reglamentaria**

El aspirador está determinado para captar, aspirar, impulsar y separar polvos secos no inflamables y líquidos no inflamables. Se han comprobado las propiedades técnicas del aspirador en cuanto a la aspiración de polvo y corresponden a la clase de polvo M. El aspirador es apropiado para el gran número de aplicaciones en el uso industrial, p. ej. en la artesanía, la industria y en los talleres.

Los aspiradores de clase de polvo M según IEC/EN 60335-2-69 solo se pueden utilizar para la absorción y aspiración de polvos nocivos con un valor límite de exposición de  $\geq 0,1 \text{ mg}/\text{m}^3$ .

Únicamente utilice el aspirador si conoce y domina por completo todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

**Componentes representados**

La numeración de los componentes está referida a la representación del aspirador en las páginas ilustradas.

- (1) Depósito
- (2) Interruptor principal
- (3) Soporte de manguera
- (4) Caja de enchufe para herramienta eléctrica
- (5) Indicador LED **A** de modo de limpieza automática del filtro
- (6) Indicador LED **M** de modo de limpieza manual del filtro
- (7) Indicador LED **22/28** de diámetro de manguera de aspiración

- (8) Tecla de diámetro de manguera de aspiración (caudal volumétrico)  
 (9) Tecla de limpieza manual del filtro  
 (10) Tecla de limpieza automática del filtro  
 (11) Regulador de potencia de aspiración  
 (12) Asa de transporte  
 (13) Alojamiento de la caja L-BOXX  
 (14) Tecla de estribo de guía  
 (15) Estribo de guía extensible  
 (16) Parte superior del aspirador  
 (17) Cinta de tracción  
 (18) Abertura de fijación  
 (19) Cierre de la parte superior del aspirador  
 (20) Rueda  
 (21) Rodillo guía  
 (22) Freno de rodillo guía  
 (23) Tapón de la conexión de aspiración  
 (24) Soporte de cable  
 (25) Zona trasera del asidero  
 (26) Soporte para boquilla de suelo  
 (27) Boquilla para suelo  
 (28) Boquilla de cepillo combinada  
 (29) Adaptador de aspiración combinado (para herramienta eléctrica)  
 (30) Cubierta del prefiltrado  
 (31) Tecla de desenclavamiento del prefiltrado  
 (32) Tubo de aspiración  
 (33) Manguera de aspiración  
 (34) Boquilla encorvada  
 (35) Soporte de bolsa de filtro de vellón  
 (36) Bolsa de filtro de vellón  
 (37) Filtro plisado plano  
 (38) Botón de tubo flexible de aspiración  
 (39) Adaptador de PowerTool (parte delantera)  
 (40) Adaptador de PowerTool (parte trasera)  
 (41) Tecla de desenclavamiento de boquilla de cepillo combinada  
 (42) Rieles de guía para el estribo de guía extensible  
 (43) Cubierta del filtro plisado plano  
 (44) Brida de cierre de la cubierta del filtro  
 (45) Prefiltro  
 (46) Sensor de nivel de llenado  
 (47) Flotador  
 (48) Bloqueo de flotador  
 (49) Imán

## Datos técnicos

Aspirador en húmedo/seco		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
Número de artículo 3 601 JM0 ...		... 120/... 1F0 ... 180/... 1E0/... 1N0 ... 1L0/... 170 ... 1H0 ... 130	... 1D0/... 1G0 ... 1C0 ... 160
Potencia absorbida nominal	W	1200	1200
Frecuencia	Hz	50–60	60
Volumen del depósito (bruto)	l	40	40
Volumen neto (seco)	l	28	26
Volumen neto (líquido)	l	20	18
Volumen de la bolsa de filtro de vellón	l	19	19
Depresión <sup>A)</sup>			
– Aspirador	hPa	220	180
– Turbina	hPa	230	200
Caudal <sup>A)</sup>			
– Aspirador	l/s m <sup>3</sup> /h	28 100,8	26 93,6
– Turbina	l/s m <sup>3</sup> /h	71,5 257	70 252
Clase de polvo		M	M

Aspirador en húmedo/seco		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
Peso <sup>B)</sup>	kg	14,1	14,5
Clase de protección		⊕/I	⊕/I
Grado de protección		IPX4	IPX4

A) medido con una manguera de aspiración de 28 mm de Ø y 4 m de longitud

B) Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

### Caja de enchufe en el aspirador

Potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada			
3 601 JMO ...	Tensión nominal	Máxima potencia	Mínima potencia
... 120/... 1F0	230 V	2100 W	100 W
... 180/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1K0	220-230 V	2100 W	100 W
... 1L0/... 170	220-240 V	1660 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 130	230 V	1100 W	100 W
... 1D0/... 1G0	127 V	705 W	100 W
... 1C0	115 V	525 W	100 W
... 160	110 V	560 W	100 W

Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada.

En otros modelos específicos de país pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspirador.

### Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruidos determinados según **EN 60335-2-69**.

El nivel de presión acústica valorado con A del aspirador asciende típicamente a menos de **74 dB(A)**.

Inseguridad K = **2 dB**. El nivel de ruidos durante el trabajo puede sobrepasar los valores indicados. **¡Utilice protección para los oídos!**

Valores totales de vibración  $a_h$  (suma vectorial de tres direcciones) e inseguridad K determinada según **EN 60335-2-69**:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ , K =  $1,5 \text{ m/s}^2$ .

### Montaje

► **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

### Montaje de accesorios de aspiración (ver figura A)

La manguera de aspiración (33) está equipada con un sistema de clip para poder conectar los accesorios de aspiración (adaptador de aspiración combinado (29), boquilla curvada (34), boquilla de cepillo combinada (28)).

### Montaje de la boquilla encorvada

- Inserte la boquilla encorvada (34) sobre la manguera de aspiración (33), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (38) de la manguera de aspiración.
- Para el desmontaje, oprima los botones de presión (38) hacia el interior y separe los componentes.

### Montar la boquillas de suelo y los tubos

- En caso de necesidad, inserte los tubos de aspiración (32) firmemente uno dentro del otro y luego también firmemente sobre la boquilla encorvada (34).
- Conecte firmemente la boquilla de suelo (27) en el tubo de aspiración (32) o en la boquilla encorvada (34).

### Montaje del adaptador de aspiración combinado

El adaptador de aspiración combinado (29) está integrado por el adaptador de PowerTool (parte delantera) (39) y el adaptador de PowerTool (parte trasera) (40).

El adaptador de aspiración combinado (29) es compatible con las herramientas eléctricas Bosch.

El adaptador de PowerTool (parte trasera) (40) puede utilizarse para herramientas eléctricas de otros fabricantes gracias a su diámetro interior de 38,5 mm y exterior de 45 mm.

Coloque el adaptador de PowerTool (parte delantera) (39) en el adaptador de PowerTool (parte trasera) (40) y una los dos adaptadores girándolos en direcciones opuestas (ver figura B).

Inserte el adaptador de aspiración combinado (29) sobre la manguera de aspiración (33), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (38) de la manguera de aspiración.

Para el desmontaje, oprima los botones de presión (38) hacia el interior y retire el adaptador de aspiración combinado de la manguera de aspiración.

Para separar ambos adaptadores, afloje la conexión girando en direcciones opuestas y separe los adaptadores.

#### **Montaje de la boquilla de cepillo combinada**

Inserte la boquilla de cepillo combinada (28) sobre la manguera de aspiración (33), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (38) de la manguera de aspiración.

Para el desmontaje, oprima los botones de presión (38) hacia el interior y separe los componentes.

#### **Ajuste de la boquilla de cepillo combinada (ver figura C)**

Puede utilizar la boquilla del cepillo combinado (28) como boquilla para hendiduras o como cepillo.

Presione la tecla de desenclavamiento (41) y desplace el cepillo hacia delante para utilizar la boquilla del cepillo combinado (28) como cepillo.

Presione la tecla de desenclavamiento (41) y tire del cepillo hacia delante para utilizar la boquilla del cepillo combinado (28) como boquilla para hendiduras.

#### **Montaje de la manguera de aspiración (ver figura D)**

Extraiga el tapón de cierre (23) de la boquilla de conexión (3).

Coloque la manguera de aspiración (33) en la boquilla de conexión (3) y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

► **Al retirar la manguera de aspiración, cierre siempre la conexión de aspiración con el tapón de cierre.** Así evita que pueda escaparse el polvo.

**Indicación:** Durante la aspiración se genera una carga electrostática por la fricción del polvo en la manguera y en los accesorios de aspiración, la cual la puede sentir el usuario en forma de una descarga estática (en función de las influencias del medio ambiente y la sensibilidad física).

En general, Bosch recomienda usar una manguera de aspiración antiestática (accesorio) al aspirar polvo fino y materiales secos.

#### **Fijación de la manguera de aspiración al aspirador (ver figura E)**

Enrolle la manguera de aspiración montada (33) en el compartimento para la manguera de aspiración. Tire las dos cintas de tracción (17) hacia arriba y engáncelas en las aberturas de fijación (18).

#### **Cambio de la bolsa de filtro de vellón (aspiración en seco)**

Para la aspiración en seco de sustancias según la clase de polvo M, debe utilizar una bolsa de filtro de vellón (36).

Si se aspiran sustancias sin o con un valor límite de exposición  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (correspondiente a la clase de polvo L), puede ser aspirado directamente en el depósito.

**Indicación:** Desconecte la limpieza automática del filtro al utilizar la bolsa de filtro de vellón (ver "Limpieza automática/manual del filtro (ver figura L)", Página 47).

**ADVERTEN-** **CIA** **El aspirador contiene polvo nocivo. Deje que las operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la extracción de los colectores de polvo, se lleven a cabo sólo por personal calificado. Se requiere un equipo de protección apropiado. No opere el aspirador sin el sistema de filtro completo y correctamente colocado.** De lo contrario ello podría afectar a su salud.

#### **Colocar/extraer la bolsa de filtro de vellón (ver figuras F-G)**

Abra los cierres (19) y retire la parte superior del aspirador (16).

Para la aplicación, coloque la bolsa de filtro de vellón (36) en el soporte correspondiente (35) e introduzca la bolsa de filtro de vellón (36) con el soporte correspondiente (35) en el depósito (1).

Para la extracción, cierre la abertura de la bolsa de filtro de vellón llena tirando del cierre. Saque la bolsa de filtro de vellón cerrada (36) del soporte de la bolsa de filtro de vellón (35) y retírela del aspirador.

Vuelva a colocar la parte superior del aspirador (16) y cerrando los cierres (19) una el depósito (1) con la parte superior del aspirador (16).

#### **Prender la caja L-BOXX (ver figura H)**

Para el transporte del aspirador y para el ahorro de espacio de almacenamiento de accesorios del aspirador y/o herramientas eléctricas, puede prender una caja L-BOXX sobre la parte superior del aspirador.

Fije la manguera de aspiración en el aspirador (ver figura E). Encaje la caja L-BOXX sobre el alojamiento (13).

► **No lleve a cabo una aspiración con la caja L-BOXX encajada.** El centro de gravedad del aspirador se desplaza hacia arriba. El aspirador puede volcarse. Existe el riesgo de lesiones y daños.

► **No transporte el aspirador por el asa de transporte de la caja L-BOXX encajada.** El aspirador es demasiado pesado para el asa de transporte de la caja L-BOXX. Existe el riesgo de lesiones y daños.

#### **Montaje del estribo de guía extensible (ver figuras I-J)**

**Indicación:** El estribo de guía extensible no se puede desmontar. Asegúrese de que el estribo de guía esté correctamente alineado en el montaje.

Alinee el estribo de guía (15) utilizando las marcas R (derecha) y L (izquierda) antes de colocarlo.

Coloque el estribo de guía (15) en los rieles de guía (42).

Presione el estribo de guía (15) hacia abajo hasta la línea de tope hasta que el estribo de guía encastre de forma audible. Presione el botón (14), para modificar la longitud del estribo de guía (15).

## Operación

- **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

### Puesta en marcha

- **¡Observe la tensión de red!** La tensión de la fuente de corriente deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características del aspirador.
- **Infórmese sobre las regulaciones/legislación vigentes en su país relativas a la manipulación de materiales en polvo nocivos para la salud.**

El aspirador es apropiado para aspirar y extraer los materiales siguientes:

- Polvos con un valor límite de exposición  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- En ningún caso deberá utilizarse el aspirador en recintos con peligro de explosión.

A fin de garantizar una potencia óptima de aspiración, la manguera de aspiración (33) debe desenrollarse siempre completamente del soporte de la manguera de aspiración (16).

### Regulación de la potencia de aspiración

Mediante el regulador de potencia de aspiración (11) puede ajustar sin escalones la potencia de aspiración.

Ajuste el regulador de potencia de aspiración (11) a la máxima potencia de aspiración para aplicaciones con gran generación de polvo.

Ajuste el regulador de potencia de aspiración (11) en la posición de potencia de aspiración reducida para aplicaciones con baja generación de polvo y para regular la fuerza de aspiración entre la herramienta eléctrica conectada y la superficie de la pieza de trabajo (p. ej., al lijar).

### Vigilancia del caudal volumétrico

El aspirador está equipado con un sistema de vigilancia del caudal volumétrico. La vigilancia del caudal volumétrico está ajustada en el modo de operación "Aspirar" a un valor fijo de  $20 \text{ m}^3/\text{s}$ .

Si se queda por debajo de este valor, p. ej. por suciedad acumulada en la manguera de aspiración, una bolsa de filtro de vellón llena o un filtro plisado plano obstruido, parpadea uno de los indicadores LED (7) 22 o 28 y suena una señal acústica de advertencia. En este caso, desconecte el aspirador y compruébelo como se describe en el apartado "Remedio de perturbaciones".


**Indicación:** Al trabajar con herramientas eléctricas cuyo suministro de aire a la manguera de aspiración es bajo (p. ej., sierras de calar, amoladoras, etc.), puede sonar una señal acústica de advertencia. Para evitar el mensaje de adverten-

cia, se recomienda utilizar también un adaptador de aspiración adecuado con abertura de aire falso del programa de accesorios.

### Ajuste del diámetro de manguera

Diámetro de manguera	Valor de ajuste del caudal volumétrico
22 mm	$28 \text{ m}^3/\text{h}$
28 mm	$45 \text{ m}^3/\text{h}$

Para regular la fuerza de aspiración, seleccione el diámetro de la manguera utilizada.



Presione la tecla diámetro de la manguera (8). El indicador LED (7) 22 o 28 se ilumina.

### Caja de enchufe en el aspirador

- **Observe la potencia de conexión admisible de la caja de enchufe del aspirador. En caso de sobrepasar la potencia de conexión máxima admisible, puede producirse una sobrecarga del aspirador. El fusible de protección del motor se activa.** Envíe el aspirador a un centro de servicio autorizado de Bosch.

Tan pronto como el enchufe del aspirador esté conectado a la caja de enchufe y el interruptor principal esté en la posición 1, la caja de enchufe para herramientas eléctricas (4) está bajo tensión. Puede utilizarse como toma de corriente externa en el aspirador, p. ej., cuando se trabaja con sistemas de aspiración. En la posición 1+, está activado el sistema automático de arranque/parada del aspirador. A través de la herramienta eléctrica conectada, el aspirador puede conectarse por control remoto.

### Aspiración en seco

#### Aspiración de polvos depositados



Para **conectar el aspirador**, gire el interruptor principal (2) a la posición 1.



Para **desconectar el aspirador**, gire el interruptor principal (2) a la posición 0.

#### Aspiración de los polvos generados por herramientas eléctricas en funcionamiento (ver figura K)

- **La tasa de renovación de aire en el cuarto deberá ser suficiente, si el aire de salida es expulsado en el cuarto. Observe las prescripciones legales nacionales al respecto.**

En el aspirador se ha integrado una caja de enchufe para herramientas eléctricas (4). En esta caja de enchufe puede conectar una herramienta eléctrica externa. Tenga en cuenta la potencia máxima admisible de la herramienta eléctrica conectada.

Montaje del adaptador de aspiración combinado (29) (ver figura B).

Inserte el adaptador de aspiración combinado (29) en el riel de aspiración de la herramienta eléctrica.



Para conectar el sistema automático de arranque/parada del aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición **1+**.

Para la puesta en servicio del aspirador, encienda la herramienta eléctrica conectada a la caja de enchufe (4). El aspirador arranca automáticamente.

Desconecte la herramienta eléctrica, para que la **aspiración finalice**.

El funcionamiento posterior del sistema automático de arranque/parada sigue funcionando hasta 15 s, para aspirar los polvos remanentes en la manguera de aspiración.



Para desconectar el aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición **0**.

#### Utilización del sistema de aspiración (accesorio)



Conecte el sistema de aspiración a la manguera de aspiración (33).

Para aspirar el polvo mediante el sistema de aspiración, gire el interruptor principal (2) a la posición **1**.

Sujete el sistema de aspiración contra la pared y conecte la herramienta eléctrica. El sistema de aspiración se adhiere automáticamente debido a la depresión resultante.

Desconecte la herramienta eléctrica y retire con cuidado el sistema de aspiración de la pared.



Para desconectar el aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición **0**.

#### Aspiración en húmedo

► **No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvos calientes, ardientes o explosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo de explosión.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

► **El aspirador no debe usarse como una bomba de agua.** El aspirador está diseñado para absorber mezcla de aire y agua.

**Indicación:** Los requisitos para el grado de transmitancia (clase de polvo M) sólo se probaron para la aspiración en seco.

#### Antes de la aspiración en húmedo

Vacié el depósito (1) y retire la bolsa de filtro de vellón (36).

Compruebe si el sensor de nivel de llenado (46) está sucio. Sólo un sensor de nivel de llenado limpio permite que el aspirador se desconecte automáticamente al alcanzar el nivel de llenado lleno del depósito (ver "Limpieza del sensor de nivel de llenado (ver figuras P-Q)", Página 49).

► **La limpieza automática del filtro debe estar desactivada durante la aspiración en húmedo.**

Presione la tecla de limpieza automática del filtro (10), para activar la limpieza manual del filtro (ver "Limpieza manual del filtro", Página 48). La limpieza automática del filtro se desactiva y el indicador LED A (5) se apaga.

#### Aspiración de líquidos

**ADVERTENCIAS:** Apague inmediatamente el aspirador, tan pronto como se escape la espuma o el agua y vacíe el recipiente.

En caso contrario podría dañarse el aspirador.

Para conectar el aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición **1**.

El aspirador está equipado con sensores de nivel de llenado (46). Una vez alcanzado el nivel máximo de llenado, el aspirador se desconecta automáticamente y los dos indicadores LED A (5) y M (6) parpadean simultáneamente 1 vez por segundo. La protección contra rearranque está activada y puede desactivarse conectando y desconectando el aspirador 1 vez.

**Indicación:** Compruebe periódicamente el nivel de llenado y vacíe el depósito a su debido tiempo. Si suena una señal de advertencia acústica durante la aspiración en húmedo, no es necesario realizar ninguna medida. La seguridad de funcionamiento del aspirador no se ve afectada.

Para desconectar el aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición **0**.

Sujete el depósito (1) por la zona del asidero trasera (25) y gírelo hacia delante para vaciar el líquido.

#### Tras la aspiración en húmedo

Limpie el sensor de nivel de llenado después de cada aspiración en húmedo (46) (ver "Limpieza del sensor de nivel de llenado (ver figuras P-Q)", Página 49).

Tras la aspiración en húmedo para la prevención de crecimiento de moho:

- Saque el filtro plisado plano (37) y déjelo secar bien.
- Retire la parte superior del aspirador (16), abra la cubierta del filtro (43) y deje secar bien ambos componentes.

#### Limpieza automática/manual del filtro (ver figura L)

##### Limpieza automática del filtro

**Indicación:** La limpieza automática del filtro está ajustada de modo estándar al conectar el aspirador.

El indicador LED A (5) se ilumina permanentemente.

Durante la limpieza automática del filtro, el filtro plisado plano (37) se limpia mediante 2 impulsos de aire (ruído pulsante). Esto ocurre en cuanto el sensor reconoce que la corriente de aire desciende por debajo de un determinado nivel.

El uso regular de la limpieza del filtro aumenta la vida útil del filtro.

Para lograr una vida útil ideal del filtro, desactive la función de limpieza automática del filtro sólo en casos excepcionales, p. ej., al aspirar en húmedo.

### Limpieza manual del filtro

Presione la tecla de limpieza automática del filtro (9), para realizar la limpieza manual del filtro. El filtro plisado plano (37) se limpia mediante 2 impulsos. El indicador LED M (6) se ilumina en blanco durante 2 s. Cuando el indicador LED M (6) se apaga, se puede activar el siguiente impulso de aire. Para ello, presione de nuevo la tecla de limpieza manual del filtro (9).

**Indicación:** En caso de limpieza manual del filtro, asegúrese de que el intervalo temporal entre cada pulsación de la tecla sea de 2–3 s. La repetida pulsación continuada de la tecla de limpieza manual del filtro (9) conduce a la activación de la protección contra sobrecalentamiento del aspirador. La protección contra el sobrecalentamiento se cancela automáticamente al cabo de un tiempo (ver "Subsanar perturbaciones", Página 49).

Para desactivar la limpieza manual del filtro, presione la tecla de limpieza automática del filtro (10).

Un filtro plisado plano con superficie sucia es apto funcionalmente. Una limpieza manual del filtro plisado plano golpeándolo o soplándolo no es necesario e incluso puede dañar el filtro.

## Mantenimiento y servicio

### Mantenimiento y limpieza

► **Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

► **Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.**

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por **Bosch** o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas **Bosch**, para evitar riesgos de seguridad.

► **Lleve una máscara protectora contra polvo en el mantenimiento y la limpieza del aspirador.**

Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un paño húmedo.

► **No limpie el aspirador con aire comprimido.** El filtro u otros componentes podrían resultar dañados.

Al menos una vez al año, el fabricante o una persona instruida debe realizar una inspección técnica del aspirador (p ej., comprobar que los filtros no estén dañados, que no haya fugas en el aspirador y que los dispositivos de control funcionen correctamente).

### Limpieza y mantenimiento después de aspirar sustancias perjudiciales para la salud

- Considere contaminadas todas las piezas que puedan haber estado en contacto con sustancias perjudiciales para la salud.
- Aspire, limpie o selle minuciosamente el exterior del aspirador antes de sacarlo de la zona con sustancias perjudiciales para la salud.

– Limpie, desmonte y realice el mantenimiento del aspirador sólo si puede hacerlo sin poner en peligro su vida o la de otras personas. Utilice un equipo de protección personal en los trabajos de mantenimiento y limpieza. Realice el trabajo en un espacio bien ventilado.

- Limpie primero el exterior del aspirador antes de desmontarlo.
- Elimine todas las piezas del aspirador que no puedan limpiarse satisfactoriamente en bolsas impermeables. Respete en ello las disposiciones vigentes para la eliminación de estos residuos.
- Limpie la zona de mantenimiento después de terminar el trabajo.

### Limpiar el depósito

Limpie el depósito (1) de vez en cuando con producto de limpieza corriente en el comercio, no abrasivo, y déjelo que se seque.

### Limpieza/cambio del filtro plisado plano

(ver figuras M–N)

► **Al abrir la tapa del filtro, sujetela por la lengüeta de cierre y asegúrese de que la tapa del filtro abierto quede encastreada en posición vertical.** Al caer la tapa del filtro existe peligro de lesión.

La potencia de aspiración depende del estado del filtro. Por ese motivo, límpie el filtro periódicamente.

Cambie inmediatamente un filtro plisado plano dañado (37).

- Antes de cada limpieza/sustitución del filtro de pliegues planos (37), desmonte la manguera de aspiración (33) e inserte el tapón de cierre (23) en el alojamiento de la manguera (3).
- Tire de la lengüeta de cierre (44) y gire la cubierta del filtro (43) hacia arriba, hasta que encastre en posición vertical.
- Tome el filtro plisado plano (37) por los perfiles y sáquelo hacia arriba.
- Elimine el polvo y la suciedad, que se genera al retirar el filtro plisado plano (37), con un paño húmedo desde el borde del depósito (1).
- El filtro plisado plano puede enjuagarse con agua corriente.
- Coloque un filtro plisado plano (37) nuevo o limpio y preste atención a un asiento seguro y correcto.
- Cierre la cubierta del filtro (43), de modo que encastre de forma audible.

### Limpieza del prefiltro (ver figura O)

► **El prefiltro no debe limpiarse en húmedo.**

► **No introduzca la mano desde arriba entre el estribo de guía y el aspirador para desbloquear la cubierta del prefiltro.** De lo contrario, podría aprisionarse su mano.

Tire del estribo de guía (15) hacia arriba hasta que la cubierta del prefiltro quede libremente accesible desde detrás.

Presione la tecla de desenclavamiento (31) de la cubierta del prefiltro (30) y retírela del compartimento del prefiltro.

Retire el prefiltro (45).

Cepille las láminas del prefiltro con un cepillo suave.  
Coloque el prefiltro en la cubierta del prefiltro (30).  
Coloque la cubierta del prefiltro (30) en el compartimento del prefiltro y repliéguela.

#### Limpieza del sensor de nivel de llenado (ver figuras P-Q)

Saque el enchufe de red del aspirador de la caja de enchufe.  
Retire la parte superior del aspirador (16).  
Vacíe el depósito (1).  
Mueva el flotador (47) o golpéelo ligeramente para eliminar la suciedad.  
Limpie el flotador (47) con un paño suave.  
Si es necesario, también puede retirar el flotador. Para ello, presione el enclavamiento (48) y extraiga el flotador (47).  
Limpie el imán (49) con un cepillo.  
Vuelva a colocar el flotador (47).

#### Almacenaje y transporte

##### Almacenaje

- Enrolle el cable de red en el soporte de cables (24).
- Coloque los accesorios en los soportes previstos para ello.
- Enrolle la manguera de aspiración (33) en el compartimento para la manguera de aspiración. Tire las dos cintas de tracción (17) hacia arriba y engáncelas en las aberturas de fijación.
- Encaje la caja L-BOXX sobre el alojamiento (13).
- Retire la bolsa de filtro de vellón en cuanto esté llena.
- Transporte el aspirador sólo por el asa de transporte (12).

- Para el transporte del aspirador, coloque el tapón de cierre (23) en el alojamiento de la manguera (3).
- Guarde el aspirador en un espacio seco con suelo plano y asegúrelo contra un uso no autorizado.
- Para fijar los rodillos guías (21) pise hacia abajo el freno de rodillo guía (22).

##### Transporte (ver figura R)

- Para el transporte del aspirador, coloque el tapón de cierre (23) en el alojamiento de la manguera (3).
- Para facilitar el transporte del aspirador y no dañar la espalda, vacíe completamente el depósito o deseche la bolsa de filtro de vellón llena.
- Transporte el aspirador sólo por el asa de transporte (12).
- Desbloquee el freno de rodillo guía (22) para empujar o tirar el aspirador.
- Utilice únicamente el estribo de guía desplegado (15) para empujar o tirar el aspirador. El aspirador no debe arrastrarse por escalones con el estribo de guía. Para ello debe utilizarse el asa de transporte.
- Cuando suba la aspiradora por las escaleras, asegúrese de que no hayan otras personas justo detrás de usted por si el aspirador se deja caer inesperadamente.

#### Subsanar perturbaciones

- Si se presenta una perturbación (p. ej. rotura del filtro), debe desconectarse inmediatamente el aspirador. Antes de realizar una nueva puesta en servicio debe eliminarse la perturbación.

Problema	Remedio
La turbina de aspiración no arranca.	Examinar el cable de red, el enchufe de red, el fusible, la caja de enchufe y los sensores de nivel de llenado (46).  El interruptor principal (2) está en "Sistema automático de arranque/parada".  Poner el interruptor principal (2) en el símbolo "Aspirar" o conectar la herramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (4).
La turbina de aspiración se desconecta.	Durante la aspiración en húmedo, los indicadores LED A y M parpadean lenta y simultáneamente.  Vaciar el depósito (1).
El aspirador se desconecta.	Durante la aspiración en seco, los indicadores LED A y M parpadean rápida y simultáneamente: la protección contra sobrecarga de la caja de enchufe del aspirador está activada.  Desconexión de la herramienta eléctrica.
La turbina de aspiración no arranca de nuevo tras vaciar el depósito.	Sobrecarga del aspirador por sobrepasar la tensión máxima de la caja de enchufe del aspirador: Se dispara el fusible de protección del motor.  Envíe el aspirador a un centro de servicio autorizado de Bosch.
La fuerza de aspiración disminuye.	Desconectar el aspirador y esperar 5 s; tras 5 s volver a conectarlo.  Limpiar los sensores de nivel de llenado (46) así como el intersticio de los sensores de nivel de llenado (46) con un cepillo.  Eliminar las obstrucciones de la boquilla de aspiración, del tubo de aspiración, de la manguera de aspiración (33) o del filtro plisado plano (37).  Cambiar la bolsa de filtro de vellón (36).

Problema	Remedio
	<p>Encastrar correctamente la cubierta del filtro (<b>43</b>).      Colocar correctamente la parte superior del aspirador (<b>16</b>) y cerrar los cierres (<b>19</b>).      Limpiar o cambiar el filtro plisado plano (<b>37</b>).</p>
Escape de polvo al aspirar	<p>Verificar el correcto montaje del filtro plisado plano (<b>37</b>).      Limpiar o cambiar el filtro plisado plano (<b>37</b>).</p>
El sistema automático de desconexión (aspiración en húmedo) no responde.	<p>Limpiar los sensores de nivel de llenado (<b>46</b>) así como el intersticio de los sensores de nivel de llenado (<b>46</b>) con un paño.      Controlar permanentemente el nivel de llenado.</p>
Suena la señal acústica de advertencia.	<p>Potencia de aspiración ajustada demasiado baja.      Ajustar el regulador de la potencia de aspiración (<b>11</b>) a un valor más alto.      Diámetro de manguera ajustado incorrecto.      Ajustar el diámetro correcto de la manguera de aspiración.      Manguera de aspiración (<b>33</b>) obstruida o doblada.      Eliminar la obstrucción o el doblez.      Bolsa de filtro de vellón llena      Cambiar la bolsa de filtro de vellón (<b>36</b>).      Filtro plisado plano (<b>37</b>) sucio.      Limpiar o, en caso dado, cambiar el filtro plisado plano.      corriente de aire insuficiente a través de la herramienta eléctrica conectada      Si existe: Abra la abertura de aire falso de la herramienta eléctrica o utilice un adaptador de aspiración adecuado con abertura de aire falso.      Funcionamiento anómalo de la electrónica de vigilancia      Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de <b>Bosch</b>.</p>
Suena la señal acústica de advertencia al aspirar en húmedo.	No es necesario tomar medidas.
La limpieza automática del filtro no funciona.	La limpieza automática del filtro sólo se activa cuando la corriente de aire desciende por debajo de un determinado nivel. Para comprobar el funcionamiento o para la limpieza manual del filtro, cambie al modo manual presionando la tecla de limpieza manual del filtro ( <b>9</b> ).
No se deja activar la limpieza manual del filtro.	<p>La protección contra sobrecalentamiento del aspirador está activada.      La pulsación de la tecla de limpieza manual del filtro (<b>9</b>) 10 veces continuamente ha activado la protección contra sobrecalentamiento. La protección contra el sobrecalentamiento se cancela automáticamente al cabo de 20 s.      La pulsación de la tecla de limpieza manual del filtro (<b>9</b>) 30 veces continuamente ha activado la protección contra sobrecalentamiento. La protección contra el sobrecalentamiento se cancela automáticamente al cabo de 4 min.      Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de <b>Bosch</b>.</p>
No se activa la limpieza automática del filtro.	Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de <b>Bosch</b> .

## Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

**México**

Robert Bosch, S. de R.L. de C.V.  
 Calle Robert Bosch No. 405  
 C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca – Estado de México  
 Tel.: (52) 55 528430-62  
 Tel.: 800 6271286  
[www.boschherramientas.com.mx](http://www.boschherramientas.com.mx)

**Encontrará más direcciones del servicio técnico en:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Eliminación**

El aspirador, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje el aspirador a la basura doméstica!



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

**Português do Brasil****Indicações de segurança para aspiradores**

**Ler todas as indicações de segurança e instruções.** O desrespeito das advertências e das instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

**Guarde todas as indicações de segurança e as instruções para futuras consultas.**

► **Este aspirador não se destina a ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com experiência e conhecimentos insuficientes.** Caso contrário, existe o perigo de utilização errada e ferimentos.

► **Vigie as crianças,** para se assegurar que elas não brincam com o aspirador.

► **Respeite todos os regulamentos de segurança para as substâncias a aspirar.**

► **AVISO** Nunca aspire substâncias que contenham amianto. Amianto é considerado como sendo cancerígeno.

► **AVISO** Use o aspirador apenas se você recebeu informações suficientes para o uso, para os materiais a aspirar e para a eliminação segura dos mesmos. Uma instrução cuidadosa reduz as operações erradas e lesões.

► **AVISO** O aspirador é apropriado para aspirar substâncias secas e, através de medidas apropriadas, também para aspirar líquidos. A penetração de líquidos aumenta o risco de um choque elétrico.

► **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes ou inflamáveis ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, vapores e líquidos podem inflamar e explodir.

► **AVISO** Só utilizar a tomada para as finalidades determinadas nas instruções de serviço.

► **AVISO** Desligue imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvazie o recipiente. Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

► **ATENÇÃO!** O aspirador só deve ser armazenado em recintos fechados.

► **ATENÇÃO!** Limpe regularmente os sensores do nível de enchimento para líquidos e verifique se estão danificados. Caso contrário a função pode ser prejudicada.

► **Se não for possível evitar que o aspirador seja operado em áreas úmidas, deve-se utilizar um dispositivo de corrente diferencial (DR).** A utilização de um dispositivo de corrente diferencial (DR) reduz o risco de um choque elétrico.

► **Antes de cada utilização é necessário controlar o aspirador, o cabo e o plugue.** Não utilize o aspirador se forem verificados danos. Não abra pessoalmente o aspirador. Somente permita que seja reparado por pessoal qualificado e que sejam utilizadas apenas peças sobressalentes originais. Aspiradores, cabos e plugues danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

► **Não atropelar nem esmagar o cabo.** Não puxe pelo cabo para retirar o plugue da tomada nem para deslocar o aspirador. Cabos danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

- **Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador.** Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.
- **Providencie uma boa ventilação no local de trabalho.**
- **Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas com peças de substituição originais.** Desta forma fica garantido que as características de segurança do aspirador não são alteradas.
- **Se o aspirador tiver sido utilizado em áreas com substâncias prejudiciais para a saúde, então aspire, limpe ou vede o exterior do aspirador antes de o retirar da área de perigo.** Todas as peças do aspirador são consideradas como contaminadas e você tem de assegurar que as substâncias prejudiciais para a saúde não se podem espalhar através de medidas adequadas.

#### **AVISO**

**O aspirador contém poeiras prejudiciais à saúde. Mande executar os processos de esvaziamento/manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não opere o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado.** Caso contrário, está prejudicando sua saúde.

- **Antes da colocação em funcionamento, controle o estado impecável da mangueira de aspiração. Deixe a mangueira de aspiração montada no aspirador para não sair inadvertidamente pó.** Caso contrário pode inspirar pó.
- **Não utilize o aspirador como assento.** O aspirador pode ser danificado.
- **Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiração com muito cuidado.** É possível que outras pessoas sejam colocadas em perigo.
- **Não limpe o aspirador com um jato de água direto.** A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de um choque elétrico.
- **Ligue o aspirador a uma rede de corrente elétrica corretamente ligada à terra.** A tomada e o cabo de extensão devem ter um condutor de proteção que funcione.
- **Não utilize a tomada no aspirador ao aspirar líquidos ou num ambiente úmido.** Devido ao contato com água existe o perigo de curto-círcito ou de choque elétrico.

## Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização do seu aspirador. Memorize os símbolos e o respetivo significado. A interpretação correta dos símbolos ajuda você a usar melhor e de forma mais segura o aspirador.

#### Símbolos e seus respetivos significados




**AVISO! Ler todas as indicações de segurança e instruções.** O desrespeito das indicações de segurança e das

#### Símbolos e seus respetivos significados

instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.



Aspirador da classe de pó M segundo IEC/EN 60335-2-69 para **aspirar a seco** pós prejudiciais para a saúde com valor-limite de exposição  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**AVISO! O aspirador contém poeiras prejudiciais à saúde. Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não opere o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado.** Caso contrário, está prejudicando sua saúde.




Encaixar no máximo apenas uma L-BOXX. O peso da L-BOXX não pode exceder os 15 kg juntamente com o conteúdo.



**Não pendure o aspirador com um gancho de guindaste, p. ex. ao transportar.** O aspirador não pode ser transportado com gancho. Há perigo de lesões e de danos.



**Não utilize o aspirador como assento nem subir nele.** O aspirador pode tombar e ser danificado. Há risco de lesões.



A

A

Indicador LED do modo de limpeza automática do filtro

M

M

Indicador LED do modo de limpeza manual do filtro

28

28/22

**Símbolos e seus respectivos significados**

	Indicador LED do diâmetro da mangueira de aspiração
	Tecla Limpeza automática do filtro
	Tecla Limpeza manual do filtro
	Tecla Diâmetro da mangueira de aspiração (débito volúmico)
	<b>Sistema automático Partida/Parada</b> Aspirar o pó que se forma das ferramentas elétricas em funcionamento; o aspirador se liga automaticamente e se desliga de novo com atraso. A tomada no aspirador se encontra permanentemente sob tensão.
	<b>Desligar</b> A tomada no aspirador se encontra sem corrente.
	<b>Aspirar</b> Aspirar o pó depositado e o pó do sistema de aspiração. A tomada no aspirador se encontra permanentemente sob tensão.
	<b>Mín./máx.</b> Regulação progressiva da potência de aspiração: - potência de aspiração máxima para aplicações com forte formação de pó - potência de aspiração reduzida para aplicações com reduzida formação de pó e para regular a força de aspiração entre a ferramenta elétrica conectada e a superfície da peça (p. ex. ao lixar)
	O registro de dados nesta ferramenta elétrica está ativado.
	Indicação da potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada na tomada (específica do país)  max. 2100 W min. 100 W

**Descrição e especificações do produto**

Respeitar as ilustrações na parte da frente do manual de instruções.

**Utilização adequada**

O aspirador se destina a coletar, aspirar, transportar e separar pó seco não inflamável e líquidos não inflamáveis. O aspirador foi testado contra pó e corresponde à classe de

pó M. É adequado para as elevadas exigências da utilização profissional, p. ex. nas artes e ofícios, na indústria e nas oficinas.

Os aspiradores da classe de pó M segundo IEC/EN 60335-2-69 destinam-se apenas a aspirar pó prejudicial para a saúde com um valor limite de exposição  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Use o aspirador apenas se souber avaliar e usar todas as funções sem limitações e se tiver recebido instruções suficientes sobre as mesmas.

**Componentes ilustrados**

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do aspirador nas páginas de esquemas.

- (1) Recipiente
- (2) Interruptor principal
- (3) Suporte da mangueira
- (4) Tomada para a ferramenta elétrica
- (5) Indicador LED A Modo de limpeza automática do filtro
- (6) Indicador LED M Modo de limpeza manual do filtro
- (7) Indicador LED 22/28 Diâmetro da mangueira de aspiração
- (8) Botão de diâmetro da mangueira de sucção (fluxo de volume)
- (9) Botão Limpeza manual do filtro
- (10) Botão Limpeza automática do filtro
- (11) Regulador da potência de aspiração
- (12) Punho de transporte
- (13) Encaixe da L-BOXX
- (14) Botão de pressão do estribo guia
- (15) Estribo guia extensível
- (16) Parte superior do aspirador
- (17) Tira de tração
- (18) Abertura para fixação
- (19) Tampa para o lado superior do aspirador
- (20) Roda
- (21) Roda giratória
- (22) Travas da roda giratória
- (23) Tampão de vedação para o bocal de aspiração
- (24) Suporte do cabo
- (25) Área de pega posterior
- (26) Suporte para bocal para chão
- (27) Bocal para chão
- (28) Bocal de escova combinado
- (29) Adaptador de aspiração combinado (para ferramenta elétrica)
- (30) Tampa do pré-filtro
- (31) Botão de desbloqueio do pré-filtro
- (32) Tubo de aspiração

- |  |   |
|--|---|
| (33) Mangueira de aspiração                            | (42) Calhas guia para o estribo guia extensível |
| (34) Bocal curvo                                       | (43) Tampa do filtro plano plissado             |
| (35) Suporte do saco de filtro de lã                   | (44) Lingüeta de bloqueio da tampa do filtro    |
| (36) Saco de filtro de lã                              | (45) Pré-filtro                                 |
| (37) Filtro plano plissado                             | (46) Sensor de nível de enchimento              |
| (38) Botão de pressão da mangueira de aspiração        | (47) Flutuador                                  |
| (39) Adaptador PowerTool (peça dianteira)              | (48) Bloqueio do flutuador                      |
| (40) Adaptador PowerTool (peça posterior)              | (49) Ímã  |
| (41) Botão de desbloqueio do bocal da escova combinado |   |

## Dados técnicos

Aspira a úmido/a seco		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
Número de produto 3 601 JMO ...		... 120/... 1F0 ... 180/... 1E0/... 1N0 ... 1K0 ... 1L0/... 170 ... 1H0 ... 130	... 1D0/... 1G0 ... 1C0 ... 160
Potência nominal absorvida	W	1200	1200
Frequência	Hz	50-60	60
Capacidade do depósito (bruta)	l	40	40
Volume líquido (seco)	l	28	26
Volume líquido (líquido)	l	20	18
Volume do saco de filtro de lã	l	19	19
Vácuo <sup>A)</sup>			
- Aspirador	hPa	220	180
- Turbina	hPa	230	200
Fluxo <sup>A)</sup>			
- Aspirador	l/s m <sup>3</sup> /h	28 100,8	26 93,6
- Turbina	l/s m <sup>3</sup> /h	71,5 257	70 252
Classe de pó		M	M
Peso <sup>B)</sup>	kg	14,1	14,5
Classe de proteção		⊕/I	⊕/I
Tipo de proteção		IPX4	IPX4

A) medido com uma mangueira de aspiração Ø 28 mm e 4 m de comprimento

B) Peso sem cabo de alimentação e sem ficha de rede

As indicações são válidas para as tensões nominais indicadas. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

## Tomada no aspirador

Potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada na tomada			
3 601 JMO ...	Tensão nominal	Potência máxima	Potência mínima
... 120/... 1F0	230 V	2100 W	100 W
... 180/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W

### Potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada na tomada

3 601 JMO ...	Tensão nominal	Potência máxima	Potência mínima
... 1K0	220–230 V	2100 W	100 W
... 1L0/... 170	220–240 V	1660 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 130	230 V	1100 W	100 W
... 1D0/... 1G0	127 V	705 W	100 W
... 1C0	115 V	525 W	100 W
... 160	110 V	560 W	100 W

Indicação da potência admissível da ferramenta elétrica conectada na tomada.

No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Observe as indicações na tomada do aspirador.

### Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 60335-2-69**.

Tipicamente o nível de pressão sonora ponderado em "A" da ferramenta elétrica é **74 dB(A)**. Incerteza K = **2 dB**. O nível de ruído durante os trabalhos pode ultrapassar os valores indicados. **Utilizar proteção auditiva!**

Valores totais de vibração  $a_h$  (soma dos vetores de três direções) e incerteza K determinada segundo **EN 60335-2-69**:  
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ , K =  $1,5 \text{ m/s}^2$ .

## Montagem

- **Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador.** Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.

### Montar acessórios de aspiração (ver figura A)

A mangueira de aspiração (33) está equipada com um sistema de clipe, com o qual podem ser conectados acessórios de aspiração (adaptador de aspiração combinado (29), bocal curvo (34), bocal para escova combinado (28)).

#### Montar o bocal curvo

- Insira o bocal curvo (34) na mangueira de aspiração (33), até os dois botões de pressão (38) da mangueira de aspiração engatarem perceptivelmente.
- Para desmontar é necessário pressionar os botões de pressão (38) para dentro e separar os componentes.

#### Instale o bocal e tubos para chão

- Se necessário, encaixe bem os tubos de aspiração (32) um no outro e, a seguir, no bocal curvo (34).
- Insira bem o bocal para chão (27) no tubo de aspiração (32) ou no bocal curvo (34).

#### Montar o adaptador de aspiração combinado

O adaptador de aspiração combinado (29) é composto pelo adaptador PowerTool (peça dianteira) (39) e pelo adaptador PowerTool (peça posterior) (40).

O adaptador de aspiração combinado (29) é compatível com ferramentas elétricas Bosch.

O adaptador PowerTool (peça posterior) (40) pode ser utilizado com ferramentas elétricas de outros fabricantes devido ao seu diâmetro interior de 38,5 mm e ao diâmetro exterior de 45 mm.

Insira o adaptador PowerTool (peça dianteira) (39) no adaptador PowerTool (peça posterior) (40) e ligue os dois adaptadores rodando opostamente (ver figura B).

Insira o adaptador de aspiração combinado (29) na mangueira de aspiração (33), até que os dois botões de pressão (38) da mangueira de aspiração engatem de forma audível.

Para desmontar, pressione os botões de pressão (38) para dentro e retire o adaptador de aspiração combinado da mangueira de aspiração.

Para separar os dois adaptadores, solte a ligação rodando opostamente e separe os adaptadores.

#### Montar o bocal para escova combinado

Insira o bocal para escova combinado (28) na mangueira de aspiração (33), até que os dois botões de pressão (38) da mangueira de aspiração engatem de forma audível.

Para desmontar é necessário pressionar os botões de pressão (38) para dentro e separar os componentes.

#### Ajustar o bocal para escova combinado (ver figura C)

Pode utilizar o bocal para escova combinado (28) como bocal para juntas ou escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (41) e puxe a escova para a frente, para utilizar o bocal para escova combinado (28) como escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (41) e puxe a escova para trás, para utilizar o bocal para escova combinado (28) como bocal para juntas.

#### Montar a mangueira de aspiração (ver figura D)

Retire o tampão de fecho (23) do encaixe da mangueira (3).

Insira a mangueira de aspiração (33) na respetiva conexão (3) e rode-a para a direita até ao batente.

- **Fecho sempre a conexão de aspiração com o tampão de fecho quando retira a mangueira de aspiração.**

Deste modo evita que possa sair pó.

**Nota:** Ao aspirar, ocorre, devido ao atrito na mangueira de aspiração e nos acessórios de aspiração, uma carga eletrostática, que o utilizador pode sentir em forma de descarga estática (dependendo das influências ambientais e das condições físicas).

Em geral a Bosch recomenda uma mangueira de aspiração eletrostática (acessório) para aspirar pós finos e materiais secos.

#### Fixar a mangueira de aspiração no aspirador (ver figura E)

Enrole a mangueira de aspiração montada (33) no compartimento para a mesma. Puxe as duas fitas de tração (17) para cima e enganche-as nas aberturas de fixação (18).

#### Trocar o saco de filtro de velo (aspirar a seco)

Para aspirar substâncias a seco de acordo com a classe de poeiras M tem de utilizar um saco de filtro de velo (36).

Se forem aspiradas substâncias sem ou com um valor-limite de exposição  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (de acordo com a classe de pó L), é possível aspirar diretamente para o recipiente.

**Nota:** na utilização do saco de filtro de velo desligue a limpeza automática do filtro (ver "Limpeza do filtro automática/manual (ver figura L)", Página 58).

#### Aviso

O aspirador contém poeiras prejudiciais à saúde. Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não opere o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário, está prejudicando sua saúde.

#### Colocar/retirar o saco de filtro de velo (ver figuras F-G)

Abra os fechos (19) e retire a parte superior do aspirador (16).

Para colocar, insira o saco de filtro de velo (36) no respectivo suporte (35) e coloque o saco de filtro de velo (36) com o respectivo suporte (35) no recipiente (1). Para retirar, feche a abertura do saco de filtro de velo cheio puxando pelo fecho. Puxe o saco de filtro de velo (36) fechado do respectivo suporte (35) e retire-o do aspirador. Coloque novamente a parte superior do aspirador (16) e, fechando os fechos (19), ligue o recipiente (1) à parte superior do aspirador (16).

#### Encaixar a L-BOXX (ver figura H)

Para transportar o aspirador e para acondicionar os acessórios do aspirador e/ou a ferramenta elétrica em pouco espaço, pode encaixar uma L-BOXX na parte superior do aspirador.

Fixe a mangueira de aspiração no aspirador (ver figura E).

Engate a L-BOXX no encaixe (13).

**► Não aspire com a L-BOXX encaixada.** O centro de gravidade do aspirador se desloca para cima. O aspirador pode tombar. Há perigo de lesões e de danos.

**► Não segure no aspirador pela pega de transporte da L-BOXX encaixada.** O aspirador é demasiado pesado para a pega de transporte da L-BOXX. Há perigo de lesões e de danos.

#### Montar o estribo guia extraível (ver figuras I-J)

**Nota:** o estribo guia extraível não pode ser desmontado. Tenha atenção ao alinhamento correto do estribo guia durante a montagem.

Antes da colocação, alinhe o estribo guia (15) com base nas marcações R (direita) e L (esquerda).

Coloque o estribo guia (15) nas calhas de guia (42).

Pressione para baixo o estribo guia (15) até à linha de encosto, até que o estribo guia engate de forma audível.

Pressione o botão de pressão (14), para alterar o comprimento do estribo guia (15).

#### Funcionamento

**► Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador.** Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.

#### Colocação em funcionamento

**► Observe a tensão da rede!** A tensão da rede de alimentação deve coincidir com a que consta na chapa de identificação do aspirador.

**► Saiba mais sobre os regulamentos/leis aplicáveis sobre o manuseio de pó perigoso em seu país.**

O aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes materiais:

– Pós com um valor limite de exposição  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

O aspirador não deve ser utilizado em recintos com perigo de explosão.

Para assegurar uma potência de aspiração ideal, é necessário que a mangueira de aspiração (33) seja sempre completamente desenrolada da parte superior do aspirador (16).

#### Regular a potência de aspiração

Através do regulador da potência de aspiração (11) pode regular progressivamente a potência de aspiração.

Coloque o regulador da potência de aspiração (11) na potência de aspiração máxima para aplicações com forte formação de pó.

Coloque o regulador da potência de aspiração (11) na posição de potência de aspiração reduzida, para aplicações com reduzida formação de pó e para regular a força de aspiração entre a ferramenta elétrica conectada e a superfície da peça (p. ex. ao lixar).

#### Monitorização do débito volátmico

O aspirador está equipado com uma monitorização do débito volátmico. No modo de operação "aspirar" a monitorização do débito volátmico está definida de forma fixa para um valor de 20 m/s.

Se este valor não for alcançado, p. ex. devido a sujeira acumulada na mangueira de aspiração, a um saco de filtro de velo cheio ou a um filtro de pregas planas entupido, um dos indicadores LED (7) 22 ou 28 pisca e soa um sinal de aviso acústico. Neste caso, desligue o aspirador e verifique o mesmo tal como descrito na seção "Eliminar falhas".

**Nota:** ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja alimentação de ar na mangueira de aspiração é reduzida (p. ex. serras verticais, lixeiras etc.), pode soar um sinal de aviso acústico. Para evitar a mensagem de aviso, é recomendado utilizar adicionalmente um adaptador de aspiração adequado com abertura de ar complementar do programa de acessórios.

#### Ajustar o diâmetro da mangueira

Diâmetro da mangueira	Valor de ajuste do débito volátmico
22 mm	28 m <sup>3</sup> /h
28 mm	45 m <sup>3</sup> /h

Para regular o poder de aspiração, selecione o diâmetro da mangueira utilizado.

 Pressione a tecla Diâmetro da mangueira de aspiração (8). O indicador LED (7) 22 ou 28 acende.

#### Tomada no aspirador

► **Observe a potência de conexão admissível da tomada no aspirador. Exceder a potência de conexão máxima admissível pode causar sobrecarga no aspirador. O fusível de proteção do motor dispara.** Envie o aspirador para um posto de assistência técnica Bosch autorizado.

Assim que a ficha de rede do aspirador estiver encaixada na tomada e o interruptor principal estiver na posição 1, a tomada para ferramentas elétricas (4) fica sob tensão. Esta pode ser utilizada como tomada elétrica externa no aspirador, p. ex. ao trabalhar com sistemas de aspiração. Na posição 1+ o sistema automático Partida/Parada do aspirador está ativado. O aspirador pode ser ligado remotamente através da ferramenta elétrica conectada.

#### Aspirar a seco

##### Aspirar pó depositado

 Para ligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 1.

 Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.

##### Aspiração de pó produzido durante o funcionamento de ferramentas elétricas (ver figura K)

► Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no recinto quando o ar evacuado retorna ao recinto.  
Observe as respectivas diretrizes nacionais.

No aspirador está integrada uma tomada para ferramentas elétricas (4). Pode ligar uma ferramenta elétrica externa a esta tomada. Observe a máxima potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada.

Monte o adaptador de aspiração combinado (29) (ver figura B).

Insira o adaptador de aspiração combinado (29) no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.

 Para ligar o sistema automático Partida/Parada do aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 1+.

Para a colocação em funcionamento do aspirador ligue a ferramenta elétrica conectada à tomada (4). O aspirador liga automaticamente.

Desligar a ferramenta elétrica para encerrar a aspiração.

A função do funcionamento por inércia do sistema automático Partida/Parada continua até 15 segundos, para aspirar o resto dos pós da mangueira de aspiração.

 Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.

#### Utilização do sistema de aspiração (acessório)

Ligue o sistema de aspiração à mangueira de aspiração (33).

 Para aspirar pós através do sistema de aspiração, rode o interruptor principal (2) para a posição 1.

Mantenha o sistema de aspiração na parede e ligue a ferramenta elétrica. O sistema de aspiração adere automaticamente à parede devido ao vácuo gerado.

Desligue a ferramenta elétrica e retire cuidadosamente o sistema de aspiração da parede.

 Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.

#### Aspirar líquidos

► **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes ou inflamáveis ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, vapores e líquidos podem inflamar e explodir.

► **O aspirador não deve ser utilizado como bomba de água.** O aspirador é destinado para aspirar uma mistura de ar e água.

**Nota:** os requisitos em termos de grau de permeabilidade (classe de poeiras M) foram apenas comprovados para aspirar a seco.

#### Antes de aspirar líquidos

Esvazie o recipiente (1) e retire o saco de filtro de velo (36).

Verifique o sensor de nível de enchimento (46) quanto a sujeira. Apenas um sensor de nível de enchimento limpo

permite o desligamento automático do aspirador quando o nível máximo de enchimento do recipiente é alcançado (ver "Limpar o sensor de nível de enchimento (ver figuras P–Q)", Página 59).

► **A limpeza automática do filtro tem de estar desativada durante a aspiração de líquidos.**

Pressione a tecla Limpeza automática do filtro (10), para ativar a limpeza manual do filtro (ver "Limpeza manual do filtro", Página 58). Deste modo, a limpeza automática do filtro é desativada e o indicador LED A (5) se apaga.

#### Aspirar líquidos

**AVISO**

**Deslique imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvazie o recipiente.**

Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

Para ligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 1.

O aspirador está equipado com sensores de nível de enchimento (46). Quando a altura máxima de enchimento é alcançada, o aspirador se desliga automaticamente e os dois indicadores LED A (5) e M (6) piscam simultaneamente 1 vez por segundo. A proteção contra rearranque involuntário está ativada e pode ser desativada ligando/desligando 1 vez o aspirador.

**Nota:** verifique regularmente o nível de enchimento e esvazie o recipiente atempadamente. Se durante a aspiração de líquidos soar um sinal de aviso acústico, não têm de ser adotadas quaisquer medidas. A segurança de funcionamento do aspirador não é prejudicada.

Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.

Agarre o recipiente (1) na área de agarre posterior (25) e incline-o para a frente para esvaziar o líquido.

#### Após a aspiração de líquidos

Após cada aspiração de líquidos, limpe o sensor de nível de enchimento (46) (ver "Limpar o sensor de nível de enchimento (ver figuras P–Q)", Página 59).

Para evitar a formação de bolor depois de aspirar líquidos:

- Retire o filtro de pregas planas (37) e deixe-o secar bem.
- Retire a parte superior do aspirador (16), abra a cobertura do filtro (43) e deixe as duas secarem bem.

#### Limpeza do filtro automática/manual (ver figura L)

##### Limpeza automática do filtro

**Nota:** por norma, está definida a limpeza automática do filtro quando o aspirador é ligado.

O indicador LED A (5) acende permanentemente.

Na limpeza automática do filtro, o filtro de pregas planas (37) é limpo por 2 sopros de ar (ruído pulsante). Tal sucede assim que o sensor detecta que o fluxo de ar cai abaixo de um determinado nível.

A vida útil do filtro aumenta quando a limpeza do filtro é usada regularmente.

Para alcançar a vida útil ideal do filtro, desative a limpeza automática do filtro apenas em casos excepcionais, p. ex. ao aspirar líquidos.

##### Limpeza manual do filtro

Pressione a tecla Limpeza manual do filtro (9), para efetuar a limpeza manual do filtro. O filtro de pregas planas (37) é limpo por 2 sopros de ar. O indicador LED M (6) acende a branco durante 2 s. Quando o indicador LED M (6) se apaga, o sopro de ar seguinte pode ser ativado. Para o efeito, pressione novamente a tecla Limpeza manual do filtro (9).

**Nota:** na limpeza manual do filtro, tenha em atenção que cada pressão na tecla deve ser feita com um intervalo de 2–3 s. Pressionando várias vezes a tecla Limpeza manual do filtro (9) de forma contínua faz com que a proteção contra sobreaquecimento do aspirador seja ativada. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após algum tempo (ver "Eliminar falhas", Página 60).

Para desligar a limpeza manual do filtro, pressione a tecla Limpeza automática do filtro (10).

Um filtro de pregas planas superficialmente sujo é totalmente funcional. Não é necessária uma limpeza manual do filtro de pregas planas batendo ou soprando e isso pode até danificar o filtro.

## Manutenção e serviço

### Manutenção e limpeza

► **Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador.** Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.

► **Mantenha o aspirador e as aberturas de ventilação limpas para trabalhar bem e de forma segura.**

Se for necessário substituir o cabo de força, isto deverá ser realizado pela **Bosch** ou por uma assistência técnica autorizada para todas as ferramentas elétricas **Bosch** para evitar riscos de segurança.

► **Para a manutenção e limpeza do aspirador deve ser usada uma máscara de proteção contra pó.**

Limpe a caixa do aspirador de tempos a tempos com um pano úmido.

► **Não limpe o aspirador com ar comprimido.** O filtro ou outros componentes poderiam ficar danificados.

No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída, para p. ex. verificar se há danos no filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o bom funcionamento do dispositivo de controle).

### Limpeza e manutenção após a aspiração de substâncias prejudiciais à saúde

- Considere todas as peças que possam ter entrado em contato com substâncias prejudiciais à saúde como contaminadas.

- Aspire, limpe ou vede muito bem o exterior do aspirador, antes de o retirar da área com substâncias prejudiciais à saúde.
- Limpe, desmonte e faça a manutenção do aspirador apenas se tal for possível sem perigo para você e para outras pessoas. Use equipamento de proteção individual durante a manutenção e limpeza. Efetue os trabalhos em um espaço bem ventilado.
- Limpe primeiro o exterior do aspirador antes de o desmontar.
- Descarte todas as peças do aspirador que não possam ser limpas de forma satisfatória em sacos impermeáveis. Observe os regulamentos aplicáveis para a eliminação deste tipo de resíduos.
- Limpe a área de manutenção após a conclusão dos trabalhos.

#### **Limpar depósito**

Limpar o depósito (1) de tempos em tempos com um produto de limpeza de tipo comercial, não abrasivo, e permita que possa secar.

#### **Limpar/trocar o filtro de pregas planas (ver figuras M–N)**

► **Agarre a cobertura do filtro ao abrir a patilha de fecho e assegure que a cobertura do filtro aberta engata na posição vertical.** Existe perigo de ferimentos em caso de queda da cobertura do filtro.

A potência de aspiração depende do estado do filtro. Por isso, limpe regularmente o filtro.

Substitua imediatamente um filtro de pregas planas (37) danificado.

- Antes de cada limpeza/troca do filtro de pregas planas (37) desmonte a mangueira de aspiração (33) e coloque o tampão de fecho (23) no encaixe da mangueira (3).
- Puxe a patilha de fecho (44) e vire a cobertura do filtro (43) para cima até que engate na posição vertical.
- Agarre o filtro de pregas planas (37) pelas abas e retire o mesmo puxando para cima.
- Remova o pó e sujeira resultante da remoção do filtro de pregas planas (37) da borda do recipiente (1) com um pano úmido.
- O filtro de pregas planas pode ser lavado sob água corrente.
- Coloque um filtro de pregas planas (37) novo ou o limpo e verifique seu assento correto e seguro.
- Feche a cobertura do filtro (43), de modo a que engate de forma audível.

#### **Limpar o pré-filtro (ver figura O)**

► **O pré-filtro não pode ser limpo a úmido.**

► **Não agarre por cima entre o estribo guia e o aspirador para desbloquear a cobertura do pré-filtro.** Caso contrário, poderá entalar sua mão.

Puxe o estribo guia (15) para cima, até que a cobertura do pré-filtro fique acessível a partir de trás.

Pressione a tecla de desbloqueio (31) da cobertura do pré-filtro (30) e retire a mesma do compartimento do pré-filtro. Retire o pré-filtro (45).

Escove as lamelas do pré-filtro com uma escova macia.

Coloque o pré-filtro na respectiva cobertura (30).

Coloque a cobertura do pré-filtro (30) no compartimento do pré-filtro e feche o mesmo.

#### **Limpar o sensor de nível de enchimento (ver figuras P–Q)**

Retire a ficha de rede do aspirador da tomada.

Retire a parte superior do aspirador (16).

Esvazie o depósito (1).

Mova o flutuador (47) ou bata o mesmo ligeiramente para remover a sujeira.

Limpe o flutuador (47) com um pano macio.

Se necessário, também pode retirar o flutuador. Para o efeito, pressione o bloqueio (48) e retire o flutuador (47).

Limpe o ímã (49) com uma escova.

Coloque novamente o flutuador (47).

#### **Armazenamento e transporte**

##### **Armazenamento**

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte do cabo (24).
- Encaixe o acessório nos suportes previstos para o efeito.
- Enrole a mangueira de aspiração (33) no compartimento para a mesma. Puxe as duas fitas de tração (17) para cima e enganche as mesmas nas aberturas de fixação.
- Engate a L-Boxx nos encaixes (13).
- Retire o saco de filtro de velo assim que estiver cheio.
- O aspirador só deve ser transportado pelo punho de transporte (12).
- Para o transporte do aspirador, insira o tampão de fecho (23) no encaixe da mangueira (3).
- Deposite o aspirador em um recinto seco com base plana e proteja-o contra uso não autorizado.
- Para fixar os rolos de guia (21) é necessário pressionar as travas do sistema de rodízio (22) com o pé.

##### **Transporte (ver figura R)**

- Para o transporte do aspirador, insira o tampão de fecho (23) no encaixe da mangueira (3).
- Para o transporte mais simples e cômodo do aspirador, esvazie completamente o recipiente ou descarte o saco de filtro de velo cheio.
- O aspirador só deve ser transportado pelo punho de transporte (12).
- Desbloqueie as travas do sistema de rodízio (22) para empurrar ou puxar o aspirador.
- Utilize somente o estribo guia extraído (15) para empurrar ou puxar o aspirador. O aspirador não pode ser puxado pelo estribo guia em patamares. Neste caso, deve ser usada a pega de transporte.

- Assegure que não existe ninguém diretamente atrás de você ao transportar o aspirador nas escadas, caso o aspirador seja deixado cair inadvertidamente.

### Eliminar falhas

► Se ocorrer uma avaria (p. ex. quebra do filtro), o aspirador tem de ser desligado de imediato. A avaria tem de ser eliminada antes da nova colocação em funcionamento.

Problema	Solução
A turbina de aspiração não liga.	Verificar o cabo de corrente elétrica, ficha de rede, fusível, tomada e sensores de nível de enchimento (46). O interruptor principal (2) se encontra em "Sistema automático de Partida/Parada". Colocar o interruptor principal (2) no símbolo "Aspirar" ou ligar a ferramenta elétrica conectada à tomada (4).
A turbina de aspiração desliga.	Na aspiração de líquidos os indicadores LED <b>A</b> e <b>M</b> piscam lentamente e em simultâneo. <b>Esvaziar o depósito (1).</b> Na aspiração a seco os indicadores LED <b>A</b> e <b>M</b> piscam rapidamente e em simultâneo: a proteção contra sobrecarga da tomada no aspirador está ativada. Desligar a ferramenta elétrica.
O aspirador se desliga.	Sobrecarga do aspirador quando a tensão máxima da tomada no aspirador é excedida: o fusível de proteção do motor dispara. Envie o aspirador para um posto de assistência técnica <b>Bosch</b> autorizado.
A turbina não liga após esvaziar o depósito.	Desligar o aspirador e aguardar 5 s, após 5 s ligar novamente. Limpar os sensores de nível de enchimento (46), bem como o intervalo entre os sensores de nível de enchimento (46) com uma escova.
A potência de aspiração diminui.	Eliminar os entupimentos do bocal de aspiração, tubo de aspiração, mangueira de aspiração (33) ou filtro de pregas planas (37). <b>Trocá o saco de filtro de velo (36).</b> Engatar corretamente a cobertura do filtro (43). Colocar corretamente a parte superior do aspirador (16) e fechar os fechos (19). Limpar ou trocar o filtro de pregas planas (37).
Saída de pó ao aspirar	Verificar a montagem correta do filtro de pregas planas (37). Limpar ou trocar o filtro de pregas planas (37).
O desligamento automático (aspiração a úmido) não é ativado.	Limpar os sensores de nível de enchimento (46), bem como o intervalo entre os sensores de nível de enchimento (46) com um pano. Sempre verifique o nível de enchimento.
Soa um sinal de aviso acústico.	Potência de aspiração ajustada para um valor demasiado baixo. <b>Ajustar o regulador da potência de aspiração (11) para um valor mais alto.</b> Ajustado um diâmetro incorreto da mangueira. Ajustar o diâmetro correto da mangueira. Mangueira de aspiração (33) entupida ou dobrada. Eliminar o entupimento ou a dobra. Saco de filtro de velo cheio <b>Trocá o saco de filtro de velo (36).</b> Filtro de pregas planas (37) sujo. Limpar o filtro de pregas planas ou, se necessário, trocar. Fluxo de ar insuficiente através da ferramenta elétrica conectada

Problema	Solução
	Caso exista: abrir a abertura de ar complementar da ferramenta elétrica ou utilizar um adaptador de aspiração adequado com abertura de ar complementar.
	Falha de funcionamento da eletrônica de monitoração Contate um posto de assistência técnica <b>Bosch</b> autorizado.
Soa um sinal de aviso acústico ao aspirador de líquidos.	Não têm de ser adotadas quaisquer medidas.
A limpeza automática do filtro não funciona.	A limpeza automática do filtro só é ativada quando o fluxo de ar cai abaixo de um determinado nível. Para verificar o funcionamento ou para a limpeza manual do filtro mude para o modo manual pressionando a tecla Limpeza manual do filtro (9).
A limpeza manual do filtro não se deixa ativar.	A proteção contra sobreaquecimento do aspirador está ativada. A pressão 10 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (9) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 20 s. A pressão 30 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (9) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 4 min. Se o problema persistir, contate um posto de assistência técnica <b>Bosch</b> autorizado.
A limpeza automática do filtro não é ativada.	Contate um posto de assistência técnica <b>Bosch</b> autorizado.

### Serviço pós-venda e assistência ao cliente

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes também em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipe de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique em todas as questões ou encomendas de peças sobressalentes impreterivelmente a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

#### Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas  
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Vila Norte  
13065-900, CP 1195  
Campinas, São Paulo  
Tel.: 0800 7045 446  
[www.bosch.com.br/contato](http://www.bosch.com.br/contato)

**Encontre outros endereços da assistência técnica em:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Descarte

Aspirador, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias-primas.

Não descarte o aspirador no lixo doméstico!



## 中文

### 吸尘器相关安全规章



请阅读所有的安全规章和指示。不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

应将所有安全规章和指示保存到将来。

▶ **儿童和身体、感官或精神上有缺陷或缺乏经验与知识的人员不得使用本吸尘器。否则会有误操作和人身伤害的危险。**

▶ **请监督好儿童。以确保儿童不使用吸尘器玩耍。**

▶ **遵守待抽吸物质的所有安全规定。**

**⚠ 警告！** 切勿抽吸含石棉的材料。石棉会致癌。

**⚠ 警告！** 只有当您充分了解有关吸尘器使用、待抽吸的材料及其安全处理的情况下，才能使用吸尘器。详细的指导可以减少误操作及人身伤害。

**⚠ 警告！** 本吸尘器适用于抽吸干燥物质，在采取相应措施的情况下也可以抽吸液体。液体渗入会增加触电风险。

▶ **切勿用吸尘器抽吸可燃或爆炸性液体，比如汽油、机油、酒精、溶剂。切勿抽取高温、燃烧的或爆炸性粉尘。切勿在易爆环境中使用吸尘器。上述粉尘、蒸汽或液体可能自燃或爆炸。**

**⚠ 警告！**

电源插座仅可用于使用说明中规定的用途。

**⚠ 警告！**

一旦有泡沫或水溢出，请立即关闭吸尘器并清空。否则可能会损坏吸尘器。

▶ 注意！本吸尘器只能在室内保存。

▶ 注意！定期清洁液体的液位传感器并检查是否损坏。否则可能会影响功能。

▶ 如果在潮湿环境下操作吸尘器是不可避免的，应使用故障电流保护开关。使用故障电流保护开关可减小电击危险。

▶ 每次使用前都要检查吸尘器、电源线和插头。一旦发现损坏，请勿使用吸尘器。请勿自行打开吸尘器，只能由具有相应资质的专业人员用原厂配件进行维修。吸尘器、电线和插头如果损坏了会提高触电的危险。

▶ 切勿碾压或挤压电源线。切勿拉扯电源线以将插头从电源插座上拔下或移动吸尘器。损坏的电线会提高用户触电的危险。

▶ 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

▶ 要确保工作场所通风良好。

▶ 吸尘器只能由具有相应资质的专业人员用原厂配件进行维修。如此才能确保吸尘器的安全性能。

▶ 如果在包含有害健康的物质的区域中使用了吸尘器，则在将吸尘器带离危险区域前，对吸尘器的外部进行抽吸、擦拭和密封。吸尘器的所有零件均被视为已污染，必须采取合理措施，以确保有害健康的物质不会扩散。

**⚠ 警告！**

吸尘器内含有害粉尘。仅允许由专业人员执行清空和保养操作，包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况下使用集尘器。否则会危害身体健康。

▶ 调试前，检查集尘软管的状态是否正常。同时将集尘软管安装到集尘器上，以防粉尘意外溢出。否则您可能会吸入粉尘。

▶ 不要将集尘器作为坐具使用。这样会损坏吸尘器。

▶ 请小心地使用电源线和集尘软管。因为上述机件可能危及他人。

▶ 清洁吸尘器时，不可以把水柱直接瞄准吸尘器。雨水或湿气进入吸尘器上部件会增加电击风险。

▶ 将吸尘器与正常接地的电网连接。电源插座和延长线必须带有功能完好的安全引线。

▶ 湿式吸尘时或在潮湿环境中切勿使用吸尘器上的插座。接触水时有造成短路或触电的危险。

**图标**

以下符号可以帮助您正确地使用本吸尘器。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以让您更有把握更安全地操作本吸尘器。

**图标及其含义**

**警告！** 请阅读所有安全规章和指示。不遵守安全规章和指示可能会导致触电、着火和/或严重伤害。



符合IEC/EN 60335-2-69粉尘等级M的吸尘器，用于干式抽吸危害健康的粉尘（暴露限值为> 0.1毫克/立方米）



**警告！** 吸尘器内含有害粉尘。仅允许由专业人员执行清空和保养操作，包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况下使用集尘器。否则会危害身体健康。



最多只能点击一个L-Boxx。




L-Boxx及其内含物的重量不得超过15公斤。



例如在运输途中切勿将吸尘器悬挂在吊车挂钩上。吸尘器不能用吊车吊运。有受伤和损坏的危险。



不要将吸尘器用作座位、梯子或踏板。否则吸尘器可能会翻倒并受损。有受伤的危险。



A

**A** 自动过滤器清洁模式LED指示灯

M

**M** 手动过滤器清洁模式LED指示灯

28 22

**28/22**

抽吸软管直径LED指示灯



自动过滤器清洁按钮



手动过滤器清洁按钮



抽吸软管直径按钮（流量）

### 图标及其含义



#### 自动启停

吸除运行中的电动工具的积尘  
吸尘器自动接通并延时关闭。  
吸尘器上的插座始终处于带电状态。



#### 关闭

吸尘器上的插座不带电。



#### 吸尘

吸取沉积的粉尘和抽吸系统中的粉尘。  
吸尘器上的插座始终处于带电状态。



#### 最小/最大

吸力无级调节：

- 最大吸尘功率，适用于大量粉尘产生的应用
- 吸尘功率降低，适用于少量粉尘产生的应用以及用于调节连接的电动工具和工件表面之间的吸力（例如在打磨时）



数据记录功能在本吸尘器中已激活。



说明所连接的电动工具的允许连接功率（视国家而定）

## 产品和性能说明

请注意本使用说明书开头部分的图示。

### 按照规定使用

本吸尘器可以收集、吸除、运输和存放非易燃的干粉尘和非易燃液体。本吸尘器经过粉尘技术的检验并符合粉尘等级M。因其较高的负载适合使用在商业用途中，例如手工业、工业和修理厂。

符合IEC/EN 60335-2-69粉尘等级M的吸尘器只允许用于抽吸危害健康的粉尘（暴露限值  $\geq 0.1$  毫克/立方米）。

必须熟悉所有的操作功能，并且能够不受限制地执行各功能时才可以使用本吸尘器。否则得有充分的指导才能够操作本吸尘器。

### 插图上的机件

图示组件的编号和吸尘器详解图上的编号一致。

- (1) 容器
- (2) 主开关
- (3) 软管定位件

- (4) 电动工具插座
- (5) 自动过滤器清洁模式LED指示灯A
- (6) 手动过滤器清洁模式LED指示灯M
- (7) 抽吸软管直径LED指示灯22/28
- (8) 抽吸软管直径按钮（流量）
- (9) 手动过滤器清洁按钮
- (10) 自动过滤器清洁按钮
- (11) 吸尘功率调节器
- (12) 提手
- (13) L-BOXX定位座
- (14) 导向支架按钮
- (15) 可拉伸导向支架
- (16) 吸尘器上部件
- (17) 系带
- (18) 固定口
- (19) 吸尘器上部件锁止件
- (20) 滚轮
- (21) 导向滚轮
- (22) 导向滚轮制动器
- (23) 抽吸接口密封塞
- (24) 电缆支架
- (25) 后部手柄区域
- (26) 地板吸嘴支架
- (27) 地板吸嘴
- (28) 组合式刷式吸嘴
- (29) 组合式抽吸适配接头（用于电动工具）
- (30) 预滤器盖
- (31) 预滤器解锁按钮
- (32) 吸管
- (33) 抽吸软管
- (34) 弯曲吸嘴
- (35) 无纺布滤袋支架
- (36) 无纺布滤袋
- (37) 扁平折叠式过滤器
- (38) 抽吸软管按钮
- (39) PowerTool适配接头（前部）
- (40) PowerTool适配接头（后部）
- (41) 组合式刷式吸嘴解锁按钮
- (42) 用于可拉伸导向支架的导轨
- (43) 扁平折叠式过滤器盖板
- (44) 过滤器盖板锁止片
- (45) 预滤器
- (46) 料位传感器
- (47) 浮标
- (48) 浮标锁止器
- (49) 磁铁

## 技术参数

湿式/干式吸尘器		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
物品代码3 601 JMO ...		... 120/... 1F0 ... 180/... 1E0/... 1N0 ... 1K0 ... 1L0/... 170 ... 1H0 ... 130	... 1D0/... 1G0 ... 1C0 ... 160
额定输入功率	瓦	1200	1200
频率	赫兹	50-60	60
容器容积 (毛容积)	升	40	40
净容积 (干)	升	28	26
净容积 (液体)	升	20	18
无纺布滤袋容积	升	19	19
真空 <sup>A)</sup>			
- 吸尘器	百帕	220	180
- 涡轮	百帕	230	200
流量 <sup>A)</sup>			
- 吸尘器	升/秒	28	26
	立方米/小时	100.8	93.6
- 涡轮	升/秒	71.5	70
	立方米/小时	257	252
粉尘等级	M	M	M
重量 <sup>B)</sup>	公斤	14.1	14.5
保护等级	⊕/I	⊕/I	⊕/I
防护类型	IPX4	IPX4	IPX4

A) 使用直径为 28 mm 和长度为 4 m 的抽吸软管测量

B) 不含电源线和电源插头的重量

数据适用于给定的额定电压。对于其他不同的电压和国家规格，数据有可能不同。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见 [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac)。

## 吸尘器上的插座

所连接的电动工具的允许连接功率			
3 601 JMO ...	额定电压	最大功率	最小功率
... 120/... 1F0	230伏特	2100瓦	100瓦
... 180/... 1E0/... 1N0	220伏特	2100瓦	100瓦
... 1K0	220-230伏特	2100瓦	100瓦
... 1L0/... 170	220-240伏特	1660瓦	100瓦
... 1H0	220伏特	1000瓦	100瓦
... 130	230伏特	1100瓦	100瓦
... 1D0/... 1G0	127伏特	705瓦	100瓦
... 1C0	115伏特	525瓦	100瓦
... 160	110伏特	560瓦	100瓦

说明所连接的电动工具的允许连接功率。

在其他国家的型号上，这些数值可能有所偏差。请注意吸尘器电源插座上的数据。

## 安装

- 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

### 安装吸尘器配件（见图片A）

抽吸软管(33)装备有卡子系统，可以通过吸尘器配件（组合式抽吸适配接头(29)、弯曲吸嘴(34)、组合式刷式吸嘴(28)）连接。

#### 安装弯曲吸嘴

- 将弯曲吸嘴(34)插到抽吸软管(33)上，直到听见抽吸软管的两个按钮(38)的卡止声。
- 拆除时向内按压两个按钮(38)，并将部件拉开。

#### 安装地板吸嘴和管道

- 按需将吸管(32)牢牢互相插接，然后牢牢插到弯曲吸嘴(34)上。
- 将地板吸嘴(27)牢牢插到吸管(32)或弯曲吸嘴(34)上。

#### 安装组合式抽吸适配接头

组合式抽吸适配接头(29)由PowerTool适配接头（前部）(39)和PowerTool适配接头（后部）(40)组成。

组合式抽吸适配接头(29)兼容博世电动工具。

PowerTool适配接头（后部）(40)内径为38.5毫米，外径为45毫米，也可用于其他制造商的电动工具。

将PowerTool适配接头（前部）(39)插到PowerTool适配接头（后部）(40)上，并将二者通过向反方向旋转完成连接（见图B）。

将组合式抽吸适配接头(29)插到抽吸软管(33)上，直到听见抽吸软管的两个按钮(38)卡止。

拆除时向内按压两个按钮(38)，并将组合式抽吸适配接头从吸尘软管上拔下。

请将两个适配接头朝相反方向转动并相互拉开，以断开连接。

#### 安装组合式刷式吸嘴

将组合式刷式吸嘴(28)插到抽吸软管(33)上，直到听见抽吸软管的两个按钮(38)卡止。

拆除时向内按压两个按钮(38)，并将部件拉开。

#### 调节组合式刷式吸嘴（见图C）

组合式刷式吸嘴(28)可用作缝隙吸嘴或刷子。

按下解锁按钮(41)并将刷子向前推，以将组合式刷式吸嘴(28)用作刷子。

按下解锁按钮(41)并将刷子向后推，以将组合式刷式吸嘴(28)用作缝隙吸嘴。

#### 安装抽吸软管（见图D）

将密封塞(23)从软管定位件(3)中拔出。

将抽吸软管(33)插到软管定位件(3)上，并按照顺时针方向旋转直至限位。

- 取下抽吸软管时，一定要用密封塞封闭抽吸软管接口。这样能防止粉尘溢出。

**提示：**吸尘时由于灰尘在抽吸软管和配件中摩擦而产生静电，用户能感觉到静电放电（取决于环境条件和身体感知）。

一般博世建议在抽吸细小的灰尘和干燥材料时使用防静电抽吸软管（配件）。

#### 将抽吸软管在吸尘器上固定（见图E）

将组装好的抽吸软管(33)卷入抽吸软管盒。向上拉两根系带(17)，将它们钩入固定口(18)中。

#### 更换无纺布滤袋（干式吸尘）

必须使用无纺布滤袋(36)（附件）对粉尘等级为M的材料进行干式吸尘。

如果吸取的材料没有或暴露限值 $\geq 1$ 毫克/立方米（相当于粉尘等级L），则可以直接将其吸入容器中。

**提示：**使用无纺布滤袋时，请关闭自动过滤器清洁（参见“自动/手动过滤器清洁（见图L）”，页 67）。

**▲ 警告！** 吸尘器内含有害粉尘。仅允许由专业人员执行清空和保养操作，包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况下使用集尘器。否则会危害身体健康。

#### 装入/取出无纺布滤袋（见图F-G）

打开锁止件(19)，取下吸尘器上部件(16)。

使用时将无纺布滤袋(36)插到无纺布滤袋支架(35)上，并将无纺布滤袋(36)和无纺布滤袋支架(35)一起装到容器(1)中。

请拉动锁止件，封闭整个无纺布滤袋的开口，以将其取下。将已封口的无纺布滤袋(36)从无纺布滤袋支架(35)上拔下，并从吸尘器中取出。

再次装上吸尘器上部件(16)，并通过关闭锁止件(19)将容器(1)连接吸尘器上部件(16)。

#### 点击L-Boxx（参加插图H）

要运输吸尘器以及节省空间的存放吸尘器配件和/或电动工具，您可以在吸尘器的上半部点击L-Boxx。

将抽吸软管在吸尘器上固定（见图E）。

点击定位座(13)上的L-Boxx。

► 不要在点击L-Boxx的情况下吸尘。吸尘器的重心向上移动。吸尘器可能会翻倒。有受伤和损坏的危险。

► 不要使用已点击L-Boxx的手提把手提起吸尘器。吸尘器对L-Boxx的手提把手而言太重。有受伤和损坏的危险。

#### 安装可拉伸导向支架（见图I-J）

**提示：**可拉伸导向支架无法拆下。安装时注意导向支架的正确定位。

装入导向支架(15)之前，根据R（右）和L（左）标记对准导向支架。

将导向支架(15)装入导轨(42)。

将导向支架(15)向下压至止动线，直到听到导向支架卡止。

按压按钮(14)，以更改导向支架(15)的长度。

## 运行

- ▶ 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

## 投入使用

- ▶ 注意电源电压！电源的电压必须和吸尘器铭牌上标示的电压一致。
- ▶ 请了解在贵国处理有损健康的灰尘时需遵守的现行法规/法律。

吸尘器允许用于吸除以下材料：

- 暴露限值大于等于0.1毫克/立方米的粉尘基本上不可以有在爆炸危险的场所使用本吸尘器。为保障最佳的吸尘功率，必须将抽吸软管(33)完全从吸尘器上半部(16)展开。

### 调节吸力

通过吸尘功率调节器(11)可以无级调节吸力。对于产生大量粉尘的应用，将吸尘功率调节器(11)调至最高档位。

如需用于少量粉尘产生的应用以及用于调节连接的电动工具和工件表面之间的吸力（例如在打磨时），将吸尘功率调节器(11)调至低功率档。

### 体积流量监控

本吸尘器配有体积流量监控。在“吸尘”运行模式下，体积流量监控的值固定设置为20米/秒。如果低于该数值，例如因为抽吸软管中有积垢、无纺布滤袋已满或者扁平折叠式过滤器堵塞，则LED指示灯(7)22或28中的一个会相应地闪烁，并发出一声警告音。在这种情况下，请关闭吸尘器并按照“故障排除”一节中的说明进行检查。

**提示：**在使用吸气软管供气不足的电动工具（如曲线锯、磨机等）工作时，可能会发出一声警告音。为避免出现警告信息，建议额外使用配件系列中带有渗入空气口的合适吸尘适配接头。

### 调节软管直径

软管直径	体积流量设定值
22毫米	28立方米/小时
28毫米	45立方米/小时

如需调节吸力，请选择所用的软管直径。

按压抽吸软管直径按钮(8)。LED指示灯(7)22或28会亮起。



### 吸尘器上的插座

- ▶ 注意吸尘器上插座的允许连接功率。超过最大允许连接功率会导致吸尘器过载。将触发电机保护保险丝。将吸尘器发送给经授权的Bosch客户服务中心。

一旦吸尘器电源插头插入插座且主开关位于位置1，则电动工具插座(4)处于通电状态。它可以用作吸尘器上的外部电源接口，例如搭配抽吸系统工作时。主开关位于位置1+时，吸尘器的自动启停功能激活。可以通过所连接的电动工具远程接通吸尘器。

## 干式吸尘

### 吸除积尘

如需接通吸尘器，请将主开关(2)转到位置1。



如需关闭吸尘器，请将主开关(2)转到位置0。



### 吸除运行中的电动工具的积尘（见图K）

- ▶ 如果废气回流至室内，必须保证在室内有充足的空气交换率。注意各有关的法规。

在吸尘器中内置了一个电动工具插座(4)。您可在该插座上连接一个外部的电动工具。注意所连接的电动工具的最大允许连接功率。

安装组合式抽吸适配接头(29)（见图B）。

将组合式抽吸适配接头(29)插入电动工具的抽吸套管中。



如需接通吸尘器的自动启停功能，请将主开关(2)转到位置1+。

如需调试吸尘器，接通与插座(4)连接的电动工具。此时吸尘器会自动启动。

关闭电动工具，以结束吸尘作业。

自动启停功能最多延迟运行15秒钟，以吸除抽吸软管中剩余的灰尘。




如需关闭吸尘器，请将主开关(2)转到位置0。

### 使用抽吸系统（附件）

将抽吸系统连接到抽吸软管(33)上。



如需通过抽吸系统吸尘，请将主开关(2)转到位置1。



将抽吸系统抵在墙面上，然后接通电动工具。由于产生的负压，抽吸系统会自行吸附住。

关闭电动工具，然后抽吸系统小心地从墙面上取下。



如需关闭吸尘器，请将主开关(2)转到位置0。

## 湿式吸尘

- ▶ 切勿用吸尘器抽吸可燃或爆炸性液体，比如汽油、机油、酒精、溶剂。切勿抽取高温、燃烧的或爆炸性粉尘。切勿在易爆环境中使用吸尘器。上述粉尘、蒸汽或液体可能自燃或爆炸。

- ▶ 吸尘器不得作为水泵使用。吸尘器专为抽吸空气和水的混合物而设计。

**提示：**对于透过率的要求（粉尘等级M）证明仅适用于干式吸尘。

### 湿式吸尘前

排空容器(1)，取下无纺布滤袋(36)。

检查料位传感器(**46**)的脏污程度。只有干净的料位传感器才能在容器料位满时自动关闭吸尘器(参见“清洁料位传感器(见图P-Q)”,页68)。

**► 湿式吸尘期间,自动过滤器清洁必须关闭。**

按压自动过滤器清洁按钮(**10**),以激活手动过滤器清洁(参见“手动过滤器清洁”,页67)。由此关闭自动过滤器清洁,LED指示灯**A (5)**熄灭。

#### 吸除液体

**▲ 警告!**一旦有泡沫或水溢出,请立即关闭吸尘器并清空。否则可能会损坏吸尘器。

如需接通吸尘器,请将主开关(**2**)转到位置**1**。

吸尘器配有料位传感器(**46**)。当到达最高料位时,吸尘器会自动关闭,LED指示灯**A (5)**和**M (6)**会同时以每秒1次的频率闪烁。重启保护已激活,可以通过接通/关闭吸尘器1次来停用。

**提示:**定期检查料位,及时清空容器。如果在湿式吸尘过程中发出警告音,则无需采取任何措施。吸尘器的操作安全性不受影响。

如需关闭吸尘器,请将主开关(**2**)转到位置**0**。

握住容器(**1**)的后部手柄区域(**25**),并翻转容器,以将液体向前排空。

#### 湿式吸尘后

每次湿式吸尘后都要清洁料位传感器(**46**)(参见“清洁料位传感器(见图P-Q)”,页68)。

湿式吸尘后为了避免形成霉菌:

- 取出扁平折叠式过滤器(**37**),并让其充分风干。
- 取下吸尘器上半部(**16**),打开过滤器盖板(**43**)并让两者充分风干。

### 自动/手动过滤器清洁(见图L)

#### 自动过滤器清洁

**提示:**接通吸尘器时,自动过滤器清洁为默认设置。

LED指示灯**A(5)**常亮。

使用自动过滤器清洁时,扁平折叠式过滤器(**37**)通过2次空气振荡(伴随脉动噪音)清洁。一旦传感器检测到气流下降到一定水平以下,就会发生这种情况。

定期使用过滤器清洁可提高过滤器的使用寿命。

为达到理想的过滤器使用寿命,只有在特殊情况下,如进行湿式吸尘时,才停用自动过滤器清洁。

#### 手动过滤器清洁

按压手动过滤器清洁按钮(**9**),以执行手动过滤器清洁。扁平折叠式过滤器(**37**)通过2次空气振荡清洁。

LED指示灯**M (6)**亮起白色2秒。当LED指示灯**M (6)**熄灭时,可以触发下一次空气振荡。为此,再次按压手动过滤器清洁按钮(**9**)。

**提示:**进行手动过滤器清洁时,注意每次按下按钮的时间间隔为2-3秒。多次连续按下手动过滤器清洁按钮(**9**)会触发吸尘器过热保护。过热保护会在一段时间后自动解除(参见“故障排除”,页68)。

按下自动过滤器清洁按钮(**10**),以关闭手动过滤器清洁。

表面脏污的扁平折叠式过滤器功能完全正常。无需通过拍打或吹净扁平折叠式过滤器进行手动清洁,这甚至会损坏过滤器。

## 保养和维修

### 保养和清洁

**► 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前,先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。**

**► 吸尘器和通气孔必须随时保持清洁,以确保工作效率和工作安全。**

如果必须更换连接线,务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行,以避免危害机器的安全性能。

**► 在保养和清洁吸尘器时带上防尘面具。**

请不时地用湿布清洁吸尘器壳体。

**► 切勿用压缩空气清洁吸尘器。**可能损坏过滤器或其他组件。

每年至少一次,由制造商或经过培训的人员对吸尘器进行一次吸尘功能的检查(例如检查过滤器是否损坏、吸尘器是否泄漏以及控制装备的功能是否正常)。

### 抽吸有害物质后的清洁和保养

- 请将可能接触有害物质的所有零件视为脏污。
- 在将吸尘器从含有有害物质的区域取出之前,请吸尘、擦拭或彻底密封吸尘器的外部。
- 只在不对您和他人造成危险的情况下清洁、拆卸和保养吸尘器。进行保养和清洁时得穿戴好个人的防护装备。在通风良好的空间内执行作业。
- 拆卸吸尘器前,先清洁吸尘器的外部。
- 将所有清洁未达到满意程度的吸尘器零件装在不通透的袋子里进行废弃处理。同时遵守适用于废弃处理此类废弃物的有效规定。
- 完成作业后请清洁该保养区域。

### 清洁容器

请不时地用市售非研磨性清洁剂擦拭容器(**1**)并晾干。

### 清洁/更换扁平折叠式过滤器(见图M-N)

**► 通过抓住闭合接片来打开过滤器盖板,确保打开的过滤器盖板卡止在垂直位置。过滤器盖板掉落时存在受伤危险。**

吸尘功率取决于过滤器状态。因此请定期清洁过滤器。

立刻更换已损坏的扁平折叠式过滤器(**37**)。

- 每次清洁/更换扁平折叠式过滤器(**37**)前,拆卸抽吸软管(**33**)并将密封塞(**23**)插入软管定位件(**3**)。
- 拉住锁止片(**44**),将过滤器盖板(**43**)向上翻,直到它卡止在垂直方向上。
- 抓住扁平折叠式过滤器(**37**)的环边,将其向上取出。
- 使用湿布从容器(**1**)的边缘清除取出扁平折叠式过滤器(**37**)时落下的粉尘和污垢。
- 可以用水冲洗扁平折叠式过滤器。

- 将新的或清洗过的扁平折叠式过滤器(37)装入，注意牢固和正确安装。
- 关上过滤器盖板(43)，直到听到卡止声。

#### 清洁预滤器（见图O）

► 预滤器不得湿洗。

► 不要从上方探入导向支架和吸尘器之间的区域以解锁预滤器盖。这样可能会夹伤您的手。

向上拉导向支架(15)，直到能从后方接触到预滤器盖。

按压预滤器盖(30)的解锁按钮(31)，将预滤器盖从预滤器盒中取出。

取出预滤器(45)。

用软毛刷刷净预滤器的片层。

将预滤器放入预滤器盖(30)。

将预滤器盖(30)放入预滤器盒并翻入。

#### 清洁料位传感器（见图P-Q）

将吸尘器的电源插头从插座中拔出。

取下吸尘器上部件(16)。

清空容器(1)。

移动或轻击浮标(47)，以清除脏污。

用软布清洁浮标(47)。

必要时也可取下浮标。为此按压锁止件(48)，取出浮标(47)。

用刷子清洁磁铁(49)。

重新装入浮标(47)。

#### 存储和运输

##### 存储

- 将电源线缠到电线支架(24)上。

- 将配件插入规定的支架内。
- 将抽吸软管(33)卷入抽吸软管盒。向上拉两根系带(17)，将它们钩入固定口中。
- 点击定位座(13)上的L-BOXX。
- 如果无纺布滤袋已满，则立即将其取出。
- 只能使用提手(12)提起吸尘器。
- 运输吸尘器时，将密封塞(23)插入软管定位件(3)中。
- 在干燥平整的地方存储吸尘器，防止未经授权使用。
- 为固定导向滚轮(21)，请踩下导向滚轮制动器(22)。

#### 运输（见图R）

- 运输吸尘器时，将密封塞(23)插入软管定位件(3)中。
- 为了以保护背部的方式更轻松地搬运吸尘器，请完全清空容器或废弃处理已满的无纺布滤袋。
- 只能使用提手(12)提起吸尘器。
- 解锁导向滚轮制动器(22)，以推动或拉动吸尘器。
- 仅使用已拉伸的导向支架(15)来推动或拉动吸尘器。不得用导向支架将吸尘器拉过台阶。这种情况下应使用提手。
- 搬运吸尘器上楼梯时，确保身后没有其他人，以防吸尘器意外掉落。

#### 故障排除

- 当出现故障时（比如过滤器破裂），必须立即关闭吸尘器。排除故障后才可以重新使用。

问题	解决措施
吸气涡轮无法启动。	检查电源线、电源插头、保险丝、插座和料位传感器(46)。 主开关(2)处于“自动启停”位置。
吸气涡轮自行关闭。	将主开关(2)调至图标“抽吸”或接通连接在电源插座(4)上的电动工具。 湿式吸尘时，LED指示灯A和M会同时缓慢闪烁。 清空容器(1)。
吸尘器自行关闭。	由于超过吸尘器上插座的最大电压，导致吸尘器过载：电机保护保险丝触发。 将吸尘器发送给经授权的Bosch客户服务中心。
在排空容器后吸气涡轮无法再次启动。	关闭吸尘器并等待5秒，5秒后再次打开。 用刷子清洁料位传感器(46)以及料位传感器(46)之间的间隙。
吸力下降。	清除吸嘴、吸管、抽吸软管(33)或扁平折叠式过滤器(37)的堵塞物。 更换无纺布滤袋(36)。 将过滤器盖板(43)正确卡入。 正确安装吸尘器上部件(16)并闭合锁止件(19)。
吸尘时粉尘溢出	清洁或更换扁平折叠式过滤器(37)。 检查扁平折叠式过滤器(37)是否正确安装。

问题	解决措施
自动断开装置（湿式吸尘）不响应。	清洁或更换扁平折叠式过滤器(37)。 用软布清洁料位传感器(46)以及料位传感器(46)之间的间隙。 持续监控料位高度。
发出警告音。	吸尘功率设置得过低。 将吸尘功率调节器(11)的数值调高。 软管直径设置错误。 设置正确的软管直径。 抽吸软管(33)堵塞或弯折。 排除堵塞或弯折。
	无纺布滤袋已满 更换无纺布滤袋(36)。 扁平折叠式过滤器(37)脏污。 清洁扁平折叠式过滤器，必要时更换。 所连接的电动工具供气气流不足 如有：打开电动工具的渗入空气口或使用带有渗入空气口的合适吸尘适配接头。 监控电子系统功能故障 请联系经授权的Bosch客户服务中心。
湿式吸尘时发出警告音。	无需采取任何措施。
自动过滤器清洁不工作。	只有当气流低于一定水平时，才会激活自动过滤器清洁。如需检查功能或手动清洁过滤器，请按压手动过滤器清洁按钮(9)，以切换至手动模式。
手动过滤器清洁无法触发。	吸尘器过热保护已激活。 连续按压手动过滤器清洁按钮(9)10次后，过热保护已触发。过热保护会在20秒后自动解除。 连续按压手动过滤器清洁按钮(9)30次后，过热保护已触发。过热保护会在4分钟后自动解除。 如果问题仍然存在，请联系经授权的Bosch客户服务中心。
自动过滤器清洁不触发。	请联系经授权的Bosch客户服务中心。

## 客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。  
询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

### 中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司  
中国 浙江省 杭州市  
滨江区 滨康路567号  
102/1F 服务中心  
邮政编码：310052  
电话：(0571)8887 5566 / 5588  
传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮：[bsc.hz@cn.bosch.com](mailto:bsc.hz@cn.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.cn](http://www.bosch-pt.com.cn)

**制造商地址：**  
Robert Bosch Power Tools GmbH  
罗伯特·博世电动工具有限公司  
70538 Stuttgart / GERMANY  
70538 斯图加特 / 德国

**其他服务地址请见：**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## 处理废弃物

必须使用符合环保要求的方式处理废弃的吸尘器、附件和包装材料。



请勿将吸尘器扔到生活垃圾中！

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳的金属部分	O	O	O	O	O	O
外壳的非金属部分	O	O	O	O	O	O
机械传动机构	X	O	O	O	O	O
电机组件	X	O	O	O	O	O
控制组件	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O
配件	O	O	O	O	O	O
连接件	X	O	O	O	O	O
电源线①	O	O	O	O	O	O
电池系统②	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

① 适用于采用电源线连接供电的产品。

② 适用于采用充电电池供电的产品。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。

## 繁體中文

### 吸塵器安全注意事項



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及 / 或重傷。  
請妥善保存所有安全注意事項與指示，以供日後查閱之用。

► **本吸塵器不適合兒童以及體能、知覺或智能有障礙之人土，或者不具備充分經驗及知識者使用。**否則可能會造成操作上的錯誤以及受傷危險。

► **請留意兒童的安全。**如此才能確保他們未將本吸塵器當做玩具任意玩耍。

► **請遵守吸除物質的所有安全規定。**

**⚠ 警告** 請勿用於吸除含石棉材料。石棉已認定為致癌物。

#### ⚠ 警告

您必須先瞭解吸塵器本身 的使 用方式、欲吸除之物質以 及安 全處置該物質的方式等相關資訊之後，才可開始使 用吸塵器。謹慎的事前教育訓練可減少操作錯誤或 人員受傷。

#### ⚠ 警告

吸塵器本身僅適合用於吸除乾 燥材料，並且在採取適當措施 後亦可用來吸除液體。如有液體滲入將增加觸電風 險。

► 吸塵器切勿用於吸除汽油、機油、酒精、溶劑等 可燃或易爆液體。切勿用於吸除高溫、燃燒中或 具爆炸性的粉塵。吸塵器不得在具有爆炸危險之 空間裡運轉。上述灰塵、蒸氣或液體可能自燃或 爆炸。

#### ⚠ 警告

此插座僅可用於操作說明書中 指定的用途。

#### ⚠ 警告

若有任何泡沫漏出機外或有水 滲出，請立刻關閉吸塵器電源 並清空容器。否則吸塵器可能損壞。

► 注意！此吸塵器僅能存放於室內。

► 注意！定期清潔液體滿載感應器，並檢查該部件 有無受損。否則，浮球的運作功能可能受影響。

► 如果無法避免在潮濕環境下操作吸塵器，應使用 漏電保護開關。使用漏電保護開關可降低觸電風 險。

- ▶ 每次使用前，請仔細檢查吸塵器、電線及插頭。若有發現任何受損現象，請勿使用吸塵器。請勿自行拆開吸塵器，而是應該將它交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。吸塵器、電線和插頭如果損壞了，將增加觸電風險。
- ▶ 不可輕壓或擠壓電線。將插頭拔出插座時或移動吸塵器時，請勿直接拉扯電線。損壞的電線將增加觸電風險。
- ▶ 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。
- ▶ 要確保工作場所通風良好。
- ▶ 請務必將吸塵器交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。如此才能確保吸塵器的安全性能。
- ▶ 若曾於含有危害健康物質的區域使用過吸塵器，將其從危險區域移出前，請先吸除、擦拭或封住吸塵器的外側。吸塵器的所有零件皆視為已受污染的物件，您必須採取適當措施以確保危害健康的物質不會擴散。

#### ⚠ 警告

本吸塵器內含危害人體健康的粉塵。所有清空及維護作業（包含清除集塵容器在內）僅可交由受過專業訓練的人員執行。必須穿戴適當的防護裝備。過濾裝置若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。否則將危害您的身體健康。

- ▶ 正式運轉前，請確認吸塵軟管是否狀況良好。此時請將吸塵軟管確實裝到吸塵器上，以免粉塵意外洩露。若不這樣做，您可能會吸入廢塵。
- ▶ 切勿將吸塵器當作椅子使用。這樣可能造成吸塵器損壞。
- ▶ 使用電源線及吸塵軟管時，請您小心謹慎。因為上述部件可能危及他人安全。
- ▶ 清潔時，勿用水柱直噴吸塵器。如有水滲入吸塵器上部，將增加觸電風險。
- ▶ 請將吸塵器連接至合規的已接地市電電力網。插座與延長線都必須具有接地保護設計。
- ▶ 進行溼式吸塵或在潮濕環境中時，請勿使用吸塵器上的插座。接觸到水即可能造成短路或觸電風險。

## 符號

以下符號可以幫助您正確地使用本吸塵器。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號的代表意義，可以讓您更有把握更安全地操作本吸塵器。

#### 符號和它們的代表意義



**警告！** 請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員觸電及 / 或重傷。



此吸塵器的粉塵等級為 M，符合 IEC/EN 60335-2-69，這是針對乾式吸塵暴露濃度  $> 0.1 \text{ mg/m}^3$  之有害粉塵而制定的標準規範。

#### 符號和它們的代表意義



**警告！** 本吸塵器內含危害人體健康的粉塵。所有清空及維護作業（包含清除集塵容器在內）僅可交由受過專業訓練的人員執行。必須穿戴適當的防護裝備。過濾裝置若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。否則將危害您的身體健康。



僅能點選一個 L-BOXX。

L-BOXX 連同其內容物之重量不得超過 15 kg。



搬運時，請勿將吸塵器掛在起重機的掛鉤上。吸塵器不可用起重機吊運。可能會造成人員受傷或物品損壞。



請勿將吸塵器當做座椅、梯子或登高踏凳使用。吸塵器可能會傾倒而受損。人員有受傷之虞。



A

濾網自動清潔模式 LED 指示器

M

濾網手動清潔模式 LED 指示器

28 22

28/22

吸塵軟管直徑 LED 指示器



濾網自動清潔按鈕



濾網手動清潔按鈕



吸塵軟管直徑按鈕（體積流量）



**自動啟停機制**

吸除電動工具運轉時產生的粉塵；吸塵器會自動啟動，並延遲關閉。吸塵器上的插座全程處於通電狀態。

**符號和它們的代表意義**

**關閉**  
吸塵器上的插座未通電。



**吸塵**  
吸除積塵與吸塵系統中之灰塵。  
吸塵器上的插座全程處於通電狀態。



**最小 / 最大**  
無段式吸力調節：  
- 最大吸力可供產生大量粉塵的應用情境使用  
- 降低吸力可供產生較少粉塵的應用情境使用，並調節所連接電動工具和工作表面之間的吸力（例如進行研磨時）



已於此吸塵器上啟用數據測量記錄功能。



所連接之電動工具的允許連接功率  
相關說明（視國別而有所差異）

**產品和規格性能**

請留意操作說明書中最前面的圖示。

**依規定使用機器**

本吸塵器適用於收集、吸除、輸送和分離不可燃的乾燥粉塵和不可燃液體。本吸塵器已接受過粉塵技術性檢驗，並且符合粉塵等級 M。此吸塵器可適用於工商業界之高密集使用頻率，例如：手工業、工業和維修廠。

符合 IEC/EN 60335-2-69 的粉塵等級 M 吸塵器僅適用於吸除暴露濃度  $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$  的有害粉塵。

必須熟悉所有的操作功能，並且能夠不受限制地執行各功能時才可以使用本吸塵器。否則須接受充份指導才能操作本吸塵器。

**插圖上的機件**

機件的編號和吸塵器詳解圖上的編號一致。

- (1) 集污箱
- (2) 總開關
- (3) 軟管接口
- (4) 連接電動工具的插座
- (5) 濾網自動清潔模式 LED 指示器 A
- (6) 濾網手動清潔模式 LED 指示器 M

(7) 吸塵軟管直徑 LED 指示器 22/28

(8) 吸塵軟管直徑按鈕（體積流量）

(9) 濾網手動清潔按鈕

(10) 濾網自動清潔按鈕

(11) 吸力調節器

(12) 提把

(13) L-BOXX 支座

(14) 推拉桿按鈕

(15) 可拉出式推拉桿

(16) 吸塵器上部

(17) 拉帶

(18) 固定孔

(19) 吸塵器上部鎖扣

(20) 滾輪

(21) 轉向滾輪

(22) 轉向滾輪制動器

(23) 吸氣連接口封蓋

(24) 電線托架

(25) 後握持區

(26) 地板刷頭固定裝置

(27) 地板吸頭

(28) 組合式刷頭

(29) 組合式吸塵轉接頭（適用於電動工具）

(30) 粗濾器蓋

(31) 粗濾器解鎖按鈕

(32) 吸塵硬管

(33) 吸塵軟管

(34) 彎管吸頭

(35) 不織布濾袋支架

(36) 不織布濾袋

(37) 平摺式濾網

(38) 吸塵軟管按鈕

(39) PowerTool 轉接頭（前部）

(40) PowerTool 轉接頭（後部）

(41) 組合式刷頭解鎖按鈕

(42) 可拉出式推拉桿的導軌

(43) 平摺式濾網濾器蓋

(44) 濾器蓋的鎖定片

(45) 粗濾器

(46) 液位感測器

(47) 浮球

(48) 浮球鎖止裝置

(49) 磁鐵

## 技術性數據

乾濕兩用吸塵器		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
產品機號 3 601 JMO ...		... 120/... 1F0 ... 180/... 1E0/... 1N0 ... 1K0 ... 1L0/... 170 ... 1H0 ... 130	... 1D0/... 1G0 ... 1C0 ... 160
額定輸入功率	W	1200	1200
頻率	Hz	50-60	60
集污箱容量 (毛容量)	l	40	40
淨容量 (乾燥)	l	28	26
淨容量 (液體)	l	20	18
不織布濾袋容量	l	19	19
負壓 <sup>A)</sup>			
- 吸塵器	hPa	220	180
- 涡輪	hPa	230	200
流量 <sup>A)</sup>			
- 吸塵器	l/s m <sup>3</sup> /h	28 100.8	26 93.6
- 涡輪	l/s m <sup>3</sup> /h	71.5 257	70 252
粉塵等級		M	M
重量 <sup>B)</sup>	kg	14.1	14.5
絕緣等級		⊕/I	⊕/I
防護等級		IPX4	IPX4

A) 使用直徑 28 mm、長度 4 m 的吸塵軟管進行測量

B) 不包括電源線和電源插頭的重量

該數據適用於指定的額定電壓。於使用不同電壓的地區，此數據有可能不同。

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見 [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac)。

### 吸塵器上的插座

所連接之電動工具的最大允許連接功率			
3 601 JMO ...	額定電壓	最大功率	最小功率
... 120/... 1F0	230 V	2100 W	100 W
... 180/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1K0	220-230 V	2100 W	100 W
... 1L0/... 170	220-240 V	1660 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 130	230 V	1100 W	100 W
... 1D0/... 1G0	127 V	705 W	100 W
... 1C0	115 V	525 W	100 W
... 160	110 V	560 W	100 W

所連接之電動工具的允許連接功率相關說明。

其他特定國家機型的這項數據可能不同。請您留意吸塵器插座上標示的數據。

## 安裝

► 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

### 安裝吸塵器配件（請參考圖 A）

吸塵軟管（33）採用卡夾系統，可直接連接吸塵器配件（組合式吸塵轉接頭（29）、彎管吸頭（34）、組合式刷頭（28））。

#### 安裝彎管吸頭

- 將彎管吸頭（34）插在吸塵軟管（33）上，直至聽見吸塵軟管的兩個按鈕（38）卡上的聲音。
- 拆卸時，將按鈕（38）往內按壓，然後拔開零組件即可。

#### 安裝地板吸頭和管件

- 若有需要，將吸塵硬管（32）相互牢固地插上，然後緊插於彎管吸頭（34）。
- 將地板刷頭（27）緊插於吸塵硬管（32）或彎管吸頭（34）上。

#### 安裝組合式吸塵轉接頭

此組合式吸塵轉接頭（29）由 PowerTool 轉接頭（前部）（39）和 PowerTool 轉接頭（後部）（40）組成。

此組合式吸塵轉接頭（29）與博世電動工具相容。

此 PowerTool 轉接頭（後部）（40）可透過其 38.5 mm 之內徑和 45 mm 之外徑供其他製造商的電動工具使用。

請將此 PowerTool 轉接頭（前部）（39）插入 PowerTool 轉接頭（後部）（40），並將兩個轉接頭以往相反方向旋轉的方式連接（請參考圖 B）。

將組合式吸塵轉接頭（29）插在吸塵軟管（33）上，直到聽見吸塵軟管的兩個按鈕（38）卡上的聲音。

拆卸時，將按鈕（38）往內按壓，然後從吸塵軟管拔開組合式吸塵轉接頭即可。

若要分離這兩個轉接頭，請以相反方向旋轉以鬆開連接，然後將轉接頭拔開即可。

#### 安裝組合式刷頭

將組合式刷頭（28）插在吸塵軟管（33）上，直到聽見吸塵軟管的兩個按鈕（38）卡上的聲音。

拆卸時，將按鈕（38）往內按壓，然後拔開零組件即可。

#### 調整組合式刷頭（請參考圖 C）

您可以將組合式刷頭（28）作為隙縫吸頭或刷子使用。

請按下解鎖按鈕（41）並將刷子向前推，以將組合式刷頭（28）作為刷子使用。

請按下解鎖按鈕（41）並將刷子向後拉，以將組合式刷頭（28）作為隙縫吸頭使用。

### 安裝吸塵軟管（請參考圖 D）

將封蓋（23）從軟管接口（3）拔出。

請將吸塵軟管（33）插在軟管接口（3）上，然後沿順時針方向旋轉到底。

► 取下吸塵軟管時，請務必使用封蓋封好吸氣連接口。如此可避免粉塵散出。

**提示：**吸塵時，因吸塵軟管內與吸塵配件內的粉塵相互摩擦形成靜電，使用者可能感覺其靜電釋放（視環境因素和身體感受而定）。

博世建議您：抽吸細微粉塵和乾燥物質時原則上請用抗靜電吸塵軟管（配件）。

### 將吸塵軟管固定在吸塵器上（請參考圖 E）

將安裝好的吸塵軟管（33）纏繞放置於吸塵軟管收納格中。請將兩條拉帶（17）向上拉並鉤入固定孔（18）中。

### 更換不織布濾袋（乾式吸塵）

若要對符合粉塵等級 M 的物質進行乾式吸塵，您必須裝入一個不織布濾袋（36）。

若吸入的物質無或其暴露濃度  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ （符合粉塵等級 L），即可直接吸入集污箱中。

**提示：**在使用不織布濾袋時，請關閉濾網自動清潔功能（參見「濾網自動 / 手動清潔功能（請參考圖 L）」，頁 76）。

#### ⚠ 警告

本吸塵器內含危害人體健康的粉塵。所有清空及維護作業（包含清除集塵容器在內）僅可交由受過專業訓練的人員執行。必須穿戴適當的防護裝備。過濾裝置若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。否則將危害您的身體健康。

### 裝入 / 取出不織布濾袋（請參考圖 F-G）

打開鎖扣（19）並取下吸塵器上部（16）。

裝入時，將不織布濾袋（36）插在不織布濾袋支架（35）上，然後將不織布濾袋（36）連同不織布濾袋支架（35）裝入集污箱（1）中。

取出時，透過拉動鎖扣的方式封好裝滿的不織布濾袋開口。將已封好的不織布濾袋（36）從不織布濾袋支架（35）上拔下，然後從吸塵器中取出。

將吸塵器上部（16）重新套上，並透過關閉鎖扣（19）的方式將集污箱（1）連接至吸塵器上部（16）。

### 扣上 L-Boxx（請參考圖 H）

若要搬運吸塵器以及以節省空間的方式收納吸塵器配件和 / 或電動工具，您可以在吸塵器上部扣上一個 L-Boxx。

請將吸塵軟管固定在吸塵器上（請參考圖 E）。

請將 L-Boxx 扣上支座（13）。

► 請勿在按下 L-Boxx 的情況下吸塵。吸塵器的重心會向上移動。吸塵器可能會傾倒。可能會造成人員受傷或物品損壞。

► 請勿使用已按下 L-Boxx 的提把搬動吸塵器。對於 L-Boxx 的提把來說，吸塵器太重。可能會造成人員受傷或物品損壞。

### 安裝可拉出式推拉桿（請參考圖 I-J）

**提示：**可拉出式推拉桿無法拆卸。請確保推拉桿在安裝時正確對齊。

- 在裝入之前，按照標記 **R**（右）和 **L**（左）對準推拉桿 **(15)**。
- 請將推拉桿 **(15)** 裝入導軌 **(42)**。
- 請將推拉桿 **(15)** 按到底至限位線，直到聽見推拉桿卡上的聲音。
- 請按下按鈕 **(14)**，以改變推拉桿 **(15)** 的長度。

## 操作

- 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

### 操作機器

- **注意電源的電壓！** 電源的電壓必須和吸塵器銘牌上標示的電壓一致。
- **請遵循所在地關於有害廢塵的適用規範 / 法律。**  
本吸塵器可以吸集以下的物體：  
– 暴露濃度  $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$  的粉塵  
原則上不可以在具有爆炸危險的場所內使用本吸塵器。  
為確保能達到最佳吸力，必須隨時將吸塵軟管 **(33)** 從吸塵器上部 **(16)** 一路完全伸展開來。

### 調節吸力

透過吸力調節器 **(11)** 即可無段式調節吸力。  
針對產生大量粉塵的應用情境，請將吸力調節器 **(11)** 調整為最大吸力。  
針對產生較少粉塵的應用情境以及為調節所連接電動工具和工件表面之間的吸力（例如進行研磨時），請將吸力調節器 **(11)** 調整至降低吸力的位置。

### 體積流量監測功能

本吸塵器配備有體積流量監測功能。體積流量監測功能在「吸塵」操作模式下會將數值設置為  $20 \text{ m/s}$ 。

當例如因吸塵軟管中積聚塵垢、不織布濾袋已滿或平摺式濾網堵塞等，而低於此數值時，LED 指示器 **(7) 22** 或 **28** 其中一個會閃爍並響起一個聲音警報訊號。在此情況下請關閉吸塵器，並如「排除故障」小節所述對其進行檢查。

**提示：**搭配電動工具進行作業，而其對吸塵軟管進氣不足時（例如線鋸機、打磨機等），可能響起一個聲音警報訊號。為避免該警報訊號，建議額外使用一個配件目錄中具漏風開口的合適吸塵轉接頭。

### 設定軟管直徑

軟管直徑	體積流量設定值
22 mm	$28 \text{ m}^3/\text{h}$
28 mm	$45 \text{ m}^3/\text{h}$

若要調節吸力，請選擇所使用的軟管直徑。

 按壓吸塵軟管直徑按鈕 **(8)**。LED 指示器 **(7) 22** 或 **28** 會亮起。



### 吸塵器上的插座

- **請注意吸塵器上插座容許的連接功率。超過最大容許的連接功率可能導致吸塵器過載。馬達保護功能將觸發。將吸塵器寄至授權的客戶服務中心 Bosch。**

一旦將吸塵器的電源插頭插入插座，且總開關處於位置 **1**，電動工具的插座 **(4)** 便會通電。它可作為吸塵器上的外部電源連接使用，例如在使用吸塵系統作業時。在位置 **1+** 時，吸塵器的自動啟停機制即啟用。透過連接的電動工具即可遙控啟動吸塵器。

### 乾式吸塵

#### 吸除積塵

 若要啟動吸塵器，請將總開關 **(2)** 轉至位置 **1**。

 若要關閉吸塵器，請將總開關 **(2)** 轉至位置 **0**。

#### 吸除電動工具運轉時產生的粉塵（請參考圖 K）

- **氣體若是排放至室內，則須要有足夠的通風率。請遵照各國相關規定。**

吸塵器有內建一個電動工具插座 **(4)**。您可從此插座連接外接式電動工具。請注意所連接之電動工具的最大允許連接功率。

安裝組合式吸塵轉接頭 **(29)**（請參考圖 **B**）。

請將組合式吸塵轉接頭 **(29)** 插入電動工具的吸塵接管內。

 若要開啟吸塵器的自動啟停機制，請將總開關 **(2)** 轉至位置 **1+**。

啟動連接在插座 **(4)** 上的電動工具，吸塵器即可開始運轉。此時吸塵器會自動運動。

關閉電動工具時，吸塵功能也會同時停止。

自動啟停機制的延時運轉功能將繼續運轉 15 秒，以吸除吸塵軟管內殘留的粉塵。

 若要關閉吸塵器，請將總開關 **(2)** 轉至位置 **0**。

#### 使用吸塵系統（配件）

請將吸塵系統連接到吸塵軟管 **(33)**。

 若要吸除吸塵系統上之灰塵，請將總開關 **(2)** 轉至位置 **1**。

請將吸塵系統貼近牆壁，並啟動電動工具。由於產生的負壓，吸塵系統會自行附著。

關閉電動工具，並小心地將吸塵系統從牆上取下。

 若要關閉吸塵器，請將總開關 **(2)** 轉至位置 **0**。

## 濕式吸塵

- 吸塵器切勿用於吸除汽油、機油、酒精、溶劑等可燃或易爆液體。切勿用於吸除高溫、燃燒中或具爆炸性的粉塵。吸塵器不得在具有爆炸危險之空間裡運轉。上述灰塵、蒸氣或液體可能自燃或爆炸。
- 不得將本吸塵器當做水泵使用。吸塵器的設計是適用於吸除水液與空氣的混合物。

**提示：**對穿透率（粉塵等級 M）之要求僅針對乾式吸塵進行驗證。

### 進行濕式吸塵前

清空集污箱 (1) 並取下不織布濾袋 (36)。

檢查液位感測器 (46) 是否有污物。唯有液位感測器乾淨的情況下，吸塵器才能在集污箱達到滿載裝填狀態時自動關閉（參見「清潔液位感測器（請參考圖 P-Q）」，頁 77）。

- 在進行濕式吸塵時，必須停用濾網自動清潔功能。

請按下濾網自動清潔按鈕 (10)，以啟用濾網手動清潔功能（參見「濾網手動清潔功能」，頁 76）。濾網自動清潔功能將因而停用，且 LED 指示器 A (5) 也會熄滅。

### 吸除液體

#### ⚠ 警告

若有任何泡沫漏出機外或有水滲出，請立刻關閉吸塵器電源並清空容器。

否則吸塵器可能損壞。

若要啟動吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 1。

本吸塵器配備有液位感測器 (46)。當達到最大裝填高度時，吸塵器將自動關閉，且兩個 LED 指示器 A (5) 和 M (6) 將以每秒 1 次的頻率同時閃爍。防止再起動功能即啟用，並可透過將吸塵器啟動 / 關閉一次而停用。

**提示：**請定期檢查裝填狀態並及時清空集污箱。若在濕式吸塵期間響起聲音警告訊號，不必採取任何措施。吸塵器的運作安全並不會受到影響。

若要關閉吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 0。

請在後握持區 (25) 握住集污箱 (1)，將其向前擺動以排空液體。

### 進行濕式吸塵後

請在每次濕式吸塵後清潔液位感測器 (46)（參見「清潔液位感測器（請參考圖 P-Q）」，頁 77）。

進行濕式吸塵後，為避免發霉：

- 取出平摺式濾網 (37)，並使其徹底晾乾。
- 請取下吸塵器上部 (16)，打開濾器蓋 (43)，並使兩者徹底乾燥。

## 濾網自動 / 手動清潔功能（請參考圖 L）

### 濾網自動清潔功能

**提示：**吸塵器啟動時，預設為濾網自動清潔功能。

LED 指示器 A (5) 會持續亮著。

在濾網自動清潔過程中，會透過 2 次噴氣清潔平摺式濾網 (37)（有脈衝聲）。一旦感測器偵測到氣流低於特定程度便會進行此動作。

定期使用濾網清潔功能可以延長濾網的使用壽命。

為達到理想的濾網使用壽命，請僅在例外情況下停用濾網自動清潔功能，例如進行濕式吸塵時。

### 濾網手動清潔功能

請按下濾網手動清潔按鈕 (9)，以進行濾網手動清潔。平摺式濾網 (37) 會透過 2 次噴氣進行清潔。LED 指示器 M (6) 將亮起白燈 2 秒。當 LED 指示器 M (6) 熄滅時，即可觸發下一次噴氣。為此，請再次按下濾網手動清潔按鈕 (9)。

**提示：**在進行濾網手動清潔時，請注意每次按壓按鈕之間應有 2-3 秒的時間間隔。連續多次按壓濾網手動清潔按鈕 (9) 將導致吸塵器過熱保護功能啟用。過熱保護功能將在一段時間後自動解除（參見「排除故障」，頁 77）。

若要關閉濾網手動清潔功能，請按下濾網自動清潔按鈕 (10)。

平摺式濾網即使表面髒污還是能發揮應有作用。您不必以敲拍或吹氣方式親自清潔平摺式濾網，這樣做反而可能造成濾網損壞。

## 保養和服務

### 保養與清潔

► 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

► 吸塵器和通氣孔必須隨時保持清潔，以確保工作效率和工作安全。

如果必須更換連接線，請務必交由 Bosch 或經授權的 Bosch 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

► **維修和清潔吸塵器時，請戴上防塵面罩。**

您可以每隔一段時間以濕布清潔吸塵器外部。

► **請勿使用壓縮空氣清潔吸塵器。**濾網或其他零件可能會損壞。

每年至少一次，需由製造商或經過培訓的人員進行吸塵功能檢查（例如，檢查濾網是否損壞、吸塵器的密閉性以及檢查控制裝置是否正常運作）。

### 清潔危害健康物質後的清潔與維護

- 將所有可能接觸危害健康物質的零件視為已被污染。

- 將吸塵器從危害健康的區域移出前，請先吸除、擦拭或封住吸塵器的外側。

- 僅在不對您和其他人造成危險的情況下清潔、拆卸和維護吸塵器。進行維護和清潔時，得穿戴好個人的防護裝備。在通風良好的房間內進行工作。

- 拆卸吸塵器之前，先清潔吸塵器的外部。

- 將吸塵器中無法充分清潔的所有零件放入防滲透袋中進行處理。請遵守此類廢棄物處理的適用法規。

- 工作完成後，清潔維護區域。

### 清潔集塵箱

請您每隔一段時間使用一般市售無研磨作用的清潔劑將集污箱 (1) 擦拭乾淨，然後晾乾。

### 清潔 / 更換平摺式濾網（請參考圖 M-N）

► 打開過濾器蓋時，請握住鎖定片並確保打開的過濾器蓋鎖定在垂直位置。如果過濾器蓋掉落，則有受傷的危險。

吸塵器的吸力取決於濾網的狀態。因此請定期清潔濾網。

請立即更換受損的平摺式濾網 (37)。

- 請於每次清潔 / 更換平摺式濾網 (37) 前，拆除吸塵軟管 (33)，並將封蓋 (23) 裝入軟管接口 (3) 內。
- 拉動鎖定片 (44)，並將濾器蓋 (43) 向上翻，直至其卡入垂直位置上。
- 握住平摺式濾網 (37) 的橫框並將其向上取出。
- 從集污箱 (1) 邊緣用濕布清除取下平摺式濾網 (37) 時產生的灰塵和污垢。
- 可於流水下沖洗平摺式濾網。
- 安裝一個新的或已清潔的平摺式濾網 (37)，請確保其穩固且正確安裝。
- 請將濾器蓋 (43) 鎖上，直到聽見卡上的聲音。

### 清潔粗濾器（請參考圖 O）

► 此粗濾器不能用任何液體清潔。

► 請勿從上方伸手至推拉桿和吸塵器之間以解鎖粗濾器蓋。否則您的手可能會被夾住。

請將推拉桿 (15) 向上拉，直到可以從後方觸及粗濾器蓋。

請按下粗濾器蓋 (30) 的解鎖按鈕 (31)，然後將其從粗濾器格取出。

請取出粗濾器 (45)。

用柔軟的刷子輕刷粗濾器的濾網層。

請將粗濾器放入粗濾器蓋 (30)。

請將粗濾器蓋 (30) 放回粗濾器格，然後合上。

### 清潔液位感測器（請參考圖 P-Q）

請從插座拔下吸塵器的電源插頭。

請取下吸塵器上部 (16)。

清空集污箱 (1)。

移動或輕拍浮球 (47)，以清除污垢。

請使用柔軟的布清潔浮球 (47)。

必要時您也可以取出浮球。為此，請按下鎖止裝置 (48) 並將浮球 (47) 取出。

請使用刷子清潔磁鐵 (49)。

重新裝入浮球 (47)。

### 收納與搬運

#### 收納

- 將電源線纏繞在電線托架 (24) 上。
- 將配件放入專用固定裝置中。
- 將吸塵軟管 (33) 繼續放置於吸塵軟管收納格中。請將兩條拉帶 (17) 向上拉並鉤入固定孔中。
- 請將 L-BOXX 扣上支座 (13)。
- 不織布濾袋一旦裝滿便請將其取出。
- 請僅從提把 (12) 處提起吸塵器。
- 若要搬運吸塵器請將封蓋 (23) 插入軟管接口 (3)。
- 將吸塵器放置在表面平坦的乾燥空間內，並應防止他人未經許可使用。
- 踩下轉向滾輪制動器 (22) 即可固定住轉向滾輪 (21)。

#### 搬運（請參考圖 R）

- 若要搬運吸塵器請將封蓋 (23) 插入軟管接口 (3)。
- 為能更加輕鬆地搬運吸塵器並同時保護您的背部，請完全清空集污箱或丟棄裝滿的不織布濾袋。
- 請僅從提把 (12) 處提起吸塵器。
- 解鎖轉向滾輪制動器 (22)，以便推動或拉動吸塵器。
- 請僅將可拉出式推拉桿 (15) 用於推動或拉動吸塵器。不得使用推拉桿將吸塵器拖過樓梯平台。此時應使用提把。
- 在搬動吸塵器上樓梯時，請確保您身後沒有其他人員，以防止吸塵器意外掉落。

### 排除故障

► 發生故障時（例如濾網破裂），必須立刻將吸塵器關閉。必須將故障排除，然後才能重新運轉。

問題	補救措施
吸塵渦輪機未運轉。	全面檢查電源線、電源插頭、保險絲、插座和液位感測器 (46)。 總開關 (2) 處於「自動啟停機制」位置。
	將總開關 (2) 移至「吸塵」符號，或啟動連接在插座 (4) 上的電動工具。
吸塵渦輪機關閉。	進行濕式吸塵時，LED 指示器 A 和 M 會同時緩慢閃爍。 清空集污箱 (1)。
	進行乾式吸塵時，LED 指示器 A 和 M 會同時快速閃爍：吸塵器上插座的過載保護已啟用。
	關閉電動工具。
吸塵器關機。	吸塵器由於超過吸塵器上插座的最大電壓而過載：馬達保護功能已觸發。 將吸塵器寄至授權的客戶服務中心 Bosch。

問題	補救措施
吸塵渦輪機在集污箱清空後未重新運轉。	關閉吸塵器並等待 5 秒，5 秒後再重新啟動。 使用刷子清潔液位感測器 (46) 以及液位感測器 (46) 之間的空隙。
吸力降低。	清除吸頭、吸塵硬管、吸塵軟管 (33) 或平摺式濾網 (37) 上的阻塞物。 更換不織布濾袋 (36)。 正確卡入濾器蓋 (43)。 正確套上吸塵器上部 (16) 並扣上鎖扣 (19)。 清潔或更換平摺式濾網 (37)。
吸塵時有粉塵逸出	請檢查平摺式濾網 (37) 是否安裝正確。 清潔或更換平摺式濾網 (37)。
自動斷開裝置（濕式吸塵）未跳開。	使用布清潔液位感測器 (46) 以及液位感測器 (46) 之間的空隙。 請定期檢查裝填狀態。
響起聲音警告訊號。	吸力調整得過低。 將吸力調節器 (11) 調為較高的數值。 軟管直徑設定錯誤。 設定正確的軟管直徑。 吸塵軟管 (33) 堵塞或彎折。 排除堵塞或彎折情況。 不織布濾袋已滿 更換不織布濾袋 (36)。 平摺式濾網 (37) 髒污。 清潔或視情況更換平摺式濾網。 所連接的電動工具的氣流不足 若有：打開電動工具的漏風開口，或使用一個具漏風開口的合適吸塵轉接頭。 監測電子裝置故障 請聯繫授權的客戶服務中心 <b>Bosch</b> 。
進行濕式吸塵時響起聲音警告訊號。	無須採取任何措施。
濾網自動清潔功能未運作。	當氣流低於特定程度時，會先啟用濾網自動清潔功能。若要檢查功能或進行濾網手動清潔，請透過按下濾網手動清潔按鈕 (9) 切換至手動模式。
無法觸發濾網手動清潔功能。	吸塵器的過熱保護功能已啟用。 連續按濾網手動清潔按鈕 (9) 10 次會觸發過熱保護功能。此過熱保護功能在 20 秒後將會自動解除。 連續按濾網手動清潔按鈕 (9) 30 次會觸發過熱保護功能。此過熱保護功能在 4 分後將會自動解除。 若問題持續存在，請洽詢授權的 <b>Bosch</b> 客戶服務中心。
自動濾網清潔功能未觸發。	請聯繫授權的客戶服務中心 <b>Bosch</b> 。

### 顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

### 台灣進口商

台灣羅伯特博世股份有限公司  
建國北路一段 90 號 6 樓  
台北市 10491  
電話：(02) 7734 2588  
傳真：(02) 2516 1176  
[www.bosch-pt.com.tw](http://www.bosch-pt.com.tw)

**制造商地址:**

Robert Bosch Power Tools GmbH  
羅伯特·博世電動工具有限公司  
70538 Stuttgart / GERMANY  
70538 斯圖加特/ 德國

**以下更多客戶服務處地址:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**廢棄物處理**

必須以符合環保要求的方式處理廢棄的吸塵器、配件和包裝材料。



吸塵器不可以丟棄在一般家庭垃圾中!

設備名稱 : 濕/乾吸塵器, 型號 : GAS 12-40 MA

**限用物質及其化學符號**

單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
開關	O	O	O	O	O	O
外殼(塑料)	O	O	O	O	O	O
馬達	O	O	O	O	O	O
電路板	O	O	O	O	O	O
電源線組	O	O	O	O	O	O
過濾器	O	O	O	O	O	O

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. " - " 係指該項限用物質為排除項目。

**ไทย****คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องดูดฝุ่น**

อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจมีผลเสียใหญ่ก่อให้เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เห็นรักษาคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมดสำหรับมืออาชีวภาพ

- ▶ **เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยเด็กและบุคคลที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ทางประสาท สัมผัส หรือทางจิตใจ หรือบุคคลที่ขาดประสมการณ์และความรู้ มีฉะนั้น จะมีอันตรายจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและได้รับบาดเจ็บ**
- ▶ **ควบคุมดูแลเด็กๆ ทั้งนี้เพื่อใหม่นั่นจะได้瓦เต็กๆ จะไม่เล่นเครื่องดูดฝุ่น**

▶ โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเกี่ยวกับสารที่ห้ามใช้ในเครื่องดูดฝุ่น

**คำเตือน** อย่าดูดวัสดุที่มีแร่ไททิน แร่ไททินนั้น เป็นสารก่อมะเร็ง

**คำเตือน** ให้เครื่องดูดฝุ่นของคุณอย่างปลอดภัยแล้ว เท่านั้น การรีไซเคิลของอุปกรณ์ที่ลอกความติดพลาสติกใน การปฏิบัติงานและกระบวนการเย็บ

**คำเตือน** เครื่องดูดฝุ่นแห้งสำหรับดูดฝุ่นแห้ง และเมื่อรีไซเคิลการที่แห้งจะเป็นไปตามที่สามารถดูดซึมของเหลวเข้าในมอเตอร์ จะเพิ่มความเสี่ยงของการสูญไฟฟ้าดูด

▶ อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดซึมของเหลวที่ไวไฟหรือระเบิดได้ ด้วยเช่น เมนเชน น้ำมัน น้ำมัน แอลกอฮอล์ ตัวยาและยา อย่างเด็ดท่อน ถูกไหม หรือระเบิดได้ อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นทำงานในเว็บที่อาจก่อระเบิดได้ ถูบ ไบร์ช ไอรอน ไอรอน หรือ ของเหลวอาจถูกเปลี่ยนไฟฟ้าหรือระเบิดได้

**คำเตือน** ใช้เดาเสียงเฉพาะเพื่อตัดกู่ระบุสังค์ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานเท่านั้น

**คำเตือน** ปิดสวิตช์เครื่องดูด ฝุ่นในพื้นที่ที่มีกอง灰ห้อน้ำไหลออกมานะ และให้ถังดูดบารบู มีฉะนั้นเครื่องดูดฝุ่นอาจชำรุดได้

▶ **โปรดระวัง! ต้องเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ภายนอกอาคารท่ามกลางวัน**

▶ **โปรดระวัง! หากพบเศษอาหารหรือวัสดุตันของหลอดสายส่งเสียงและตรวจสอบความเสียหาย มีฉะนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานได้**

- ▶ ก้าวไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องดูด
  - ▶ ผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ตัดวงจรกระแสไฟฟ้า
    - ▶ การใช้อุปกรณ์ตัดวงจรกระแสไฟฟ้า
      - ▶ จะลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อค
  - ▶ ควรตรวจสอบดูดดูดฝุ่น สายไฟฟ้า และปลั๊กไฟฟ้า ทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดความเสียหาย อย่ามีสิ่งเด็ดขาดอยู่ในห้องทำงาน เช่น แสงสว่าง สายไฟฟ้า สายเครื่องคอมพิวเตอร์ สายโทรศัพท์ สายแลน สายไฟฟ้า และปลั๊กไฟฟ้า ที่เสียหาย เพิ่มความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าช็อค
  - ▶ อย่าดึงหัวห้องหรือบัดสายไฟฟ้า
    - ▶ อย่าดึงหัวห้องหรือบัดสายไฟฟ้าออกจากเด้าเสียง หรือเพื่อเลื่อนเครื่องดูดฝุ่น สายไฟฟ้าที่ชำรุดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อค
  - ▶ ถอนปลั๊กไฟฟ้าออกจากเด้าเสียงก่อนปาร์กชาร์จหรือ ทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ทำการรับแข็งได้ๆ ให้เครื่องดูดอุบัติภัยปะกอน หัวห้องเครื่องดูดฝุ่นฯ ที่ มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดชื้น โดยไม่ต้องดึง
  - ▶ จัดสถานที่ที่ทำงานให้มีอากาศคายเททีดี
  - ▶ ส่งเครื่องดูดฝุ่นเข้าห้องบริการซ่อมแซมโดยร่างผู้ช่วยช่วย และใช้ช่องไฟเปลี่ยนของที่เท่านั้น ในลักษณะ น้ำทันจะแนใจได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
  - ▶ หากใช้งานเครื่องดูดฝุ่นในบริเวณที่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ทำการดูดฝุ่น มัด และหุ้มมิดด้านนอกเครื่องดูด ฝุ่นก่อนนำออกจากการรีเซ็ตที่เป็นอันตราย ทุกชั้นล้วนของเครื่องดูดฝุ่นจะถูกเป็นชิ้นส่วนที่มีการปนเปื้อน และทาน จำเป็นของตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกระจายของสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

#### **⚠️ คำเตือน**

เครื่องดูดฝุ่นบรรจุฝุ่นที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ให้ผู้ช่วยช่วยทากาย พุง และปาร์กชาร์จ รวมทั้งกำจัดถังเก็บฝุ่นเท่านั้น จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม อย่าใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีระบบการป้องกันภัยทางแสงและสมญานะ มีฉันน์จะระเบิดอันตรายต่อสุขภาพของท่าน

- ▶ ก่อนเริ่มต้นทำงาน ให้ตรวจสอบว่าห้องมีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อม สำหรับการตรวจสอบ ให้ปล่อยห้องให้ดูดซึ่ง ดูดฝุ่น ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นสูญออกมากโดยไม่ตั้งใจ มีฉันน์ท่าทางอาจสูดดมฝุ่นเข้าไป
- ▶ อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมินทึ้ง เครื่องดูดฝุ่นอาจเสียหายได้
- ▶ ใช้สายไฟฟ้าและห้องดูดอย่างระมัดระวัง หันจากท่าให้บุคคลอื่นได้รับอันตราย
- ▶ อย่าทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นโดยรถพ่นน้ำไปที่เครื่องโดยตรง การซึมดูน้ำของน้ำยาในล่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อค
- ▶ เชื่อมต่อเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับแท่นจ่ายไฟที่ดูด สายติดต่อของห้อง เด้าเสียงและสายไฟฟ้า พวงต้องมีสายดินม้วงทันทีที่พร้อมใช้งาน
- ▶ ห้ามใช้เด้าเสียงที่เครื่องดูดฝุ่นในการมีที่ดูดฝุ่น เปียกหรืออยู่ในสภาพที่มีความชื้น การรั่วเสียดันก้นหัวใจก็ให้เกิด อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟดูดได้

#### **สัญลักษณ์**

สัญลักษณ์ดังนี้มีความสำคัญต่อการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของท่าน กรณีดูดจ้าสัญลักษณ์และความหมาย การแบ่งความหมายต้องดูอย่างถูกต้องและต้องดูด

#### **สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์**

 **คำเตือน!** ว่าค่าเตือนเพื่อความปลอดภัย และคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตาม คำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งอาจ เป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าช็อค เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

 เครื่องดูดฝุ่นสำหรับผู้ประทุม M ตาม มาตรฐาน IEC/EN 60335-2-69 สำหรับดูดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่มีค่าเฉลี่ยจำกัดการรับสัมผัส  $\geq 0.1 \text{ mg./m}^3$

 **คำเตือน!** เครื่องดูดฝุ่นบรรจุฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ผู้ช่วยช่วยทากาย รวมทั้งกำจัดถัง เทบฝุ่นเท่านั้น จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ บังกันที่เหมาะสม อย่าใช้งานเครื่องดูด ฝุ่นโดยไม่มีระบบการป้องกันที่ควบคุมและ สมญานะ มีฉันน์จะระเบิดอันตรายต่อสุขภาพ ของท่าน



 **max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg**

คลิกล็อกกล่อง L-BOXX ได้สูงสุดเพียง กล่องเดียวเท่านั้น


น้ำหนักของกล่อง L-BOXX รวมสิ่งของ ดำเนินผลต่อไม่เกิน 15 กก.



อย่าแขวนเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับตะขอเครื่อง เช่น เสือการแขวนสาย เครื่องดูดฝุ่นไม่ เหมาะสมที่จะแขวนสายด้วยเครื่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการ ชำรุดเสียหาย



อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมินทึ้ง บันได หรือ บันไดสตีป เครื่องดูดฝุ่นอาจพลิกคว่ำและ ชำรุดได้ มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ



## สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์

A	M
ไฟแสดงผล LED โหมดทำความสะอาดด้วยอัตโนมัติ	ไฟแสดงผล LED โหมดทำความสะอาดด้วยตนเอง
28 22	28/22
บุ่มทำความสะอาดด้วยอัตโนมัติ	บุ่มทำความสะอาดด้วยตนเอง
บุ่มทำความสะอาดด้วยการให้อาหาร	บุ่มทำความสะอาดด้วยการให้อาหาร
Start/Stop อัตโนมัติ	การดูดฝุ่นที่เกิดจากการทำงานของเครื่องฟีฟ้า
เครื่องดูดฝุ่นจะเบิกดีกิ๊ฟฟ์โดยอัตโนมัติและปิดสวิตช์อิเล็กทริกครั้งพร้อมการหันหัวเวลาเดาสีบีที่เครื่องดูดฝุ่นจะมีแรงดันไฟฟ้าให้ผ่านอยู่ตลอด	เครื่องดูดฝุ่นจะเบิกดีกิ๊ฟฟ์โดยอัตโนมัติและปิดสวิตช์อิเล็กทริกครั้งพร้อมการหันหัวเวลาเดาสีบีที่เครื่องดูดฝุ่นจะมีแรงดันไฟฟ้าให้ผ่านอยู่ตลอด
ปิดใช้งาน	เดาสีบีที่เครื่องดูดฝุ่นจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ดูดฝุ่น	ดูดฝุ่นที่ดักสะสมและฝุ่นจากระยะหดดูดฝุ่นเดาสีบีที่เครื่องดูดฝุ่นจะมีแรงดันไฟฟ้าให้ผ่านอยู่ตลอด
ค่าต่ำสุด/ค่าสูงสุด	ความคุมกำลังในการดูดฝุ่นโดยไม่ต้องบีบวนตามระดับ:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำลังดูดสูงสุดสำหรับใช้กับฝุ่นที่ก่อตัวหนา</li> <li>- กำลังดูดลดลงสำหรับใช้กับฝุ่นที่ก่อตัวน้อย และเพื่อควบคุมแรงการดูดฝุ่น ระหว่างเครื่องฟีฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่และพื้นผิวของชิ้นงาน (เช่น เมื่อทำงานขัด)</li> </ul>
D	การบันทึกข้อมูลถูกเปิดใช้งานในเครื่องดูดฝุ่นนี้
max. 2100 W min. 100 W	ข้อมูลจำเพาะของกระแสต่อเขื่อนที่อนุญาตของเครื่องฟีฟ้าที่เชื่อมต่อ (เฉพาะประเทศไทย)

## คำอธิบายผลิตภัณฑ์และบริการ

กรุณาอ่านรายละเอียดในล่วงหน้าของคุณเมื่อการใช้งาน

### ประไชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องดูดฝุ่นนี้ใช้สำหรับเก็บ ดูด ล้าง เสียง และแยกฝุ่นแห้งในไฟและของเหลวไม่ไฟ เครื่องดูดฝุ่นนี้ผ่านการทดสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับน้ำ และสอดคล้องกับผู้ประกอบการ M เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น เช่น ในงานซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม และโรงชุมส่วน

ตามมาตรฐาน IEC/EN 60335-2-69 อนุญาตให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นสำหรับผู้ประกอบการ M สำหรับการดูดซับและดูดฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีค่าขีดจำกัดการรับสัมผัส  $\geq 0.1 \text{ mg/m}^3$  เท่านั้น

ใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อต้องเข้าใจฟังก์ชันทั้งหมดอย่างครบถ้วน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างไม่มีข้อจำกัด หรือเมื่อได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม

### ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องดูดฝุ่นที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) ถังบรรจุ
- (2) ลวดหัวหลัก
- (3) ล่วนเชื่อมต่อท่อ
- (4) เด้าเลียบสำหรับเครื่องฟีฟ้า
- (5) ไฟแสดงผล LED A โหมดทำความสะอาดด้วยอัตโนมัติ
- (6) ไฟแสดงผล LED M โหมดทำความสะอาดด้วยตนเอง
- (7) ไฟแสดงผล LED 22/28 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด
- (8) บุ่มล้างผ่านศูนย์กลางท่อดูด (อัตโนมัติ)
- (9) บุ่มทำความสะอาดด้วยตนเอง
- (10) บุ่มทำความสะอาดด้วยอัตโนมัติ
- (11) ด้ามคุมกำลังในการดูด
- (12) ด้ามถือ
- (13) ตัวยืด L-BOXX
- (14) บุ่มกดโครงเลื่อน
- (15) โครงเลื่อนแบบยืดออกได้
- (16) ส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น
- (17) สายลากจูง
- (18) ช่องยืด
- (19) ตัวล็อกสำหรับส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น
- (20) ล้อหลัง
- (21) ล้อเลื่อน
- (22) เมกล้อเลื่อน
- (23) ปลั๊กชีลสำหรับจุดต่อระบบดูดฝุ่น

- (24) ที่ม้วนเก็บสายไฟฟ้า  
 (25) บริเวณจับยึดด้านหลัง  
 (26) ตัวยึดสำหรับหัวคูดพื้น  
 (27) หัวคูดพื้น  
 (28) หัวแบร์งอเนกประสงค์  
 (29) อะแดปเตอร์คูดฟุ่นอเนกประสงค์ (สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า)  
 (30) ฝาครอบตัวกรองขันตัน  
 (31) บ่มปลดล็อกตัวกรองขันตัน  
 (32) ห้องคูดแข็ง  
 (33) ห้องคูด  
 (34) หัวคูดปลายโค้ง  
 (35) ตัวยึดถุงกรองผ้าฟลีช  
 (36) ถุงกรองผ้าฟลีช
- (37) ตัวกรองแบบจีบเรียบ  
 (38) บ่มกดห้องคูด  
 (39) อะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหน้า)  
 (40) อะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง)  
 (41) บ่มปลดล็อกหัวแบร์งอเนกประสงค์  
 (42) รางเลื่อนปรับสำหรับโครงสร้างเลื่อนแบบยืดออกได้  
 (43) ฝาครอบตัวกรองแบบจีบเรียบ  
 (44) ลักษณะของฝาครอบชุดกรอง  
 (45) ตัวกรองขันตัน  
 (46) เซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ  
 (47) ลูกกลอย  
 (48) ตัวล็อกลูกกลอย  
 (49) แม่เหล็ก

### ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องคูดฟุ่น/เม็ด		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
หมายเลขอุตสาหกรรม 3 601 JMO ...		... 120/... 1F0 ... 180/... 1E0/... 1N0 ... 1K0 ... 1L0/... 170 ... 1H0 ... 130	... 1D0/... 1G0 ... 1C0 ... 160
กำลังไฟพิกัด	วัตต์	1200	1200
ความถี่	赫تز	50-60	60
ปริมาตรถังบรรจุ (รวมทั้งหมุด)	ลิตร	40	40
ปริมาตรสุทธิ (แห้ง)	ลิตร	28	26
ปริมาตรสุทธิ (ของเหลว)	ลิตร	20	18
ปริมาตรถุงกรองผ้าฟลีช	ลิตร	19	19
ความตันสูญญากาศ <sup>A)</sup>			
- เครื่องดูดฟุ่น	hPa	220	180
- เทอร์ไบน์	hPa	230	200
อัตราการไหล <sup>A)</sup>			
- เครื่องดูดฟุ่น	ลิตร/วินาที ลูกบาศก์เมตร/ชม.	28 100.8	26 93.6
- เทอร์ไบน์	ลิตร/วินาที ลูกบาศก์เมตร/ชม.	71.5 257	70 252
ผ่านประภาก		M	M
น้ำหนัก <sup>B)</sup>	กг.	14.1	14.5
ระดับการป้องกัน		⊕/I	⊕/I

**เครื่องตัดผู้น้ำหนัก/เมียก**

GAS 12-40 MA

GAS 12-40 MA

**ประเภทการบดผ่าน**

IPX4

IPX4

A) หัวด้ายหัวตัด Ø 28 มม. และความยาว 4 ม.

B) น้ำหนักโดยไม่รวมสายเชือกต่อแหล่งจ่ายไฟและไม่รวมบล็อกไฟ

ข้อมูลนี้ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและไม่ได้ที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศไทย  
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และชื่อของผู้ให้บริการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac)

**เด้าเสียงที่เครื่องตัดผู้น้ำหนัก****โภคภาระต่อหัวตัดผู้น้ำหนักของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ**

3 601 JMO ...	แรงดันไฟฟ้า	กำลังไฟฟ้าสูงสุด	กำลังไฟฟ้าต่ำสุด
... 120/... 1F0	230 โวลต์	2100 วัตต์	100 วัตต์
... 180/... 1E0/... 1N0	220 โวลต์	2100 วัตต์	100 วัตต์
... 1K0	220–230 โวลต์	2100 วัตต์	100 วัตต์
... 1L0/... 170	220–240 โวลต์	1660 วัตต์	100 วัตต์
... 1H0	220 โวลต์	1000 วัตต์	100 วัตต์
... 130	230 โวลต์	1100 วัตต์	100 วัตต์
... 1D0/... 1G0	127 โวลต์	705 วัตต์	100 วัตต์
... 1C0	115 โวลต์	525 วัตต์	100 วัตต์
... 160	110 โวลต์	560 วัตต์	100 วัตต์

ข้อมูลจำเพาะของภาระต่อหัวตัดผู้น้ำหนักของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ  
สำหรับรุ่นไฟฟ้าที่ระบุ ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างไป กรุณานำภัยมือติดตามค่าแนะนำเด้าเสียงของเครื่องตัดผู้น้ำหนัก

**การติดตั้ง**

- ▶ ถอนบล็อกไฟฟ้าออกจากเด้าเสียงก่อนปะรุงรักษาหรือ  
ทำความสะอาดเครื่องตัดผู้น้ำหนัก การรับประทานแรงดันไฟฟ้าที่เครื่อง  
เปลี่ยนอุบัติกรรมประกอบ หรือเปลี่ยนเครื่องตัดผู้น้ำหนักที่  
สามารถเพิ่มความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องตัดผู้น้ำหนัก  
ติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

**การติดตั้งอุปกรณ์ตัด (ดูภาพประกอบ A)**

หัวตัด (33) มีระบบคลิปที่สามารถเชื่อมต่อหัวตัดผู้น้ำหนักแบบเสริม  
สำหรับตัดผู้น้ำหนัก (อะแดปเตอร์ตัดผู้น้ำหนักประดุจ (29), หัวตัด  
ปลายโครง (34) และหัวแบร์แปร์ของประดุจ (28))

**การติดตั้งหัวตัดปลายโครง**

- เสียบหัวตัดปลายโครง (34) เข้าบันท่อหัวตัด (33) จนได้ยิน  
เสียงบุ้งกู้ดทั้งสอง (38) ของหัวตัดขณะเข้าล็อก
- เมื่อต้องการถอดออก ให้กดบุ้งกู้ด (38) เข้าด้านในและ  
ดึงขึ้นสวยงามจากหัวตัด

**การติดตั้งหัวตัดพื้นและหัวตัด**

- หัวจำเป็นให้เสียบหัวตัด (32) เข้าด้วยกันให้แน่นแล้วเข้า  
กับหัวตัดแบบโกร (34)
- เสียบหัวตัดพื้น (27) เข้าบันท่อหัวตัด (32) หรือหัวตัดปลาย  
โครง (34) ให้แน่น

**การติดตั้งอะแดปเตอร์ตัดผู้น้ำหนักประดุจ**

อะแดปเตอร์ตัดผู้น้ำหนักประดุจ (29) ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหน้า) (39) และอะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง) (40)

อะแดปเตอร์ตัดผู้น้ำหนักประดุจ (29) สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้าของบอยซ์ได้

อะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง) (40) สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่มีลักษณะคุณลักษณะด้านใน 38.5 มม. และเล่นผ่านคุณลักษณะด้านนอก 45 มม.

เสียบอะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหน้า) (39)

เข้ากับอะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง) (40)  
และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์หัวตัดสองด้านโดยการหมุนประดุจใน

ด้านตรงข้ามกัน (ดูภาพประกอบ B)

เสียบอะแดปเตอร์ตัดผู้น้ำหนักประดุจ (29) เข้ากับหัวตัดผู้น้ำหนัก (33) จนได้ยินเสียงบุ้งกู้ดทั้งสอง (38) ของหัวตัดเข้ากับ

เมื่อต้องการถอดออก ให้กดบุ้งกู้ด (38) เข้าด้านในและดึง

อะแดปเตอร์หัวตัดผู้น้ำหนักประดุจ (29) ออกจากหัวตัดผู้น้ำหนัก (33) ของหัวตัดผู้น้ำหนัก (33) ให้คล้ายจุดเชื่อมต่อโดยการหมุนไปด้านตรงข้ามและดึงอะแดปเตอร์หัวตัด

**การติดตั้งหัวแบร์แปร์ของประดุจ**

เสียบหัวแบร์แปร์ของประดุจ (28) เข้ากับหัวตัดผู้น้ำหนัก (33) จนได้ยินเสียงบุ้งกู้ดทั้งสอง (38) ของหัวตัดขณะเข้าล็อก เมื่อต้องการถอดออก ให้กดบุ้งกู้ด (38) เข้าด้านในและดึง

หัวตัดผู้น้ำหนัก (33) ออกจากหัวตัดผู้น้ำหนัก (33)

**การปรับหัวแบร์แปร์ของประดุจ (ดูภาพประกอบ C)**

คุณสามารถใช้หัวแบร์แปร์ของประดุจ (28) เป็นหัวตัดตามช่องหรือเป็นแบร์แปร์ได้

กดปุ่มปลดล็อก (41) และเลื่อนแบบไปทางด้านหน้า เพื่อใช้หัวแม่เรืองเคนประส่งค (28) ในรูปแบบบปรง กดปุ่มปลดล็อก (41) และเลื่อนแบบไปทางด้านหลัง เพื่อใช้หัวแม่เรืองเคนประส่งค (28) ในรูปแบบหัวดูดตามซอก

#### การติดตั้งติดห่อตุด (ดูภาพประกอบ D)

ดึงปลั๊กชีล (23) ออกจากส่วนเขื่อนต่อห้อ (3) จัดวางท่อตุด (33) เข้ากับส่วนเขื่อนต่อห้อ (3) และหมุนห่อตุดไปตามเข็มนาฬิกาจนสุด ▶ **ปิดห่อต่อระบบห่อตุดฟุ่นไนรูปแบบไฮเปิลล์ชีลเมื่อติดห่อตุด**  
ที่นี่เพื่อบังกันไม่ให้ฝนลัดลอดออกนอกมา  
**หมายเหตุ:** ในขณะห่อตุดผู้จะมีไฟฟ้าสถิตในห่อตุดและอุปกรณ์ประกอบซึ่งเกิดจากการเสียดสีของหุ่นละล่อง และมีไฟงานสามารถลูรักกิได้ในรูปแบบของภารถายเทประจุไฟฟ้าสถิต (ยืนอยู่กับสภาพผลลัพธ์และการรับรู้ทางกายภาพ)  
เมื่อห่อตุดผู้จะเลี้ยดและวัสดุแห้ง โดยปกติ บื้อช แนะนำให้ใช้ห่อตุดบังกันไฟฟ้าสถิต (อุปกรณ์ประกอบ)

#### การเชือห่อตุดเข้ากับเครื่องห่อตุดฟุ่น (ดูภาพประกอบ E)

หมุนห่อตุด (33) ที่ติดตั้งแล้วเข้าไปในช่องสำหรับห่อต่อห้อ ดึงแฉบยีด (17) ทั้งสองแฉบเข็นด้านบนและเก็บไว้เข้าในช่องยีด (18)

#### การเปลี่ยนถุงกรองพ้าฟลีช (การหดฟุ่นแห้ง)

สำหรับการหดฟุ่นหนึ่งแห้งเพื่อหดวัสดุตามประเภทฟุ่น M คุณจำเป็นต้องใช้ถุงกรองพ้าฟลีช (36)  
ในการนำรากวัสดุที่มีหรือไม่มีเม็ดลูกจำพวกหัวรับลมผสัต ≥ 1 มก./ม.<sup>3</sup> (ที่สอดคล้องกับทุ่งบราก L) คุณสามารถหดวัสดุจังกลลงในแบบบรรจุได้โดยตรง  
**หมายเหตุ:** โปรดปฏิบัติใช้งานกรองพ้าฟลีช (ดู "การทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ/หุญดันอ่อน" (ดูภาพประกอบ L), หน้า 86) ที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างลังฯ

**⚠ คำเตือน** เครื่องหดฟุ่นบารูตุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้หุ้นชี้ยื่นจากหัวห่อห้องห้อง และบารูรักษา รวมทั้งกำจัดถังเก็บฟุ่นแห้งนั้น จำเป็นต้องใช้ถุงกรองบ่อกรองทันทีท่ามกลาง อย่างไร้ไข้ยาเครื่องห่อตุดฟุ่นโดยไม่มีระบบกรองที่ควบคุมและสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของท่าน

#### การใส่/ถอนถุงกรองพ้าฟลีช (ดูภาพประกอบ F-G)

เปิดตัวล็อก (19) และถอดส่วนบนของเครื่องหดฟุ่น (16) ออก

สำหรับการใส่ ให้สียถุงกรองพ้าฟลีช (36) เข้ากับด้าวยีดหุ่น กรองพ้าฟลีช (35)- และจัดวางถุงกรองพ้าฟลีช (36) พร้อมด้วยตัวยีดหุ่นกรองพ้าฟลีช (35) เข้าในจั๊บบรรจุ (1) สำหรับการอุด ให้ปิดช่องที่ถุงกรองพ้าฟลีชที่บรรจุเดิมโดยการดึงตัวล็อกขึ้น ดึงถุงกรองพ้าฟลีช (36) ที่ปิดล็อกแล้ว ออกจากตัวยีดหุ่นกรองพ้าฟลีช (35) และนำออกจากเครื่องหดฟุ่น

จัดวางส่วนบนของเครื่องหดฟุ่น (16) กลับเข้าไป แล้วปิดตัวล็อก (19) เพื่อชื่มอุดถุงบรรจุ (1) เข้ากับส่วนบนของเครื่องหดฟุ่น (16)

#### การคลิกล็อกกล่อง L-Boxx (ดูภาพประกอบ H)

สำหรับการชน้ำยาเครื่องหดฟุ่นและการจัดเก็บอุปกรณ์ส่วนของเครื่องหดฟุ่นและ/หรือเครื่องหุ้นไฟฟ้าแบบบปรงหดฟุ่นที่คุณสามารถใช้ระบบคลิกล็อกกล่อง L-Boxx เข้ากับส่วนบนของเครื่องหดฟุ่นได้

ยืดห่อตุดเข้ากับเครื่องหดฟุ่น (ดูภาพประกอบ E)

คลิกกล่อง L-Boxx ลงบนตัวยีด (13)

▶ **ห้ามดูกุญแจในขณะที่ฝากล่อง L-Boxx คลิกเปิดอยู่**

เนื่องจากน้ำหนักคุณยกางของเครื่องหดฟุ่นจะถูกดันบน เครื่องหดฟุ่นอาจพลิกคว่ำได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการชำรุดเสียหาย

▶ **ห้ามเสือเครื่องหดฟุ่นโดยไม่อัจฉริยะของกล่อง L-Boxx ที่คลิกเปิดอยู่** เนื่องจากน้ำหนักของเครื่องหดฟุ่นอาจมาเกินไปสำหรับมือจับของกล่อง L-Boxx ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการชำรุดเสียหาย

#### การติดตั้งโครงเสื่อนแบบยีดออกได้ (ดูภาพประกอบ I-J)

**หมายเหตุ:** โครงเสื่อนแบบยีดออกได้จะไม่สามารถถอดประกอบออกได้ ขณะติดตั้งให้ตรวจสอบว่าโครงเสื่อนแบบยีดออกได้ให้อยู่ในแนวเดียวกันอย่างถูกต้อง

ปรับแนวของโครงเสื่อนแบบยีดออกได้ (15) ก่อนการใช้งานโดยดูจากเครื่องหมาย R (ขวา) และ L (ซ้าย)

จัดวางโครงเสื่อนแบบยีดออกได้ (15) เข้าในร่างเสื่อนปรับ (42)

กดโครงเสื่อนแบบยีดออกได้ (15) ลงด้านล่างจนสุดแนวขอบจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อกเข้าที่

กดปุ่มกด (14) เพื่อปรับความยาวของโครงเสื่อนแบบยีดออกได้ (15)

#### การปฏิบัติตาม

▶ **ถอนล็อกให้ฟ้าอกจากเด้าเสียงก่อนปารูรักษาหรือทำความสะอาดหุ้นไฟฟ้า** เครื่องหดฟุ่นห่อตุดฟุ่น ทำการปรับแต่งด้วยที่เครื่องเปลี่ยนอุบัติประกอบ หรือเก็บเครื่องหดฟุ่นเข้าที่ มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะบังกันไม่ให้เครื่องหดฟุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

#### การเริ่มนับปฏิบัติตาม

▶ **ให้ล้างเกลเดรงตันให้ฟ้า!** แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีค่าแรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายติดตั้งเครื่องหดฟุ่น

▶ **อ่านกฎระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการหุ้นฟุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีค่าใช้ในประเทศไทยของท่านอย่างละเอียด**

เครื่องหดฟุ่นนี้หมายความสำหรับดูดและนำออกวัสดุดังต่อไปนี้:

- ฟุ่นที่มีค่าใช้จ่ายหัวรับลมผสัต ≥ 0.1 มก./ม.<sup>3</sup>

โดยหลักการนี้ ต้องไม่ใช้เครื่องหดฟุ่นในบริเวณที่อาจเกิดภาระเบี่ยงได้

เพื่อให้เครื่องหดฟุ่นทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องคลายห่อตุด (33) ทั้งหมดออกจากส่วนบนของเครื่องหดฟุ่น (16) เสมอ

## การรับกำลังดุด

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมกำลังในการดูด (11) เพื่อควบคุมกำลังดุดแบบไม่ต้องปรับตามระดับ

ปรับตัวควบคุมกำลังในการดูด (11) เพื่อให้กำลังดุดสูงสุดสำหรับใช้งานฟุ่นที่ก่อตัวหนา

ปรับตัวควบคุมกำลังในการดูด (11) ไปยังตำแหน่งที่ให้กำลังดุดลดลงสำหรับใช้งานฟุ่นที่ก่อตัวน้อย และเพื่อควบคุมแรงการดูดผู้คนห่างเครื่องเมื่อไฟฟ้าที่เข้มต่ออยู่และพื้นผิวของขันงาน ( เช่น เมื่อทำงานขัด )

## การตรวจสอบอัตราการไฟฟ้า

เครื่องดูดฟุ่นมีระบบตรวจสอบอัตราการไฟลอดติดตั้งอยู่ ระบบตรวจสอบอัตราการไฟลอดได้รับการกำหนดค่าไว้ที่ 20 ม./วินาทีในโหมดการทำงาน "ดูดฟุ่น"

หากตัวตรวจสอบไฟลอดต่างจากค่าจังกลาก เช่น จากลิสต์ปกติที่ละเอียดอยู่ในห้องดูด ถุงรองไฟฟ้าที่บรรจุเต็ม หรือตัวตรวจสอบแบบเสียงเรียบที่อุดดันไฟแสดงผล LED (7) 22 หรือ 28 จะกะพริบ และเมื่อเสียงลุյษามาเดือนดังขึ้น ในการนี้ ไฟดูดใช้งานเครื่องดูดฟุ่น และดำเนินการตรวจสอบตามคำอธิบายในหัวข้อ "การแก้ไขความขัดด้อง"

**หมายเหตุ:** ขณะที่ทำงานโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่มีการไฟลอดของอากาศภายในห้องดูด ( เช่น เลือดออกไฟฟ้า ) เครื่องขัดกระดาษทราย เป็นต้น ) อาจมีเสียงลุญญาดเดือนดังขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแจงเตือนดังกล่าว ขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ดูดฟุ่นที่มีช่องอากาศให้หลุดผ่านภายนอกที่เหมาะสมจากอุปกรณ์แล้วมีประเกดทางๆ

## การตั้งค่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	ค่าอัตราการไฟลอดทั้งไว
22 มม.	28 ลูกบาศก์เมตร/ชม.
28 มม.	45 ลูกบาศก์เมตร/ชม.

หากต้องการปรับกำลังในการดูด ให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งาน

 กดปุ่มเส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด (8) ไฟแสดงผล LED (7) 22 หรือ 28 จะติดสว่าง

## เด้าเสียงที่เครื่องดูดฟุ่น

▶ **โปรดคำนึงถึงไฟลอดซึ่งต้องห้ามดูดฟุ่น** การใช้ไฟลอดซึ่งต้องห้ามดูดฟุ่นจะทำให้เครื่องดูดฟุ่นรับไฟลอดเกินมาตรฐานสูงสุดที่อนุญาต น้ำดูดจะถูกการดูดฟุ่นไปทิ้งงาน โปรดลงทะเบียนเครื่องดูดฟุ่นไปยังศูนย์บริการของ Bosch ที่มีการรับรอง หากลักษณะของเครื่องดูดฟุ่นยังเสียงอยู่ในเด้าเสียงและสิ่งที่หลักไฟของเครื่องดูดฟุ่นในตำแหน่ง 1 เด้าเสียงสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (4) จะมีแรงดันไฟฟ้าให้ผลิต จึงสามารถใช้เป็นแหล่งเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ต้องห้ามดูดฟุ่น เช่น ขณะทำงานโดยใช้ระบบดูดฟุ่น ในตำแหน่ง 1+ ระบบ Start/Stop อัตโนมัติของเครื่องดูดฟุ่นจะปิดการทำงาน การปิดใช้งานเครื่องดูดฟุ่นสามารถควบคุมจากระยะไกลผ่านเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ

## การดูดแห้ง

### การดูดฟุ่นที่สะอาด

หากต้องการเปิดใช้งานเครื่องดูดฟุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1



หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฟุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

การดูดฟุ่นที่เกิดจากการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า (ดูภาพประกอบ K)

▶ เมื่อลูกปืนปล่อยอุปกรณ์ที่มีเสียงอยู่ในห้อง ในห้องสัตห้องที่อัตราการระบายอากาศที่เพียงพอ บัญชีบัดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

ในเครื่องดูดฟุ่นมีเด้าเสียงสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (4) ติดตั้งอยู่ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้าจากภายนอกที่เด้าเสียงนี้ โปรดคำนึงถึงไฟลอดซึ่งต้องห้ามดูดฟุ่นที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ

โปรดติดตั้งอะแดปเตอร์ดูดฟุ่นบนเกปะรัล (29) (ดูภาพประกอบ B)

เลือบอะแดปเตอร์ดูดฟุ่นบนเกปะรัล (29) เช้าในช่องเก็ตดูดของเครื่องมือไฟฟ้า

 สำหรับการปิดใช้งานระบบ Start/Stop อัตโนมัติของเครื่องดูดฟุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1+

หากต้องการเริ่มต้นใช้งานเครื่องดูดฟุ่น ให้เบิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเด้าเสียง (4) เครื่องดูดฟุ่นจะสตาร์ตโดยอัตโนมัติ

ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อการดูดฟุ่นจะได้สิ่งคุณลักษณะนันทนาเวลาของระบบ Start/Stop อัตโนมัติจะทำงานต่อไปจนกระทั่งครบ 15 วินาที ทั้งนี้เพื่อดูดฟุ่นที่ดีค้างอยู่ออกไปจากห้องดูด

หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฟุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

## การใช้งานระบบดูดฟุ่น (อุปกรณ์เสริม)

เชื่อมต่อระบบดูดฟุ่นเข้ากับห้องดูด (33) สำหรับการดูดฟุ่นโดยใช้ระบบดูดฟุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1

สิ่งของดูดฟุ่นไว้ที่แผ่น และปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ความตันลุญญาการที่เกิดขึ้นจะทำให้ระบบดูดฟุ่นยืดติดโดยอัตโนมัติ

ปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า และนำระบบดูดฟุ่นออกจากแผ่น อย่างระมัดระวัง

หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฟุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

## การดูดเมียก

- ▶ อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดของเหลวที่ไวไฟหรือระเบิดได้ ตัวอย่าง เช่น เมนูน น้ำมัน และกอชอล ตัวที่ลามา อย่างดูดฝุ่นที่ร้อน ถูกไหม หรือระเบิดได้ อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่น ทำงานในบริเวณที่อาจเกิดระเบิดได ญี่ปุ่น ไอร์แลนด์ หรือ ของเหลวอาลกอลีนไฟหรือระเบิดได
- ▶ ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องบันบันเด็คชาต เครื่องดูดฝุ่นนี้ ใช้สำหรับดูดลมและน้ำ

**หมายเหตุ:** ขออภัยนักสหัสรู้ดับการบันบันน้ำและฝุ่น (ผู้น ประเทก M) ได้รับการพิสูจน์เฉพาะสำหรับการดูดแห้งเท่านั้น ก่อนการดูดเมียก

ถ่ายังบรรจุ (1) แล้วนำกรองผ้าฟลีซ (36) ออก ตรวจสอบว่าลิ้งลากปรกในบริเวณเข็นหรือปริมาณบรรจุ (46) ระบบจะสามารถบิดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นโดยอัตโนมัต เมื่อถังบรรจุมีปริมาณฝุ่นเต็มได ตอบเมื่อเข็นเชือวน์มีเครื่อง สกปรก (ดู "การทำความสะอาดเข็นเชือวน์ปริมาณบรรจุ (ดู ภาพประกอบ P-Q)", หน้า 87) ที่อยู่านหนาหรือด้านข้าง ล้นๆ

- ▶ ในขณะที่ดูดฝุ่นเมียก จำเป็นต้องปิดใช้งานการทำความสะอาดด้วยการโดยอัตโนมัติ

กดปุ่มทำความสะอาดด้วยการโดยอัตโนมัติ (10) เพื่อปิดใช้งานการทำความสะอาดด้วยการดูดดูดตนเอง (ดู "การทำความสะอาดด้วยตนเอง", หน้า 86) การทำความสะอาดด้วยการโดยอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งานและไฟแสดงผล LED A (5) จะดับลง

## การดูดของเหลว

### △ คำเตือน

### ปิดสวิตช์เครื่องดูด

ฝุ่นในทันทีที่มีไฟฟ้าหรือน้ำไหลออกมา และให้ถังบรรจุมีฉนัคเครื่องดูดฝุ่นอาจชำรุดได หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิตช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1

เครื่องดูดฝุ่นเมื่อเข็นเชือวน์ปริมาณบรรจุ (46) ติดตั้งอย่าง หากถังระบับปริมาณสูงสุด เครื่องดูดฝุ่นจะปิดการทำงานโดย อัตโนมัติ และไฟแสดงผล LED A (5) และ M (6) ทึงสอง ตัวจะกะพริบพร้อมกัน 1 ครั้งต่อวินาที ระบบป้องกันการลับ มาเดินเครื่องจะปิดการทำงาน และสามารถปิดใช้งานได เมื่อ กดสวิตช์ปิด/ปิดเครื่องดูดฝุ่น 1 ครั้ง

**หมายเหตุ:** โปรดตรวจสอบปริมาณบรรจุเมื่อปะจําและถ่ายถังบรรจุตามเวลาที่กำหนด ในกรณีที่มีเสียงสัญญาณดีดตัว ขึ้นขณะดูดฝุ่นเมียก ในจำเป็นต้องดำเนินมาตรการได ลักษณะดังกล่าวไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของ เครื่องดูดฝุ่น

หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิตช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

จับถังบรรจุ (1) ในบริเวณจับยึดด้านหลัง (25) แล้วพลิกเพื่อ เทของเหลวออกจากถังด้านหน้า

## หลังจากดูดฝุ่นแบบเมียก

ทุกครั้งหลังจากการดูดฝุ่นเมียก ให้ทำความสะอาดเข็นเชือวน์ ปริมาณบรรจุ (46) (ดู "การทำความสะอาดเข็นเชือวน์ปริมาณบรรจุ (ดูภาพประกอบ P-Q)", หน้า 87)

เพื่อบรรกรถน ไม่ให้เข้ารากอ ตัวหลังการดูดเมียก:

- นำด้าวกรองแบบบันบัน (37) ออกมา แล้วปล่อยให้แห้ง สนิท

- ถอดล่วงบนของเครื่องดูดฝุ่น (16) เปิดฝ่าครอบชุดกรอง (43) และปล่อยให้แห้งส่วนแห้งสนิท

## การทำความสะอาดด้วยการโดยอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง (ดูภาพประกอบ L)

### การทำความสะอาดด้วยการโดยอัตโนมัติ

**หมายเหตุ:** การทำความสะอาดด้วยการโดยอัตโนมัติจะถูก กำหนดโดยเวลาตามการตั้งค่ามาตรฐานเมื่อเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

ไฟแสดงผล LED A (5) จะติดสว่างอย่างต่อเนื่อง เมื่อใช้การทำความสะอาดด้วยการโดยอัตโนมัติ ด้วยกรองแบบบันบัน (37) จะได้รับการทำความสะอาดด้วยลมเป่า 2 ครั้ง (มีเสียงดังเมื่อจังหวะ) การทำงานนี้จะเกิดขึ้นทันทีที่เข็นชาร์ต ตรวจสอบว่าการไฟล์ของอากาศลดลงไปต่ำกว่าระดับที่กำหนด การใช้รับบุญท่าความสะอาดด้วยกรองนี้เป็นประจำจะช่วยยืด อายุการใช้งานของด้าวกรอง

เพื่อให้สามารถใช้งานด้วยการโดยอัตโนมัติ ให้อย่างยาวนานที่สุด โปรดปิด ใช้งานการทำความสะอาดด้วยการโดยอัตโนมัติในกรณี ยกเว้นเท่านั้น เช่น การดูดฝุ่นแบบเมียก

### การทำความสะอาดด้วยตนเอง

กดปุ่มทำความสะอาดด้วยตนเอง (9) เพื่อเปิดใช้งานการทำความสะอาดด้วยตนเอง ด้วยกรองแบบบันบัน (37) จะได้รับการทำความสะอาดด้วยลมเป่า 2 ครั้ง ไฟแสดงผล LED M (6) จะติดสว่างเมื่อสีขาว 2 วินาที เมื่อไฟแสดงผล LED M (6) ดับลง คุณจะสามารถปิดใช้งานเมื่อ ครั้งต่อไปได โดยกดปุ่มทำความสะอาดด้วย ตนเอง (9) อีกครั้ง

**หมายเหตุ:** 请勿使用此功能在灰尘浓度较高的地方。如果灰尘浓度过高，可能会损坏过滤器并导致损坏。因此，在灰尘浓度较高的情况下，请勿使用此功能。当灰尘浓度降低时，可以再次使用此功能。

หากต้องการปิดใช้งานการทำความสะอาดด้วยตนเอง โดยอัตโนมัติ (10) ด้วยกรองแบบบันบัน (37) ให้กดปุ่มทำความสะอาดด้วยตนเอง (9) อย่างต่อเนื่อง直到光亮熄灭。当灰尘浓度降低时，可以再次使用此功能。

## การทำรุกรานและบริการ

### การทำรุกรานและบริการ

▶ ถอนล็อกไฟฟ้าจากเด้าสีบทอนบันบันรักษาหรือ ทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น ทำการรีเซ็ตและไดร์ ที่เครื่อง เมื่อถังบรรจุภัณฑ์แบบปรกติ หรือเก็บเครื่องดูดฝุ่นเข้าที่ มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่น ติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

## ► รักษาเครื่องดูดฝุ่นและรักษาอากาศให้สะอาดเพื่อจะทำทำงานให้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องสั่งเครื่องไฟ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้วัฒนาอย่างมีมาตรฐานเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ หันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

## ► สมานห้ามกับผู้อ่านกันมุ่งเมื่อปารุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น

ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นเป็นครั้งคราวด้วยผ้าชุบนำ้ยาดๆ

► ห้ามทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นโดยใช้มือ เมื่อจากอาจทำให้ตัวกรองหักเสื่อมดับ ไม่สามารถดูดฝุ่นต่อไปได้ เครื่องดูดฝุ่นต้องได้วัดการตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบดูดฝุ่นอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทผู้ผลิตหรือบุคคลผู้ดูแลรับผิดชอบ เช่น ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของตัวกรอง การรั่วไหลที่ตัวเครื่อง และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ควบคุมตามด้า

## การทำความสะอาดและการปารุงรักษาหลังการดูดฝุ่นซึ่งมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- โปรดคำนึงว่าเชื้อส่วนทึ้งหมุดที่ลับผสกนธารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถือเป็นส่วนทึ้งหมุดที่มีภัยร้ายในปืน
- ในที่ทํางานดูดฝุ่น ปืน และหุ้มปีด้านนอกเครื่องดูดฝุ่นให้ทั่ว ก่อนนำเข้าห้องเครื่องซึ่งมีลักษณะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ ตลอดจนบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่นต่อเมื่อ การดำเนินการดังกล่าวไม่เกิดอันตรายโดยเด็ดขาดและบุคคลอื่นๆ สามารถลื่อภัยร้ายของห้องเครื่องดูดฝุ่น ได้โดยดำเนินงานดังกล่าวเมื่อยุ่งในห้องที่มีอิเล็กทรอนิกส์
- ทำความสะอาดด้านนอกเครื่องดูดฝุ่นเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะทำการทดสอบปะกัน
- กำจัดเชื้อส่วนทึ้งหมุดที่เครื่องดูดฝุ่นที่ไม่สามารถทำความสะอาดให้ได้โดยเบี่ยงพื้นที่ที่มีภัยร้ายติดต่อกัน การรั่วซึ่งหัวน้ำในภัยติดต่อที่มีผลบังคับใจสร้างรับการกำจัดที่ง่ายและรวดเร็ว
- ทำความสะอาดด้วยเว็บปารุงรักษาหลังเสร็จล้วนการทำงานดังกล่าว

## การทำความสะอาดถังบรรจุ

เข็มบัตรรู (1) ให้สะอาดเป็นครั้งคราวด้วยสารทำความสะอาดที่ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่มีกำหนดห้ามไว้และปล่อยให้แห้ง

## การทำความสะอาด/การเปลี่ยนตัวกรองแบบจีบเรียบ (ดูภาพประกอบ M-N)

► ง่ายๆ เปิดฝาครอบชุดกรอง ให้จับที่ส่วนหลักล็อกของฝาครอบ และตรวจสอบฝาครอบชุดกรองที่เปลี่ยนออกแล้วถือ เข้าไปในตำแหน่งตั้งครั้ง ฝาครอบชุดกรองที่หล่นลงมาอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการบาดเจ็บได้

ประสิทธิภาพในดูดซึ่งอยู่กับสภาพของตัวกรอง คุณจึงควรทำความสะอาดตัวกรองอย่างมีความระมัดระวัง

เปลี่ยนตัวกรองแบบจีบเรียบ (37) ที่ชารุดโดยทันที

- ทํากรังกอนกรุว่าความสะอาด/เปลี่ยนตัวกรองแบบจีบเรียบ (37) ให้ถูกต้องดูด (33) และใบลักษ์ (23) เข้าในส่วนนี้ของดูด (3)
- ถือที่หลักล็อก (44) และล็อกฝาครอบชุดกรอง (43) ขึ้น ด้านบนจนกระแทกเข้าล็อกในตำแหน่งดังตรง

- จับตัวกรองแบบจีบเรียบ (37) ที่แยก แล้วนำตัวกรองออกจากทางด้านบน

- กำจัดผ่านลักษณะลักษณะลักษณะของลักษณะที่ถูกกลมมาในขณะที่ถูกด้วยกรองแบบจีบเรียบ (37) โดยใช้ผ้ามีเยื่อเชื่อมต่อจากบริเวณขอบของลักษณะ (1)

- ตัวกรองแบบจีบเรียบสามารถถอดทำความสะอาดได้โดยเปิดน้าให้เหลือพาน

- ใส่ตัวกรองแบบจีบเรียบชุดใหม่ที่ห้ามที่ทำความสะอาดด้วย (37) เข้าไป และตรวจสอบความชำรุดของตัวกรองที่ถูกด้วย

- ปิดฝาครอบชุดกรอง (43) จนกระทั่งได้อิ่มเสียงล็อกเข้ากับการทำความสะอาดตัวกรองขั้นตอน (ดูภาพประกอบ O)

► ตัวกรองขั้นตอนในสามารถทำความสะอาดแบบจีบเรียบได้

► ห้ามเขี่ยมมือจากด้านบนเข้าไปในตัวแทนที่ถูกด้วย ตัวกรองชุดใหม่ที่บล็อกด้วยฝาครอบชุดกรองขั้นตอน มีฉันจันจากที่ไม่มีของอุณหภูมิเข้าไปบล็อกในบริเวณดังกล่าว

ดังโครงสร้างแบบจีบเรียบโดย (15) ขึ้นด้านบนจนกระตุ้นฝาครอบชุดกรองขั้นตอนสามารถเข้าไปด้วยอิสระจากด้านหลัง

กดปุ่มปลดล็อก (31) ของฝาครอบชุดกรองขั้นตอน (30) และนำตัวกรองขั้นตอนออกจากช่องเก็บ

นำตัวกรองขั้นตอน (45) ออกมานา

ปัดทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นโดยใช้แปรงขนนุ่ม สอดตัวกรองขั้นตอนด้วยในฝาครอบชุดกรองขั้นตอน (30)

ใส่ฝาครอบชุดกรองขั้นตอน (30) เข้าไปในช่องเก็บตัวกรองขั้นตอน แล้วพับเข้าไป

การทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น (P-Q)

ดึงปลั๊กไฟของเครื่องดูดฝุ่นออกจากเตาเลี้ยง

ถอดส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (16)

ถ่ายบัตรรู (1)

ขยับลูกloy (47) หรือเคาะเบาๆ เพื่อขจัดลักษณะของร่องรอย (47) โดยใช้หัวน้ำ

ทำความสะอาดลูกloy (47) ให้สะอาดโดยใช้หัวน้ำ คุณยังสามารถถอดลูกloyออกมาได้ตามดังการโดยกดที่ตัวล็อก (48) และลูกloy (47) ออกมานา

ทำความสะอาดแบบหลัก (49) โดยใช้แปรง

ใส่ลูกloy (47) กลับเข้าไปอีกครั้ง

## การจัดเก็บและการขนย้าย

### การจัดเก็บ

- ไม่นำไฟฟ้าอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากไป

- เสียงอุปกรณ์และเสียงจากตัวเครื่องที่ทำให้เก็บอุปกรณ์นั้นๆ

- หมุนหัวดูด (33) เข้าไปในช่องสำหรับดูดหัวดูด ดึงแคนยิด (17) ทั้งสองข้างด้านบนแล้วกีดขวางเข้าในช่องยิด

- คลิกกล่อง L-BOXX ลงบนตัวยิด (13)

- นำถุงรองผ้าฟลีซออกมานาที่ที่บรรจุตั้ง

- ถือหรือหัวเครื่องดูดฝุ่นโดยจับด้านล่าง (12) เท่านั้น

- สำหรับการขนย้ายเครื่องดูดฝุ่น ให้เสียบปลั๊กชีล (23) เข้าในส่วนนี้ของดูด (3)

- เก็บเครื่องดูดฝุ่นในห้องที่แห้งและมีพื้นเรียบ และป้องกันการนำออกมานาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

- ล็อกคล้อเลื่อน (21) โดยเหยียบเบรกเล็อเลื่อน (22) ลง **การงานยาวยา (ดูภาพประกอบ R)**
- สำหรับการขันน้ำยาเครื่องดูดฝุ่น ให้เลี่ยงปลั๊กชี้ล (23) เข้า ในส่วนซึ่งมองดูท่อ (3)
- เพื่อการขันน้ำยาที่เรื่องดูดฝุ่นไปอ้ออย่างสูงดูดและสนอ้ม บริเวณหลัง ให้หาดถึงบริจุให้เรียบร้อยและกำจัดทิ้งกรองของฟลีที่บริจุเดิม
- ถือหรือหัวเครื่องดูดฝุ่นโดยจับด้ามกีอิ (12) เท่านั้น
- ปลดล็อกเบรกคล้อเลื่อน (22) เพื่อเอื้อนหรือลากเครื่องดูดฝุ่น
- ใช้โครงเลื่อนแบบยืดออกได้ (15) เท่านั้นในการเลื่อนหรือ ลากเครื่องดูดฝุ่น ห้ามลากเครื่องดูดฝุ่นโดยโครงเลื่อน แม้บุคคลอื่นพื้นที่เป็นขั้นบันได ไม่กรณีดังกล่าวให้ใช้ ตามกีอิแทน
- ขณะถือเครื่องดูดฝุ่นขั้นบันได ให้ตรวจสอบว่าไม่มีบุคคลอื่นใด อยู่ด้านหลัง ทั้งนี้เพื่อบังกันในการกรณีที่เครื่องดูดฝุ่นหล่นลง มาโดยไม่คาดคิด

### การแก้ไขความขัดข้อง

▶ หากเกิดความผิดปกติรีบ (ต. ย. เช่น ตัวกรองเสียหาย) ด้วยปิดลิทช์เครื่องดูดฝุ่นทันที ต้องแก้ไขความผิดปกติ ก่อนเริ่มทำงานต่อไป

ปัญหา	มาตรการแก้ไข
เทอร์ไบน์ดูดไม่เริ่มทำงาน	ตรวจสอบสายไฟฟ้า บลั๊กไฟ พิวส์ เต้าเสียบ และเบนเซอร์ปริมาณบรรจุ (46) สวิตช์ลักษ์ (2) อยู่ที่ "Start/Stop" อัดโน้มติด "
กันหันดูดปิดลิทช์	สับลิทช์หลัก (2) ไปที่ลัญลักษณ์ "ระบบดูดฝุ่น" หรือเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อม ต่อกับเตาเสียบ (4)
เครื่องดูดฝุ่นปิดการทำงาน	ขณะดูดฝุ่นเมียก ไฟแสดงผล LED A และ M กะพริบเข้าๆ พร้อมกัน ถ่ายถังบรรจุ (1)
เทอร์ไบน์ดูดไม่เริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากถ่ายถังบรรจุแล้ว	ขณะดูดฝุ่นแห้ง ไฟแสดงผล LED A และ M กะพริบเร็วพร้อมกัน: ระบบบังอ้อมกันการใช้งานเกินที่ตัดของเตาเสียบเมิดการทำงาน ปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า
พลังดูดลดลง	เกิดการทำงานเกินที่ตัดของเครื่องดูดฝุ่นจากแรงดันไฟฟ้าที่ถึงระดับสูงสุดของเตาเสียบ ที่เครื่องดูดฝุ่น: ปิดสปอร์กนิมอเตอร์ถูกกระบวนการไฟฟ้า โปรดล้างเครื่องดูดฝุ่นไปยังศูนย์บริการของBoschที่ผ่านการรับรอง
ผู้ลอดห้องน้ำขณะดูด	ปิดลิทช์เครื่องดูดฝุ่นและรอ 5 วินาที หลังจาก 5 วินาทีให้เปิดลิทช์อีกครั้ง ทำความสะอาดชั้นเซอร์ปริมาณบรรจุ (46) รวมทั้งพื้นที่ระหว่างชั้นเซอร์ปริมาณบรรจุ (46) โดยใช้ประแจ
ระบบปิดลิทช์อัดโน้มติด (การดูดเมียก)	ทำความสะอาดชั้นเซอร์ปริมาณบรรจุ (46) รวมทั้งพื้นที่ระหว่างชั้นเซอร์ปริมาณบรรจุ (46) โดยใช้ประแจ ตรวจสอบระดับติดมลทดสอบเวลา
มีเสียงลัญญาณเตือนดังขึ้น	ตั้งค่ากำลังในการดูดไว้น้อยเกินไป ปรับตัวควบคุมกำลังในการดูด (11) ไปยังค่าที่สูงขึ้น ตั้งค่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อไม่ถูกต้อง ตั้งค่าเส้นผ่านศูนย์กลางให้ถูกต้อง ท่อดูดอุดตัน (33) หรือพังง แก้ไขการอุดตันหรือการพังง ถุงกรองผ้าลิชเติม

ปัญหา	มาตรการแก้ไข
	<b>เปลี่ยนถุงกรองผ้าฟลีซ (36)</b>
	<b>ตัวกรองแบบจีบเรียบ (37) สกปรก</b>
	ทำความสะอาดด้วยกรองแบบจีบเรียบหรือเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น การเหลืองของอากาศผ่านเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่ไม่เพียงพอ หากมี: เปิดช่องอากาศให้ผ่านจากภายนอกของเครื่องมือไฟฟ้าหรือใช้อัคเดปเตอร์ดูดฝุ่นที่มีช่องอากาศให้ผ่านจากภายนอกที่เหมาะสม การทำงานล้มเหลวของระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องตรวจสอบ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจากBosch
มีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นขณะดูดฝุ่น เมื่อไหร่ก็	ไม่จำเป็นต้องดำเนินมาตรการใดๆ
ระบบทำความสะอาดด้วยกรองอัดโนแมต ไม่ทำงาน	ระบบทำความสะอาดด้วยกรองโดยอัดโนแมตจะเปิดใช้งานต่อเมื่อการเหลืองของอากาศลดลงไปต่ำกว่าระดับที่กำหนด สำหรับการตรวจสอบขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยกรองด้วยตนเอง ให้เปลี่ยนเข้าสู่โหมดแม่นวน โดยกดตัวปุ่มทำความสะอาดด้วยตนเอง (9)
การทำความสะอาดด้วยกรองด้วยตนเองไม่เริ่มการทำงาน	ระบบบังกันความร้อนสูงเกินของเครื่องดูดฝุ่นถูกเบิดใช้งาน การกดปุ่มทำความสะอาดด้วยตนเอง (9) อุ่นตัวเนื่อง 10 ครั้งกระตุ้นให้ระบบบังกันความร้อนสูงเกินเบิดการทำงาน ระบบบังกันความร้อนสูงเกินจะถูกปิดใช้งานโดยอัดโนแมตหลังเวลาผ่านไป 20 วินาที การกดปุ่มทำความสะอาดด้วยตนเอง (9) อุ่นตัวเนื่อง 30 ครั้งกระตุ้นให้ระบบบังกันความร้อนสูงเกินเบิดการทำงาน ระบบบังกันความร้อนสูงเกินจะถูกปิดใช้งานโดยอัดโนแมตหลังเวลาผ่านไป 4 นาที หากยังคงเกิดปัญหาตามอย่างใดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจากBosch
การทำความสะอาดด้วยกรองโดยอัดโนแมตไม่เริ่มการทำงาน	โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจากBosch

## การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องของไฟล์ภาพเพื่อการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาดูใน: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

ทีมงานที่บริการของฯ บอช ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราระบุปกรณ์ประกอบด้วยๆ เมื่อต้องการสอบถามความและล้างห้องว่างให้ กรุณาแจ้งหมายเลขลิ้นค่า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

### ไทย

ไทย บริษัท โรเบิร์ต บอช จำกัด  
ເອົວຍາໄອ ເຂັ້ມຕົວ ອາຄາຣ 1 ຫັນ 5  
ເລີ່ມທີ 2525 ຄັນພະຮະມ 4  
ແຂວງຄລອງເຕຍ ເຂດຄລອງເຕຍ ກຽງທເພາ 10110  
ໂທ: +66 2012 8888  
ແຟກ: +66 2064 5800  
[www.bosch.co.th](http://www.bosch.co.th)  
ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม ນ້ຳໜູນ  
ອາຄາຣ ລາຊາລຖາວນວັນ ຫັນ G ທອງເລີ່ມທີ 2  
ມານເລີ່ມທີ 10/1 ພູມ 16  
ຄົນເຮືອນຄຣິນທຣ ຕໍາບ່ນນາງແກ້ວ ອໍາເກອນບາງພລີ  
ຈັງຫວັດສຸກປະກາດ 10540

ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 02 7587555  
โทรสาร 02 7587525

สามารถติดต่อศูนย์บริการอื่นๆ ได้ที่:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## การกำจัดขยะ

เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์ประกอบ และหีบห่อ ต้องนำไปใบแยกประเภททั่วไปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม



## Bahasa Indonesia

### Petunjuk Keselamatan untuk Alat Pengisap



**Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan.** Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

**Simpan semua peringatan dan petunjuk kerja untuk keperluan di waktu yang akan datang.**

► **Alat pengisap ini tidak dirancang untuk digunakan oleh anak-anak dan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental atau sensorik, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan.** Jika tidak, hal tersebut dapat menimbulkan risiko kesalahan pengoperasian dan menyebabkan cedera.

► **Awasi anak Anda.** Dengan demikian, Anda dapat memastikan anak-anak tidak bermain dengan alat pengisap.

► **Patuhi semua peraturan keselamatan untuk zat yang akan diisap.**

**PERINGATAN** Jangan pernah digunakan untuk mengisap material yang mengandung asbes. Asbes termasuk bahan yang mengendap dan merusak, terutama paru-paru.

**PERINGATAN** Gunakan alat pengisap hanya jika Anda telah memiliki informasi yang cukup mengenai penggunaan alat pengisap, material yang diisap, dan pembuangan yang aman. Mengikuti instruksi dengan hati-hati dapat mengurangi kesalahan pengoperasian dan cedera.

**PERINGATAN** Alat pengisap cocok digunakan untuk membersihkan material yang kering dan juga untuk membersihkan cairan dengan tahapan yang sesuai. Masuknya cairan ke dalam alat dapat meningkatkan risiko sengatan listrik.

► **Jangan gunakan alat pengisap untuk mengisap cairan yang mudah terbakar dan dapat meledak, misalnya bensin, oli, alkohol, zat pelarut. Jangan mengisap debu panas, debu yang terbakar atau eksplosif. Jangan mengoperasikan alat pengisap di ruangan**

**yang dapat memicu ledakan.** Debu, uap, atau cairan dapat terbakar atau meledak.

**PERINGATAN** Gunakan stopkontak hanya untuk tujuan yang telah ditentukan pada panduan pengoperasian.

**PERINGATAN** Segera matikan alat pengisap jika terdapat busa atau air yang keluar dan kosongkan wadahnya. Jika tidak, alat pengisap dapat rusak.

► **PERHATIAN!** Alat pengisap hanya boleh disimpan di dalam ruangan.

► **PERHATIAN!** Bersihkan sensor level cairan secara teratur dan periksa apakah terdapat kerusakan. Fungsi dapat terganggu jika terdapat kerusakan.

► **Jika penggunaan alat pengisap di tempat yang basah tidak dapat dihindarkan, gunakanlah pemutus sirkuit arus.** Penggunaan pemutus sirkuit arus mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

► Periksa alat pengisap, kabel, dan plug setiap sebelum digunakan. Jangan menggunakan alat pengisap jika terdapat kerusakan. Jangan membuka alat pengisap sendiri dan serahkan hal tersebut pada petugas resmi dan lakukan perbaikan hanya menggunakan suku cadang asli. Alat pengisap, kabel, dan steker yang rusak menambah risiko terjadinya kontak listrik.

► **Kabel jangan sampai tertarik.** Jangan menarik kabel saat akan melepas plug dari stopkontak atau **menggerakkan alat pengisap.** Kabel yang rusak membuat risiko terjadinya kontak listrik menjadi lebih besar.

► **Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyelitan, mengganti bagian aksesoris, atau meletakkan alat pengisap.** Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalakan alat pengisap yang tidak diinginkan.

► **Upayakanlah agar ada pertukaran udara di tempat kerja.**

► **Serahkan perbaikan alat pengisap hanya pada petugas resmi dengan menggunakan suku cadang asli.** Dengan demikian, keselamatan kerja dengan alat pengisap selalu terjamin.

► **Jika pengisap debu telah digunakan di area yang terdapat zat berbahaya, lakukan pengisapan debu, lap atau segel bagian luar pengisap debu sebelum mengelarkannya dari area berbahaya tersebut.** Semua bagian pengisap debu dianggap terkontaminasi dan tindakan yang tepat harus dilakukan untuk memastikan zat berbahaya tidak menyebar.

**PERINGATAN** Alat pengisap berisi debu yang berisiko bagi kesehatan. Lakukan proses pengosongan, perawatan, pembersihan kontainer debu hanya oleh orang yang ahli. Diperlukan peralatan keselamatan yang sesuai. Jangan mengoperasikan alat pengisap tanpa sistem penyaring yang lengkap dan

**terpasang dengan cermat.** Jika tidak, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan.

- ▶ **Periksa kondisi slang pengisap yang sesuai sebelum memulai pengoperasian awal.** Selain itu, biarkan slang pengisap terpasang pada alat agar debu tidak keluar. Jika tidak, bisa jadi Anda menghirup debu.
- ▶ **Jangan menggunakan alat pengisap sebagai tempat duduk.** Alat pengisap dapat rusak jika diduduki.
- ▶ **Gunakan kabel daya dan slang pengisap dengan hati-hati.** Anda dapat membahayakan orang lain dengan benda tersebut.
- ▶ **Jangan membersihkan alat pengisap di bawah air yang mengalir langsung.** Air yang masuk ke bagian atas alat pengisap dapat menimbulkan risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Sambungkan alat pengisap ke suplai daya yang di-grounding dengan benar.** Stopkontak dan kabel ekstensi harus memiliki konduktor pelindung yang berfungsi.
- ▶ **Jangan gunakan stopkontak pada alat pengisap saat melakukan pengisapan basah atau di lingkungan yang basah.** Sentuhan dengan air dapat menimbulkan risiko korlating atau sengatan listrik.

## Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat sangat membantu Anda selama penggunaan alat pengisap. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta maknanya. Penafsiran yang benar dari simbol-simbol ini dapat membantu Anda untuk menggunakan alat pengisap dengan aman dan lebih baik.


### Simbol dan artinya



**PERINGATAN!** Bacalah semua instruksi dan petunjuk keselamatan. Kelalaian yang dikarenakan tidak mengikuti instruksi dan petunjuk keselamatan dengan benar dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.



Alat pengisap kategori debu M menurut IEC/EN 60335-2-69 untuk **pengisapan kering** pada debu yang berbahaya bagi kesehatan dengan nilai batas paparan  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**PERINGATAN!** Alat pengisap berisi debu yang berisiko bagi kesehatan. Hanya lakukan proses pengosongan dan perawatan, termasuk pembersihan kontainer debu oleh orang yang ahli. Diperlukan peralatan keselamatan yang sesuai. Jangan mengoperasikan alat pengisap tanpa sistem filter yang lengkap dan terpasang dengan benar. Jika tidak, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan.

### Simbol dan artinya



**! max. 1 L-BOXX  
max. 15 kg**


Hanya klik maksimal satu L-BOXX. Berat L-BOXX beserta isinya tidak boleh melebihi 15 kg.



**Jangan gantung alat pengisap pada pengait derek, misalnya untuk pengangkutan.** Alat pengisap tidak dapat dikerek. Terdapat risiko cedera dan kerusakan.



**Jangan menggunakan alat pengisap sebagai tempat duduk, tangga, atau pijakan.** Alat pengisap dapat terbalik dan menjadi rusak. Terdapat risiko cedera.



**A**

Indikator LED Mode pembersihan filter otomatis

**M**

Indikator LED Mode pembersihan filter manual

**28 22**

Indikator LED Diameter slang pengisap



Tombol pembersihan filter otomatis



Tombol pembersihan filter manual



Tombol diameter slang pengisap (kecepatan isap)



**Start/stop otomatis**

Mengisap tumpukan debu dari perkakas listrik yang sedang beroperasi; Alat pengisap akan hidup secara otomatis lalu mati kembali dengan jeda waktu. Stopkontak pada alat pengisap dialiri daya secara permanen.



**Penonaktifan**

Stopkontak pada alat pengisap tidak dialiri daya.



**Pengisapan**

Mengisap debu yang menumpuk dan

**Simbol dan artinya**

debu dari sistem pengisapan.  
Stopkontak pada alat pengisap dialiri daya secara permanen.

**Min/Maks**

Pengaturan daya isap tanpa henti:

- Daya isap maksimum untuk penggunaan dengan jumlah debu yang banyak
- Mengurangi daya isap untuk penggunaan dengan jumlah debu yang sedikit dan untuk mengatur daya isap antara perkakas listrik yang terhubung dan permukaan benda kerja (misalnya saat menggerinda)



Penyimpanan data diaktifkan di dalam alat pengisap ini.



Informasi input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung (menyesuaikan negara masing-masing)

**Spesifikasi produk dan performa**

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada bagian depan panduan pengoperasian.

**Tujuan penggunaan**

Alat pengisap dirancang untuk mengumpulkan, mengisap, mengangkat, dan memisahkan debu kering dan cairan yang tidak mudah terbakar. Alat pengisap telah diuji dengan penyaringan debu dan sesuai dengan kategori debu M. Alat ini cocok untuk penggerahan yang sangat menuntut pada penggunaan komersial, misalnya dalam bidang pertukangan, industri dan perbgkelan.

Alat pengisap kategori debu M sesuai IEC/EN 60335-2-69 hanya boleh digunakan untuk mengisap debu yang berbahaya bagi kesehatan dengan nilai batas eksposur  $\geq 0,1 \text{ mg}/\text{m}^3$ .

Gunakan alat pengisap hanya jika Anda benar-benar mengenal dan menguasai semua fungsi serta dapat mengoperasikannya tanpa keterbatasan atau telah menerima petunjuk-petunjuk rinci tentang penggunaannya.

**Ilustrasi komponen**

Penomoran ilustrasi komponen sesuai dengan gambar alat pengisap pada halaman bergambar.

- (1) Kontainer
- (2) Switch utama
- (3) Dudukan slang
- (4) Stopkontak untuk perkakas listrik

- (5) Indikator LED **A** Mode pembersihan filter otomatis
- (6) Indikator LED **M** Mode pembersihan filter manual
- (7) Indikator LED **22/28** Diameter slang pengisap
- (8) Tombol diameter slang pengisap (kecepatan isap)
- (9) Tombol pembersihan filter manual
- (10) Tombol pembersihan filter otomatis
- (11) Pengatur daya isap
- (12) Gagang angkat
- (13) Dudukan L-Boxx
- (14) Tombol tekan braket pemandu
- (15) Braket pemandu yang dapat diperpanjang
- (16) Bagian atas alat pengisap
- (17) Strap
- (18) Lubang pemasangan
- (19) Pengunci untuk bagian atas alat pengisap
- (20) Roda
- (21) Caster
- (22) Rem caster
- (23) Katup pengunci untuk sambungan pengisap
- (24) Dudukan kabel
- (25) Area gagang belakang
- (26) Dudukan untuk nozel lantai
- (27) Nozel lantai
- (28) Nozel sikat kombinasi
- (29) Adaptor alat pengisap kombinasi (untuk perkakas listrik)
- (30) Penutup filter awal
- (31) Tombol pembuka kunci filter awal
- (32) Pipa isap
- (33) Slang isap
- (34) Nozel bengkok
- (35) Dudukan kantong filter fleece
- (36) Kantong filter fleece
- (37) Filter flat-fold
- (38) Tombol tekan slang pengisap
- (39) Adaptor PowerTool (bagian depan)
- (40) Adaptor PowerTool (bagian belakang)
- (41) Tombol pembuka kunci nozel sikat kombinasi
- (42) Rel pemandu untuk braket pemandu yang dapat diperpanjang
- (43) Penutup filter pada filter flat-fold
- (44) Katup pengunci penutup filter
- (45) Filter awal
- (46) Sensor level pengisian
- (47) Pengapung
- (48) Penguncian pengapung
- (49) Magnet

## Data teknis

Alat pengisap basah/kering		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
Nomor barang <b>3 601 JMO ...</b>		... 120/... 1F0 ... 180/... 1E0/... 1N0 ... 1K0 ... 1L0/... 170 ... 1H0 ... 130	... 1D0/... 1G0 ... 1C0 ... 160
Input daya nominal	W	1200	1200
Frekuensi	Hz	50–60	60
Volume penampung debu (bruto)	l	40	40
Volume bersih (kering)	l	28	26
Volume bersih (cairan)	l	20	18
Volume kantong filter fleece	l	19	19
Tekanan negatif <sup>A)</sup>			
– Alat pengisap	hPa	220	180
– Turbin	hPa	230	200
Laju alir <sup>A)</sup>			
– Alat pengisap	l/s m <sup>3</sup> /h	28 100,8	26 93,6
– Turbin	l/s m <sup>3</sup> /h	71,5 257	70 252
Kategori debu		M	M
Berat <sup>B)</sup>	kg	14,1	14,5
Kelas perlindungan		⊕/I	⊕/I
Tingkat perlindungan		IPX4	IPX4

A) dihitung dengan slang isap dengan diameter 28 mm dan panjang 4 m

B) Berat tanpa kabel sambungan listrik dan tanpa steker listrik

Informasi berlaku untuk tegangan nominal yang ditentukan. Data-data ini dapat bervariasi pada tegangan yang berbeda dan pada model khusus tiap negara.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

### Stopkontak pada alat pengisap

Input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung	Tegangan nominal	Daya maksimal	Daya minimal
<b>3 601 JMO ...</b>			
... 120/... 1F0	230 V	2100 W	100 W
... 180/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1K0	220–30 V	2100 W	100 W
... 1L0/... 170	220–40 V	1660 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 130	230 V	1100 W	100 W
... 1D0/... 1G0	127 V	705 W	100 W
... 1C0	115 V	525 W	100 W
... 160	110 V	560 W	100 W

Informasi input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung.

Pada model khusus tiap negara lainnya, nilai-nilai ini mungkin berbeda. Harap perhatikan informasi pada stopkontak pengisap debu.

## Pemasangan

- Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetelan, mengganti bagian aksesorai, atau meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap yang tidak diinginkan.

### Memasang aksesorai alat pengisap (lihat gambar A)

Slang pengisap (33) dilengkapi dengan sistem klip yang dapat disambungkan dengan aksesorai alat pengisap (adaptor pengisap kombinasi (29), nozel bengkok (34), nozel sikat kombinasi (28)).

#### Memasang nozel bengkok

- Pasang nozel bengkok (34) pada slang pengisap (33) hingga kedua tombol tekan (38) pada slang pengisap terdengar mengunci.
- Untuk melepaskan, tekan tombol tekan (38) ke arah dalam, lalu lepaskan komponen.

#### Memasang nozel lantai dan pipa

- Bila perlu, pasang dan kencangkan pipa isap (32) satu sama lain ke nozel bengkok (34).
- Pasang dan kencangkan nozel lantai (27) ke pipa isap (32) atau nozel bengkok (34).

#### Memasang adaptor alat pengisap kombinasi

Adaptor alat pengisap kombinasi (29) terdiri dari adaptor PowerTool (bagian depan) (39) dan adaptor PowerTool (bagian belakang) (40).

Adaptor alat pengisap kombinasi (29) kompatibel dengan perkakas listrik dari Bosch.

Adaptor PowerTool (bagian belakang) (40) dapat digunakan untuk perkakas listrik dari produsen lain melalui diameter bagian dalam mulai dari 38,5 mm dan diameter bagian luar mulai dari 45 mm.

Pasang adaptor PowerTool (bagian depan) (39) ke adaptor PowerTool (bagian belakang) (40) dan sambungkan kedua adaptor dengan cara memutarnya berlawanan arah (lihat gambar B).

Pasang adaptor alat pengisap kombinasi (29) ke slang pengisap (33) hingga kedua tombol tekan (38) pada slang pengisap terkunci dengan benar.

Untuk melepaskan, tekan tombol tekan (38) ke arah dalam, lalu lepaskan adaptor alat pengisap kombinasi dari slang pengisap.

Untuk melepaskan kedua adaptor, kendurkan sambungan dengan memutarnya berlawanan arah dan lepaskan adaptor hingga terpisah.

#### Memasang nozel sikat kombinasi

Pasang nozel sikat kombinasi (28) ke slang pengisap (33) hingga kedua tombol tekan (38) pada slang pengisap terdengar mengunci.

Untuk melepaskan, tekan tombol tekan (38) ke arah dalam, lalu lepaskan komponen.

#### Mengatur nozel sikat kombinasi (lihat gambar C)

Nozel sikat kombinasi (28) dapat digunakan sebagai nozel celah atau sikat.

Tekan tombol pembuka kunci (41) dan dorong sikat ke depan untuk menggunakan nozel sikat kombinasi (28) sebagai sikat.

Tekan tombol pembuka kunci (41) lalu tarik sikat ke belakang untuk menggunakan nozel sikat kombinasi (28) sebagai nozel celah.

### Memasang slang pengisap (lihat gambar D)

Lepaskan katup pengunci (23) dari dudukan slang (3).

Pasang slang pengisap (33) ke dudukan slang (3) dan putar searah jarum jam hingga maksimal.

- Selalu kunci sambungan pengisap dengan katup pengunci saat melepas slang pengisap. Hal tersebut akan mencegah debu keluar.

**Catatan:** Saat melakukan pengisapan, gesekan debu di dalam slang isap dan aksesorinya akan menciptakan muatan elektrostatik yang dapat dirasakan oleh pengguna dalam bentuk listrik statis (tergantung pada pengaruh lingkungan dan reaksi fisik).

Bosch merekomendasikan untuk menggunakan slang isap antistatik (aksesorji) saat mengisap debu halus dan material kering.

#### Memasang slang pengisap ke alat pengisap (lihat gambar E)

Gulung slang pengisap yang telah dipasang (33) ke dalam kompartemen untuk slang pengisap. Tarik kedua strap (17) ke atas dan kaitkan ke dalam lubang pengikat (18).

### Mengganti kantong filter fleece (pengisapan kering)

Untuk pengisapan kering pada material yang sesuai dengan kategori debu M, kantong filter fleece (36) harus digunakan. Jika tekstil tanpa atau dengan nilai batas paparan  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (sesuai dengan kategori debu L) dilakukan pengisapan, tekstil tersebut dapat diisap langsung ke dalam kontainer.

**Catatan:** Saat menggunakan kantong filter fleece, matikan pembersihan filter otomatis (lihat „Pembersihan filter otomatis/manual (lihat gambar L)“, Halaman 97).

**PERINGATAN** Alat pengisap berisi debu yang berisiko bagi kesehatan. Lakukan proses pengosongan, perawatan, pembersihan kontainer debu hanya oleh orang yang ahli. Diperlukan peralatan keselamatan yang sesuai. Jangan mengoperasikan alat pengisap tanpa sistem penyaring yang lengkap dan terpasang dengan cermat. Jika tidak, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan.

#### Memasang/melepas kantong filter fleece (lihat gambar F-G)

Buka pengunci (19) dan lepaskan bagian atas alat pengisap (16).

Untuk memasukkan, letakkan kantong filter fleece (36) pada dudukan kantong filter fleece (35) dan letakkan kantong filter fleece (36) dengan dudukan kantong filter fleece (35) ke dalam kontainer (1).

Untuk melepaskan, kunci lubang kantong filter fleece yang terisi penuh dengan menarik kuncinya. Lepaskan kantong filter fleece yang terkunci (36) dari dudukan kantong filter fleece (35) lalu lepaskan dari alat pengisap.

Pasang kembali bagian atas alat pengisap (16) dan sambungkan kontainer (1) ke bagian atas alat pengisap (16) dengan menutup pengunci (19).

### Mengaitkan L-Boxx (lihat gambar H)

Untuk pengangkutan alat pengisap dan untuk penyimpanan aksesoris alat pengisap dan/atau perkakas listrik yang menghemat ruang, klik L-Boxx di bagian atas alat pengisap. Pasang slang pengisap ke alat pengisap (lihat gambar E). Kaitkan L-Boxx pada dudukannya (13).

► **Jangan lakukan pengisapan dengan L-Boxx terpasang.**

Titik berat alat pengisap akan berpindah ke atas. Alat pengisap dapat terbalik. Terdapat risiko cedera dan kerusakan.

► **Jangan mengangkat alat pengisap pada gagang angkat L-Boxx yang terpasang.** Gagang angkat L-Boxx tidak dapat menahan berat alat pengisap. Terdapat risiko cedera dan kerusakan.

### Memasang braket pemandu yang dapat diperpanjang (lihat gambar I-J)

**Catatan:** Braket pemandu yang dapat diperpanjang tidak dapat dilepas. Selama pemasangan, pastikan orientasi braket pemandu telah sesuai.

Sebelum pemasangan, arahkan braket pemandu (15) berdasarkan tanda R (kanan) dan L (kiri).

Pasang braket pemandu (15) pada rel pemandu (42).

Tekan braket pemandu (15) hingga garis berhenti berada di bawah, hingga braket pemandu terdengar mengunci.

Tekan tombol tekan (14), untuk mengubah panjang braket pemandu (15).

## Penggunaan

► **Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetelan, mengganti bagian aksesoris, atau meletakkan alat pengisap.** Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalaman alat pengisap yang tidak diinginkan.

### Cara penggunaan

► **Perhatikan tegangan listrik!** Tegangan pada sumber listrik harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada label tipe alat pengisap.

► **Carilah informasi tentang peraturan/hukum yang berlaku mengenai penanganan debu berbahaya di negara Anda.**

Alat pengisap diperbolehkan untuk mengisap material berikut ini:

- Debu dengan nilai batas paparan  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Alat pengisap tidak boleh digunakan di ruangan yang rentan terjadi ledakan.

Untuk memastikan kinerja alat pengisap yang optimal, slang isap (33) harus selalu dipasang dengan benar pada bagian atas alat pengisap (16).

### Mengatur daya isap

Daya isap dapat diatur tanpa henti menggunakan pengatur daya isap (11).

Atur pengatur daya isap (11) ke daya isap maksimum untuk penggunaan dengan jumlah debu yang banyak.

Atur pengatur daya isap (11) ke posisi untuk mengurangi daya isap untuk penggunaan dengan jumlah debu yang sedikit dan untuk mengatur daya isap antara perkakas listrik yang terhubung dan permukaan benda kerja (misalnya saat menggerinda).

### Pemantauan kecepatan isap

Alat pengisap dilengkapi dengan pemantau kecepatan isap. Pemantau kecepatan isap diatur secara permanen ke nilai 20 m/s dalam mode pengoperasian "Pengisapan".

Jika nilai ini tidak tercapai, misalnya karena tumpukan kotoran di slang pengisap, kantong filter fleece penuh, atau filter flat-fold tersumbat, salah satu indikator LED (7) 22 atau 28 akan berkedip dan sinyal peringatan akustik berbunyi. Pada situasi tersebut, matikan alat pengisap dan lakukan pemeriksaan seperti yang dijelaskan di bagian "Pemecahan Masalah".

**Catatan:** Saat bekerja dengan perkakas listrik dengan supai udara yang kecil pada slang isap (misalnya gergaji, gerinda, dll.), sinyal peringatan akustik dapat berbunyi. Untuk menghindari pesan peringatan, direkomendasikan juga untuk menggunakan adaptor pengisap dengan lubang udara yang sesuai dari rangkaian aksesoris.

### Mengatur diameter slang

Diameter slang	Nilai pengaturan kecepatan isap
22 mm	28 m <sup>3</sup> /h
28 mm	45 m <sup>3</sup> /h

Untuk mengatur daya isap, pilih diameter slang yang digunakan.



Tekan tombol diameter slang pengisap (8). Indikator LED (7) 22 atau 28 menyala.

### Stopkontak pada alat pengisap

► **Perhatikan input daya stopkontak yang diperbolehkan pada alat pengisap. Input daya yang melebihi input daya maksimal yang diperbolehkan dapat menyebabkan alat pengisap kelebihan beban. Sekring pelindung motor diaktifkan.** Kirim alat pengisap ke pusat layanan pelanggan Bosch resmi.

Begini steker alat pengisap dipasang ke dalam stopkontak dan switch utama berada pada posisi 1, stopkontak untuk

perkakas listrik (4) dialiri daya. Stopkontak tersebut dapat digunakan sebagai sambungan daya eksternal pada alat pengisap, misalnya saat bekerja dengan sistem pengisapan. Pada posisi **1+**, fitur start/stop otomatis pada alat pengisap diaktifkan. Alat pengisap dapat dihidupkan dari jarak jauh menggunakan perkakas listrik yang terhubung.

### Pengisapan kering

#### Pengisapan debu yang mengendap



Untuk menghidupkan alat pengisap, putar switch utama (2) ke posisi **1**.

Untuk mematikan alat pengisap, putar switch utama (2) ke posisi **0**.

#### Mengisap tumpukan debu dari perkakas listrik yang beroperasi (lihat gambar K)

- Diperlukan pertukaran udara yang mencukupi di dalam ruangan ketika udara buang kembali ke ruangan. Harap patuh peraturan nasional yang relevan.

Stopkontak untuk perkakas listrik (4) terintegrasi ke alat pengisap. Perkakas listrik eksternal dapat disambungkan ke stopkontak tersebut. Perhatikan input daya maksimal yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung. Pasang adaptor alat pengisap kombinasi (29) (lihat gambar B).

Pasang adaptor alat pengisap kombinasi (29) ke dalam soket pengisap pada perkakas listrik.



Untuk mengaktifkan start/stop otomatis pada alat pengisap, putar switch utama (2) ke posisi **1+**.

Untuk pengoperasian pertama alat pengisap, hidupkan perkakas listrik yang tersambung ke stopkontak (4). Alat pengisap hidup secara otomatis.

Matikan perkakas listrik agar **proses pengisapan berhenti**. Fungsi penundaan shutdown pada start/stop otomatis berlangsung hingga 15 detik untuk mengisap sisa debu dari slang pengisapan.



Untuk mematikan alat pengisap, putar switch utama (2) ke posisi **0**.

#### Penggunaan sistem pengisapan (aksesori)



Hubungkan sistem pengisapan ke slang pengisap (33).

Untuk mengisap debu dengan sistem pengisapan, putar switch utama (2) ke posisi **1**.

Letakkan sistem pengisapan pada dinding dan hidupkan perkakas listrik. Akibat tekanan negatif yang dihasilkan, sistem pengisapan menempel secara otomatis.

Matikan perkakas listrik dan lepaskan sistem pengisapan dari dinding dengan perlahan.



Untuk **mematikan alat pengisap**, putar switch utama (2) ke posisi **0**.

### Pengisapan basah

- **Jangan gunakan alat pengisap untuk mengisap cairan yang mudah terbakar dan dapat meledak, misalnya bensin, oli, alkohol, zat pelarut. Jangan mengisap debu panas, debu yang terbakar atau eksplosif. Jangan mengoperasikan alat pengisap di ruangan yang dapat memicu ledakan.** Debu, uap, atau cairan dapat terbakar atau meledak.
- **Alat pengisap tidak boleh digunakan sebagai pompa air.** Alat pengisap dirancang untuk mengisap udara dan campuran air.

**Catatan:** Persyaratan tingkat permeabilitas (kategori debu M) hanya terbukti untuk pengisapan kering.

#### Sebelum melakukan pengisapan basah

Kosongkan kontainer (1) dan lepaskan kantong filter fleece (36).

Periksa sensor level pengisian (46) untuk mengetahui adanya kotoran. Hanya sensor level pengisian yang bersih yang memungkinkan alat pengisap mati secara otomatis saat kontainer sudah penuh (lihat „Membersihkan sensor level pengisian (lihat gambar P-Q)“, Halaman 98).

- **Pembersihan filter otomatis harus dinonaktifkan selama pengisapan debu basah.**

Tekan tombol pembersihan filter otomatis (10) untuk mengaktifkan pembersihan filter manual (lihat „Pembersihan filter manual“, Halaman 97). Pembersihan filter otomatis kemudian dinonaktifkan dan indikator LED A (5) padam.

#### Mengisap cairan

- **PERINGATAN Segera matikan alat pengisap jika terdapat busa atau air yang keluar dan kosongkan wadahnya.** Jika tidak, alat pengisap dapat rusak.

Untuk **menghidupkan alat pengisap**, putar switch utama (2) ke posisi **1**.

Alat pengisap dilengkapi dengan sensor level pengisian (46). Ketika level pengisian maksimal tercapai, alat pengisap akan mati secara otomatis dan kedua indikator LED A (5) dan M (6) akan berkedip secara bersamaan satu kali setiap detik. Perlindungan pengaktifan ulang akan diaktifkan dan dapat dinonaktifkan dengan menghidupkan/mematikan alat pengisap satu kali.

**Catatan:** Periksa level pengisian secara teratur dan kosongkan kontainer secara tepat waktu. Jika sinyal peringatan akustik berbunyi saat pengisapan debu basah, tidak ada prosedur yang perlu dilakukan. Keamanan pengoperasian alat pengisap tidak akan terpengaruh.

Untuk **mematikan alat pengisap**, putar switch utama (2) ke posisi **0**.

Letakkan kontainer (1) di area pegangan belakang (25) dan gerakkan ke depan untuk membersihkan cairan.

#### **Setelah pengisapan basah**

Bersihkan sensor level pengisian (46) (lihat „Membersihkan sensor level pengisian (lihat gambar P–Q)“, Halaman 98) setiap selesai melakukan pengisapan basah.

Untuk mencegah pembentukan jamur setelah pengisapan basah:

- Lepaskan filter flat-fold (37) dan biarkan hingga sepenuhnya kering.
- Lepaskan bagian atas alat pengisap (16), buka penutup filter (43), dan biarkan hingga sepenuhnya kering.

#### **Pembersihan filter otomatis/manual (lihat gambar L)**

##### **Pembersihan filter otomatis**

**Catatan:** Pembersihan filter otomatis diatur secara default saat alat pengisap dihidupkan.

Indikator LED A (5) menyalा terus-menerus.

Selama pembersihan filter otomatis, filter flat-fold (37) dibersihkan dengan 2 tekanan udara (suara berdenyut). Hal ini terjadi begitu sensor mendeteksi bahwa aliran udara turun di bawah level tertentu.

Penggunaan pembersihan filter secara berkala dapat meningkatkan masa pakai filter.

Untuk mencapai masa pakai filter yang ideal, nonaktifkan pembersihan filter otomatis hanya situasi yang dikecualikan, misalnya saat pengisapan debu basah.

##### **Pembersihan filter manual**

Tekan tombol pembersihan filter manual (9) untuk melakukan pembersihan filter manual. Filter flat-fold (37) dibersihkan dengan 2 tekanan udara. Indikator LED M (6) menyalा putih selama 2 detik. Ketika indikator LED M (6) padam, tekanan udara berikutnya dapat diaktifkan. Untuk melakukannya, tekan kembali tombol pembersihan filter manual (9).

**Catatan:** Selama pembersihan filter manual, harap perhatikan bahwa interval waktu antara setiap penekanan tombol harus selama 2–3 s. Menekan tombol pembersihan filter manual (9) secara terus-menerus akan mengaktifkan perlindungan panas berlebih pada alat pengisap. Perlindungan panas berlebih secara otomatis dibatalkan setelah beberapa saat (lihat „Pemecahan masalah“, Halaman 98).

Untuk menonaktifkan pembersihan filter manual, tekan tombol pembersihan filter otomatis (10).

Filter flat-fold yang permukaannya kotor masih dapat berfungsi dengan baik. Jangan memukul-mukulkan atau meniup filter flat-fold saat membersihkan secara manual karena dapat merusak filter.

## **Perawatan dan servis**

### **Perawatan dan pembersihan**

- Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetelan, mengganti bagian aksesorai, atau meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalakan alat pengisap yang tidak diinginkan.

- **Jaga kebersihan alat pengisap dan lubang ventilasi agar dapat digunakan dengan baik dan aman.**

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh **Bosch** atau Service Center untuk perkakas listrik **Bosch** resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

- **Pakailah masker debu saat melakukan perawatan dan pembersihan alat pengisap.**

Bersihkan housing alat pengisap sesekali dengan kain yang lembap.

- **Jangan bersihkan pengisap debu dengan udara bertekanan.** Filter atau komponen lainnya dapat menjadi rusak.

Minimal setahun sekali, pemeriksaan terkait debu pada alat pengisap harus dilakukan oleh produsen atau personel yang terlatih (misalnya pemeriksaan terkait kerusakan pada filter, kerapatan alat pengisap, dan fungsi perangkat kontrol).

### **Pembersihan dan perawatan setelah melakukan pengisapan zat yang berbahaya bagi kesehatan**

- Anggaplah semua komponen yang mungkin bersentuhan dengan bahan berbahaya telah terkontaminasi.
- Isap, seka, atau tutup rapat bagian luar alat pengisap secara menyeluruh sebelum mengeluarkannya dari area yang mengandung zat berbahaya.
- Hanya bersihkan, lepas, dan lakukan perawatan pada alat pengisap jika memungkinkan untuk melakukan hal tersebut tanpa membahayakan Anda dan orang lain. Kenakan alat pelindung diri saat melakukan perawatan dan pembersihan. Lakukan pekerjaan di ruangan dengan ventilasi yang baik.
- Bersihkan bagian luar alat pengisap terlebih dahulu sebelum melepasnya.
- Buang komponen alat pengisap yang tidak dapat dibersihkan dengan baik ke dalam kantong kedap air. Untuk itu, patuhi peraturan yang berlaku untuk pembuangan limbah tersebut.
- Setelah pekerjaan selesai, bersihkan area perawatan.

### **Membersihkan penampung debu**

Seka kontainer (1) sesekali dengan bahan pembersih nonabrasif standar dan biarkan hingga kering.

### **Membersihkan/mengganti filter flat-fold (lihat gambar M–N)**

- **Saat membuka penutup filter, pegang flap penutup dan pastikan penutup filter yang terbuka terkunci pada posisi vertikal.** Terdapat risiko cedera jika penutup filter terjatuh.

Daya pengisapan bergantung pada kondisi filter. Oleh karena itu, bersihkan filter secara rutin.

Segera ganti filter flat-fold (37) yang rusak.

- Sebelum membersihkan/mengganti filter flat-fold (37), bongkar slang pengisap (33) dan pasang katup pengunci (23) ke dudukan slang (3).
- Tarik katup pengunci (44) dan gerakkan penutup filter (43) ke atas hingga terkunci dalam posisi vertikal.
- Pegang filter flat-fold (37) pada batangnya dan lepaskan ke atas.
- Bersihkan debu dan kotoran yang timbul saat melepas filter flat-fold (37) dari tepi kontainer (1) dengan kain lembap.
- Filter flat-fold dapat dibilas di bawah air mengalir.
- Pasang filter flat-fold (37) yang baru atau sudah dibersihkan, pastikan filter terpasang dengan benar dan aman.
- Tutup penutup filter (43) hingga terdengar mengunci.

#### Membersihkan filter awal (lihat gambar O)

► **Filter awal tidak boleh dibersihkan dalam keadaan basah.**

► **Jangan sentuh area dari arah atas antara braket pemandu dan alat pengisap untuk membuka kunci penutup filter awal.** Dengan demikian, tangan Anda tidak akan terjepit.

Tarik braket pemandu (15) ke atas hingga penutup filter awal dapat diakses dengan mudah dari belakang.

Tekan tombol pembuka kunci (31) penutup filter awal (30) dan lepaskan dari kompartemen filter awal.

Lepaskan filter awal (45).

Bersihkan bagian-bagian filter awal dengan sikat lembut.

Letakkan filter awal ke dalam penutup filter awal (30).

Letakkan penutup filter awal (30) pada kompartemen filter awal, lalu lipat ke dalam.

#### Membersihkan sensor level pengisian (lihat gambar P-Q)

Lepaskan steker alat pengisap dari stopkontak.

Lepaskan bagian atas alat pengisap (16).

Kosongkan kontainer (1).

Gerakkan atau ketuk perlahan pengapung (47) untuk menghilangkan kotoran.

Bersihkan pengapung (47) dengan kain lembut.

Jika perlu, pengapung juga dapat dilepaskan. Untuk itu, tekan penguncian (48) dan lepaskan pengapung (47).

Bersihkan magnet (49) dengan sikat.

Pasang kembali pengapung (47).

#### Penyimpanan dan pengangkutan

##### Penyimpanan

- Gulung kabel listrik pada dudukan kabel (24).
- Pasang aksesoris ke dalam dudukan yang disediakan.
- Gulung slang pengisap (33) ke dalam kompartemen untuk slang pengisap. Tarik kedua strap (17) ke atas dan kaitkan ke dalam lubang pemasangan.
- Kaitkan L-Boxx pada dudukan (13).
- Segera lepaskan kantong filter fleece ketika filter sudah penuh.
- Bawa atau angkat alat pengisap dengan memegang gagang angkatnya (12).
- Untuk mengangkut alat pengisap, pasang katup pengunci (23) ke dudukan slang (3).
- Letakkan alat pengisap di tempat yang kering dengan permukaan rata dan lindungi dari penggunaan yang tidak sah.
- Untuk mengunci caster (21), tekan rem caster (22) ke bawah.

##### Pengangkutan (lihat gambar R)

- Untuk mengangkut alat pengisap, pasang katup pengunci (23) ke dudukan slang (3).
- Untuk memudahkan pengangkutan alat pengisap di punggung Anda, kosongkan kontainer sepenuhnya atau buang kantong filter fleece yang sudah penuh.
- Bawa atau angkat alat pengisap dengan memegang gagang angkatnya (12).
- Buka kunci rem caster (22) untuk mendorong atau menarik alat pengisap.
- Hanya gunakan braket pemandu yang dapat diperpanjang (15) untuk mendorong atau menarik alat pengisap. Alat pengisap tidak boleh ditarik melewati anak tangga menggunakan braket pemandu. Untuk melakukan hal tersebut, hanya angkat alat pada gagang angkatnya.
- Saat membawa alat pengisap di tangga, pastikan tidak ada orang lain tepat di belakang Anda seandainya alat pengisap terjatuh secara tidak terduga.

#### Pemecahan masalah

► **Jika terjadi gangguan (misalnya filter retak), alat pengisap harus segera dimatikan. Sebelum kembali memulai pengoperasian, gangguan harus diatasi.**

Masalah	Solusi
Turbin isap tidak beroperasi.	Periksa kabel, steker, skring, stopkontak, dan sensor level pengisian (46).
	Switch utama (2) diatur ke "Start/stop otomatis".
	Atur switch utama (2) ke simbol "Pengisapan" atau hidupkan perkakas listrik yang terhubung ke stopkontak (4).
Turbin isap mati.	Selama pengisapan debu basah, indikator LED A dan M berkedip perlahan dan secara bersamaan.

Masalah	Solusi
Kosongkan kontainer (1).	
Alat pengisap mati.	Beban berlebih pada alat pengisap akibat tegangan maksimum pada stopkontak di alat pengisap terlampaui: Sekring pelindung beban berlebih pada stopkontak di alat pengisap diaktifkan. Matikan perkakas listrik.
Turbin isap tidak beroperasi kembali setelah kontainer dikosongkan.	Matikan alat pengisap dan tunggu selama 5 s, hidupkan kembali setelah 5 s. Bersihkan sensor level pengisian (46) dan ruang di antara sensor level pengisian (46) dengan sikat.
Daya isap menurun.	Bersihkan penyumbat dari nozel pengisap, pipa pengisap, slang pengisap (33) atau filter flat-fold (37). Ganti kantong filter fleece (36). Kunci penutup filter (43) dengan benar. Pasang bagian atas alat pengisap (16) dengan benar dan kunci pengunci (19). Bersihkan atau ganti filter flat-fold (37).
Debu keluar ketika pengisapan	Pastikan filter flat-fold (37) terpasang dengan benar. Bersihkan atau ganti filter flat-fold (37).
Penonaktifan otomatis (pengisapan basah) tidak berfungsi.	Bersihkan sensor level pengisian (46) dan ruang di antara sensor level pengisian (46) dengan lap. Selalu periksa level pengisian.
Sinyal peringatan akustik berbunyi.	Daya isap diatur terlalu rendah. Atur pengatur daya isap (11) ke nilai yang lebih tinggi. Pengaturan diameter slang tidak tepat. Atur diameter slang pengisap yang tepat. Slang pengisap (33) tersumbat atau tertekuk. Bersihkan penyumbat dan perbaiki bagian yang tertekuk. Kantong filter fleece penuh Ganti kantong filter fleece (36). Filter flat-fold (37) kotor. Bersihkan filter flat-fold atau ganti bila perlu. Aliran udara yang tidak mencukupi melalui perkakas listrik yang terhubung Jika tersedia: Buka lubang udara pada perkakas listrik atau gunakan adaptori pengisap dengan lubang udara yang sesuai. Malafungsi pada elektronik pemantauan Hubungi pusat layanan pelanggan Bosch resmi.
Sinyal peringatan akustik berbunyi saat pengisapan basah.	Tidak ada prosedur yang perlu dilakukan.
Pembersihan filter otomatis tidak berfungsi.	Pembersihan filter otomatis hanya diaktifkan ketika aliran udara turun di bawah level tertentu. Untuk memeriksa fungsi atau membersihkan filter secara manual, alihkan ke mode manual dengan menekan tombol pembersihan filter manual (9).
Pembersihan filter manual tidak dapat diaktifkan.	Perlindungan panas berlebih pada alat pengisap diaktifkan.

Masalah	Solusi
Pembersihan filter otomatis tidak diaktifkan.	Menekan tombol pembersihan filter manual ( <b>9</b> ) secara terus-menerus sebanyak 10 kali akan mengaktifkan perlindungan panas berlebih. Perlindungan panas berlebih secara otomatis dibatalkan setelah 20 s.
	Menekan tombol pembersihan filter manual ( <b>9</b> ) secara terus-menerus sebanyak 30 kali akan mengaktifkan perlindungan panas berlebih. Perlindungan panas berlebih secara otomatis dibatalkan setelah 4 min.
	Jika gangguan masih terjadi, hubungi pusat layanan pelanggan <b>Bosch</b> resmi.

### Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

#### Indonesia

PT Robert Bosch Indonesia  
Arkadia Green Park Tower G – 7th floor  
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.88  
Jakarta 12520  
Tel.: (021) 3005 5800  
Fax: (021) 3005 5801  
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com  
[www.bosch-pt.co.id](http://www.bosch-pt.co.id)

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Cara membuang

Alat pengisap, aksesoris, dan kemasan harus didaur ulang secara ramah lingkungan.



Jangan membuang alat pengisap bersama dengan sampah rumah tangga!

## Tiếng Việt

### Hướng dẫn an toàn của máy hút bụi

**Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

**Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.**

► **Máy hút bụi này không thiết kế dành cho đối tượng sử dụng là trẻ em và người bị hạn chế về thể chất, khả năng giác quan kém hoặc tâm thần hoặc thiểu kinh nghiệm và thiếu hiểu biết.** Nếu không sẽ có nguy cơ sai sót khi vận hành và gây thương tích.

► **Hãy giám sát trẻ em.** Để đảm bảo rằng, trẻ em không chơi với máy hút này.

► **Hãy tuân thủ tất cả quy định an toàn cho chất hút.**

**⚠ CẢNH BÁO** Không được hút các vật liệu có chứa amiăng. Amiăng được coi là chất gây ung thư.

**⚠ CẢNH BÁO** Chỉ sử dụng máy hút bụi, khi bạn đã có đủ thông tin về việc sử dụng máy hút bụi, về chất được hút và về việc xử lý an toàn. Một bản hướng dẫn chi tiết sẽ giúp làm giảm sai sót khi vận hành và tránh bị thương tích.

**CẢNH BÁO** Máy hút bụi chỉ thích hợp để hút các chất khô và cũng phù hợp để hút chất lỏng nhờ các biện pháp phù hợp. Chất lỏng thẩm vào sẽ làm tăng nguy cơ giật điện.

► Không hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ nổ, ví dụ như xăng, dầu, cồn, dung môi. Không hút các bụi nóng, bụi dễ cháy nổ. Không vận hành máy hút bụi trong các không gian dễ nổ. Rác, chất khí, chất lỏng loại có thể gây cháy hay nổ.

**CẢNH BÁO** Chỉ sử dụng ống cắm cho các mục đích được quy định theo hướng dẫn vận hành.

**CẢNH BÁO** Tắt máy hút bụi ngay lập tức, ngay khi bột và nước xuất hiện và hãy xả rỗng bình chứa. Nếu không, máy hút bụi có thể bị hư hại.

► **LƯU Ý!** Máy hút bụi chỉ nên đặt trong nhà. ► **LƯU Ý!** Bạn hãy làm sạch các cảm biến mức nạp đầy của các chất lỏng đều đặn và kiểm tra xem liệu các cảm biến đó có bị hư hại. Nếu không thì có thể làm suy giảm chức năng.

► Nếu việc sử dụng máy hút bụi ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn. Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

► Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng máy hút bụi, dây cáp và phích cắm. Không được sử dụng máy hút bụi nếu bạn phát hiện có hư hỏng. Không tự mở máy hút bụi và chỉ để người có chuyên môn được đào tạo sửa và chỉ dùng các phụ tùng gốc để sửa chữa. Làm hư hại máy hút bụi, cáp và phích cắm làm tăng nguy cơ bị điện giật.

► Không chạy qua hoặc đè bẹp cáp. Không rút ở cáp, để rút dây cáp ra khỏi ống cắm hoặc di chuyển máy hút bụi. Dây dẫn bị hỏng làm tăng nguy cơ bị điện giật.

► Hãy tháo phích cắm ra khỏi ống cắm điện, trước khi bạn bão dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc để xa máy hút bụi. Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

► Tạo cho nơi làm việc được thông thoáng tốt.

► Chỉ để người có chuyên môn được đào tạo dùng các phụ tùng gốc để sửa chữa. Điều này bảo đảm cho sự an toàn của máy hút bụi của bạn được giữ nguyên.

► Nếu máy hút bụi đã được sử dụng ở khu vực có chất độc hại, hãy hút bụi, lau hoặc bít kín bên ngoài máy hút bụi trước khi tháo máy ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả các bộ phận của máy hút bụi đều bẩn và bạn phải thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo các chất độc hại không thể lan rộng.

**CẢNH BÁO** Máy hút bụi có chứa bụi gây hại cho sức khỏe. Chỉ để thợ chuyên môn tiến hành các quá trình xả rỗng và bão dưỡng, bao gồm xử lý bình chứa thu gom bụi. Cần có một thiết bị bảo hộ tương ứng.

Không vận hành máy hút bụi mà không có hệ thống lọc đầy đủ và được lắp cần thận. Nếu không bạn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.

► Trước khi vận hành, hãy kiểm tra tình trạng không lỗi của ống hút. Khi đó, hãy cho lắp ống hút ở máy hút bụi, để bụi không vô tình xuất hiện. Nếu không, bạn có thể hít phải bụi.

► Không sử dụng máy hút bụi làm ghế ngồi. Máy hút bụi có thể bị hư hỏng.

► Sử dụng dây điện và ống hút cần thận. Có thể gây nguy hại cho những người khác.

► Không vệ sinh máy hút bụi bằng tia nước trực tiếp. Nước vào nắp trên cùng của máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

► Kết nối máy hút bụi với một ống cắm điện có nối đất thích hợp. Ống cắm điện và dây nối dài phải có chức năng nối đất bảo vệ.

► Không kết nối ống cắm tại máy hút bụi khi hút hầm hoặc trong môi trường ẩm. Nguy cơ chập mạch hoặc điện giật có thể xảy ra do tiếp xúc với nước.

## Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây hàm chứa ý nghĩa cho việc sử dụng máy hút bụi của bạn. Xin vui lòng ghi nhận các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn biết cách sử dụng máy hút bụi tốt và an toàn hơn.

### Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng



**CẢNH BÁO!** Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.



Máy hút bụi loại bụi M theo IEC/EN 60335-2-69 về hút khô từ các loại bụi gây hại cho sức khỏe với giới hạn tiếp xúc là  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



**CẢNH BÁO!** Máy hút bụi có chứa bụi gây hại cho sức khỏe. Chỉ để thợ chuyên môn tiến hành các quá trình xả rỗng và bão dưỡng, bao gồm xử lý bình chứa thu gom bụi. Cần có một thiết bị bảo hộ tương ứng.

Không vận hành máy hút bụi mà không có hệ thống lọc đầy đủ và được lắp cần thận. Nếu không

**Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng**

bạn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.




Chỉ gắn vào tối đa một L-BOXX.  
Sức chứa của L-BOXX không được phép vượt quá 15 kg.



**Không treo máy hút bụi trên móc cần cẩu, ví dụ như khi vận chuyển.** Máy hút bụi này không thích hợp cho vận chuyển bằng cần cẩu. Việc này bao gồm các nguy hiểm gây thương tích và tổn hại.



**Không sử dụng máy hút bụi làm ghế ngồi, thang hoặc đạp chân.** Máy hút bụi có thể bị đổ và bị hư hại. Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.

**A**

Hiển thị LED chế độ làm sạch bộ lọc tự động

**M**

Hiển thị LED chế độ làm sạch bộ lọc thủ công

**28 22**

Hiển thị LED Đường kính ống hút mềm



Nút Làm sạch bộ lọc tự động



Nút Làm sạch bộ lọc thủ công



Nút Đường kính ống hút mềm (Dòng thể tích)



**Tự động khởi động-/ngừng**  
Hút sạch các loại bụi phát sinh từ các dụng cụ điện;  
Máy hút bụi tự động khởi động và tri hoãn kết thúc.  
Ô cắm tại máy hút bụi luôn có điện áp.

**Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng****Tắt**

Ô cắm tại máy hút bụi không có điện.

**Hút**

Hút sạch các loại bụi bám lâu ngày và bụi từ hệ thống hút.  
Ô cắm tại máy hút bụi luôn có điện áp.

**Tối thiểu/tối đa**

Điều chỉnh liên tục lực hút:

- công suất hút tối đa để sử dụng cho những đám bụi lớn
- công suất hút giảm để sử dụng cho những đám bụi nhỏ và để điều chỉnh lực hút giữa dụng cụ điện đã kết nối và bề mặt phôi gia công (ví dụ như khi mài)



Ghi dữ liệu được kích hoạt trong máy hút bụi này.



Chỉ số công suất tối đa cho phép của dụng cụ điện đã kết nối (tiêu chuẩn quốc gia)

## Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

### Sử dụng đúng cách

Máy hút bụi này được dùng để thu gom, hút, hỗ trợ, loại bỏ các loại bụi khô và các chất lỏng không bắt lửa. Máy hút bụi được kiểm tra kỹ thuật và đáp ứng cho bụi loại M. Máy hút bụi này thích hợp với nhu cầu sử dụng công nghiệp ngày một tăng, ví dụ như dùng trong các nghề thủ công, công nghiệp và các công xưởng.

Máy hút bụi loại bụi M theo IEC/EN 60335-2-69 chỉ được phép dùng để hút và loại bỏ các loại bụi có hại cho sức khỏe với giới hạn tiếp xúc là  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .

Chỉ sử dụng máy hút bụi khi bạn đã hiểu rõ và có thể sử dụng mọi chức năng một cách thông suốt, hay được hướng dẫn sử dụng đúng cách.

### Các bộ phận được minh họa

Việc đánh số các đặc điểm của sản phẩm để tham khảo hình minh họa của máy hút bụi trên trang hình ảnh.

- (1) Khoang chứa  
 (2) Công tắc chính  
 (3) Hốc cắm ống  
 (4) Ố cắm cho dụng cụ điện  
 (5) Hiển thị LED A chế độ làm sạch bộ lọc tự động  
 (6) Hiển thị LED M chế độ làm sạch bộ lọc thủ công  
 (7) Hiển thị LED 22/28 Đường kính ống hút mềm  
 (8) Nút Đường kính ống hút mềm (Dòng thể tích)  
 (9) Nút Làm sạch bộ lọc thủ công  
 (10) Nút Làm sạch bộ lọc tự động  
 (11) Bộ điều chỉnh công suất hút  
 (12) Tay Xách  
 (13) Khung L-BOXX  
 (14) Nút nhấn khung dẫn hướng  
 (15) Khung dẫn hướng có thể mở rộng  
 (16) Thân nắp máy hút  
 (17) Dải rút  
 (18) Lõi gắn  
 (19) Chốt cài máy hút  
 (20) Bánh công tác  
 (21) Bánh xe nhỏ  
 (22) Hăm bánh xe nhỏ  
 (23) Nút bít ống hút
- (24) Giá đỡ cáp  
 (25) Vùng tay nắm phía sau  
 (26) Giá đỡ vòi phun đất  
 (27) Vòi phun đất  
 (28) Vòi bàn chải kết hợp  
 (29) Cùt nối ống hút kết hợp (cho dụng cụ điện)  
 (30) Lớp phủ của bộ lọc sơ bộ  
 (31) Nút mở khóa bộ lọc sơ bộ  
 (32) Ống hút cứng  
 (33) Vòi ống hút  
 (34) Vòi ống cong  
 (35) Giá đỡ túi bộ lọc nỉ  
 (36) Túi bộ lọc nỉ  
 (37) Bộ lọc gấp nếp phẳng  
 (38) Nút bấm vòi ống hút  
 (39) Đầu nối PowerTool (phần trước)  
 (40) Đầu nối PowerTool (phần sau)  
 (41) Nút mở khóa vòi bàn chải kết hợp  
 (42) Ray dẫn hướng cho khung dẫn hướng có thể mở rộng  
 (43) Nắp bộ lọc gấp nếp phẳng  
 (44) Lẫy đóng cửa nắp bộ lọc  
 (45) Bộ lọc trước  
 (46) Cảm biến mức nạp  
 (47) Phao đo  
 (48) Khóa phao đo  
 (49) Nam châm

## Thông số kỹ thuật

Máy hút bụi khô/ướt		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
Mã số máy 3 601 JMO ...		... 120/... 1F0 ... 180/... 1E0/... 1N0 ... 1K0 ... 1L0/... 170 ... 1H0 ... 130	... 1D0/... 1G0 ... 1C0 ... 160
Công suất vào danh định	W	1200	1200
Chu kỳ	Hz	50–60	60
Dung tích khoang chứa (tổng thể)	l	40	40
Thể tích thực (khô)	l	28	26
Thể tích thực (Chất lỏng)	l	20	18
Thể tích túi bộ lọc nỉ	l	19	19
Chân Không <sup>A)</sup>			
– Máy hút bụi	hPa	220	180
– Tua bin	hPa	230	200
Lưu lượng <sup>A)</sup>			
– Máy hút bụi	l/s	28	26

Máy hút bụi khô/ướt		GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA
– Tua bin	m <sup>3</sup> /h	100,8	93,6
– Tua bin	l/s	71,5	70
– Mức bụi	m <sup>3</sup> /h	257	252
Trọng lượng <sup>B)</sup>	kg	14,1	14,5
Cấp độ bảo vệ		⊕/I	⊕/I
Mức độ bảo vệ		IPX4	IPX4

A) được đo với một cái ống hút Ø 28 mm và dài 4 m

B) Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn

Các thông số được áp dụng cho điện áp định mức đã chỉ định. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

### Ổ cắm trên máy hút bụi

#### Công suất nối cho phép của dụng cụ điện đã kết nối

3 601 JMO ...	Điện thế danh định	Công suất tối đa	Công suất tối thiểu
... 120/... 1F0	230 V	2100 W	100 W
... 180/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1K0	220–230 V	2100 W	100 W
... 1L0/... 170	220–240 V	1660 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 130	230 V	1100 W	100 W
... 1D0/... 1G0	127 V	705 W	100 W
... 1C0	115 V	525 W	100 W
... 160	110 V	560 W	100 W

Chỉ số công suất nối cho phép của dụng cụ điện đã kết nối.

Đối với các model của từng quốc gia cụ thể, các giá trị này có thể sai lệch. Vui lòng chú ý các thông số trên ổ cắm của máy hút bụi.

### Sự lắp vào

- Hãy tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, trước khi bạn bão dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc để xa máy hút bụi. Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

### Lắp phụ kiện hút (xem Hình A)

Vòi ống hút (33) được trang bị Clip System, mà có thể được kết nối với phụ kiện hút (Cút nối ống hút kết hợp (29), vòi ống cong (34), vòi bàn chải kết hợp). (28)

#### Lắp vòi ống cong

- Cắm vòi ống cong (34) vào ống hút mềm (33) cho đến khi cả hai nút bấm (38) của ống hút mềm được gài vào phát ra tiếng.
- Để tháo ra, ấn các nút bấm (38) vào trong và kéo các bộ phận ra.

#### Lắp vòi hút sàn và ống

- Nếu cần, hãy cắm ống hút (32) chắc chắn vào nhau và sau đó cắm lên vòi cong (34).
- Cắm vòi hút sàn (27) lên ống hút (32) hoặc vòi cong (34).

#### Lắp cút nối ống hút kết hợp

Cút nối ống hút kết hợp (29) gồm đầu nối PowerTool (phân trước) (39) và đầu nối PowerTool (phân sau) (40).

Cút nối ống hút kết hợp (29) tương thích với dụng cụ điện Bosch.

Đầu nối PowerTool (phân sau) (40) có thể được sử dụng bằng đường kính trong 38,5 mm và đường kính ngoài 45 mm cho dụng cụ điện của các nhà sản xuất khác.

Cắm đầu nối PowerTool (phân trước) (39) lên đầu nối PowerTool (phân sau) (40) và kết nối hai đầu nối bằng cách xoay ngược (xem hình B).

Cắm cút nối ống hút kết hợp (29) vào ống hút mềm (33) cho đến khi cả hai nút bấm (38) của ống hút mềm được gài vào phát ra tiếng.

Để tháo ra, ấn các nút bấm (38) vào trong và kéo cút nối ống hút kết hợp khỏi ống hút.

Để ngắt kết nối cả hai đầu nối, hãy nới lỏng kết nối bằng cách xoay ngược và kéo các đầu nối ra xa nhau.

#### Lắp vòi bàn chải kết hợp

Cắm vòi bàn chải kết hợp (28) vào ống hút mềm (33) cho đến khi cả hai nút bấm (38) của ống hút mềm được gài vào phát ra tiếng.

Để tháo ra, ấn các nút bấm (38) vào trong và kéo các bộ phận ra.

#### Điều chỉnh vòi bàn chải kết hợp (xem hình C)

Bạn sẽ có thể sử dụng vòi bàn chải kết hợp (28) làm vòi phun nối hoặc bàn chải.

Ấn vào nút mở khóa (41) và đẩy bàn chải về trước, để sử dụng vòi bàn chải kết hợp (28) làm bàn chải.

Ấn vào nút mở khóa (41) và kéo bàn chải về sau, để sử dụng vòi bàn chải kết hợp (28) làm vòi phun nối.

#### Lắp ống hút (xem Hình D)

Kéo nút bít (23) ra khỏi hốc cắm ống (3).

Đặt ống hút mềm (33) lên hốc cắm ống (3) và xoay theo chiều kim đồng hồ đến khi dừng lại.

► **Luôn đóng kín đầu nối hút bằng nút bít nếu bạn tháo ống hút mềm.** Điều này sẽ giúp bụi không rò rỉ.

**Hướng dẫn:** Khi hút, xuất hiện hiện tượng tĩnh điện trong ống mềm và các phụ kiện do sự ma sát của bụi mà người sử dụng có thể cảm nhận được sự phóng tích điện (phụ thuộc vào tác động của môi trường và độ nhạy cảm của cơ thể).

Nói chung Bosch khuyên dùng một loại ống mềm (phụ kiện) chống tĩnh điện khi hút bụi mịn và các loại vật liệu khô.

#### Gắn ống hút trên máy hút bụi (xem hình E)

Quấn ống hút mềm đã lắp ráp (33) vào ngăn chứa ống hút mềm. Kéo cả hai dây kéo (17) lên trên và móc vào các lỗ gắn (18).

#### Thay túi lọc nỉ (Hút bụi khô)

Để hút khô các chất theo mức bụi M bạn phải lắp túi bộ lọc nỉ (36) vào.

Nếu các chất không có hoặc có giá trị giới hạn phơi nhiễm  $\geq 1 \text{ mg/m}^3$  (tương ứng với mức bụi L) đang được hút, chúng có thể được hút trực tiếp vào khoang chứa.

**Lưu ý:** Tắt làm sạch bộ lọc tự động khi sử dụng túi bộ lọc nỉ (xem „Làm sạch bộ lọc tự động/thú công (xem hình L)“, Trang 107).

**CẢNH BÁO** Máy hút bụi có chứa bụi gây hại cho sức khỏe. Chỉ để thợ chuyên môn tiến hành các quá trình xả rỗng và bảo dưỡng, bao gồm xử lý bình chứa thu gom bụi. Cần có một thiết bị bảo hộ tương ứng.

**Không vận hành máy hút bụi mà không có hệ thống lọc đầy đủ và được lắp cần thận.** Nếu không bạn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.

#### Lắp vào/tháo túi bộ lọc nỉ (xem Hình F-G)

Mở các khóa (19) và tháo nắp trên cùng của máy hút bụi (16).

Để lắp, hãy cắm túi bộ lọc nỉ (36) lên giá đỡ túi bộ lọc nỉ (35) và đặt túi bộ lọc nỉ (36) với giá đỡ túi bộ lọc nỉ (35) vào khoang chứa (1).

Để tháo, hãy đóng lỗ hổ của túi bộ lọc nỉ đầy bằng cách kéo nắp dậy. Kéo túi bộ lọc nỉ đóng kín (36) ra khỏi giá đỡ túi bộ lọc nỉ (35) và lấy nó ra khỏi máy hút bụi.

Đặt nắp trên cùng của máy hút bụi (16) lại và bằng cách đóng nắp dậy (19) hãy kết nối khoang chứa (1) với nắp trên cùng (16).

#### Gắn L-Boxx (xem hình H)

Để vận chuyển máy hút bụi và cất gọn các phụ kiện máy hút bụi và/hoặc dụng cụ điện, bạn có thể gắn L-Boxx ở nắp trên cùng của máy hút bụi.

Gắn ống hút trên máy hút bụi (xem hình E).

Gắn L-Boxx vào khung (13).

► **Không hút bằng L-Boxx được kẹp.** Trọng tâm của máy hút bụi dịch chuyển lên trên. Máy hút bụi có thể bị đổ. Việc này bao gồm các nguy hiểm gây thương tích và tổn hại.

► **Không mang máy hút bụi bằng tay cầm của L-Boxx khi nó được kẹp vào.** Máy hút bụi quá nặng so với tay cầm của L-Boxx. Việc này bao gồm các nguy hiểm gây thương tích và tổn hại.

#### Lắp khung dẫn hướng có thể mở rộng (xem hình I-J)

**Lưu ý:** Không tháo rời khung dẫn hướng có thể mở rộng. Chú ý căn chỉnh chính xác khung dẫn hướng khi lắp ráp.

Căn chỉnh khung dẫn hướng (15) trước khi lắp dựa vào đánh dấu R (bên phải) và L (bên trái).

Lắp khung dẫn hướng (15) vào ray dẫn hướng (42).

Ấn khung dẫn hướng xuống dưới (15) đến vạch dừng cho đến khi khung dẫn hướng có tiếng khớp vào.

Nhấn nút bấm (14), để thay đổi chiều dài của khung dẫn hướng (15).

#### Vận Hành

► **Hãy tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, trước khi bạn bão dường hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc để xa máy hút bụi.** Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

## Bắt Đầu Vận Hành

- **Tuân thủ theo đúng điện thế!** Điện thế của nguồn điện cung cấp phải tương ứng với số liệu ghi trên nhãn loại máy của máy hút bụi.
- **Bạn hãy thông tin về các qui định/luat hiện hành liên quan đến bụi gây hại đến sức khỏe tại đất nước của bạn.**

Máy hút bụi được dùng để hút và loại bỏ những chất sau đây:

- Các loại bụi có giới hạn tiếp xúc  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  Thông thường, máy hút bụi có thể không nên sử dụng trong phòng, nơi có sẵn nguy cơ gây nổ. Để đảm bảo công suất hút bụi tối ưu, bạn phải luôn đuổi thẳng ống hút mềm (33) hoàn toàn phía trước nắp trên cùng của máy hút bụi (16).

### Điều chỉnh lực hút

Bằng bộ điều chỉnh công suất hút (11) bạn có thể điều chỉnh liên tục lực hút.

Cài đặt bộ điều chỉnh công suất hút (11) để sử dụng cho những đám bụi lớn về mức công suất hút tối đa.

Cài đặt bộ điều chỉnh công suất hút (11) để sử dụng cho những đám bụi nhỏ và để điều chỉnh lực hút giữa dụng cụ điện đã kết nối và bề mặt phôi gia công (ví dụ như khi mài) về vị trí của công suất hút thấp.

### Theo dõi dòng thể tích

Máy hút bụi được trang bị chế độ giám sát lưu lượng thể tích. Chế độ giám sát lưu lượng thể tích được thiết lập ở giá trị Hút 20 m/s.

Nếu giá trị này bị vượt quá, ví dụ như bụi bẩn dồn lại trong ống hút mềm, túi lọc nỉ đầy hoặc bộ lọc gấp nếp phẳng bị tắc, hiển thị LED (7) 22 hoặc 28 nhấp nháy và âm cảnh báo sẽ vang lên. Trong trường hợp này hãy tắt máy hút bụi và kiểm tra trong đoạn „Khắc phục trực tiếp“ xem nó được miêu tả như thế nào.

**Lưu ý:** Khi làm việc với dụng cụ điện, nguồn cấp khí của vào ống mềm nhỏ (ví dụ như máy cưa, máy mài v.v.), tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh có thể phát ra. Để tránh thông báo cảnh báo, chúng tôi khuyến nghị sử dụng thêm một cút nối ống hút phù hợp có miếng thoát khí từ chương trình phu kiện.

### Cài đặt đường kính ống mềm

Đường kính ống mềm	Giá trị thiết lập của lưu lượng thể tích
--------------------	--

22 mm	28 m <sup>3</sup> /h
28 mm	45 m <sup>3</sup> /h

Để điều chỉnh lực hút, chọn đường kính ống mềm đã sử dụng.



Hãy nhấn nút Đường kính ống hút mềm (8). Hiển thị LED (7) 22 hoặc 28 sáng lên.

### Ố cắm trên máy hút bụi

- **Hãy lưu ý công suất kết nối cho phép của ố cắm trên máy hút bụi. Vượt quá công suất kết nối tối đa cho phép có thể dẫn đến máy hút bụi bị quá tải. Khóa bảo vệ động cơ được kích hoạt.** Hãy gửi máy hút bụi đến trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền của Bosch.

Ngay khi phích cắm điện của máy hút bụi được cắm vào ố cắm và công tắc chính ở vị trí 1, ố cắm cho dụng cụ điện (4) có điện áp. Nó có thể được sử dụng làm đầu nối điện bên ngoài trên máy hút bụi, ví dụ khi làm việc với hệ thống hút. Trong vị trí 1+, hệ thống khởi động/dừng tự động của máy hút bụi được kích hoạt. Máy hút bụi có thể được bật từ xa bằng dụng cụ điện được kết nối.

### Hút bụi khô

#### Hút sạch các loại bụi bám lâu ngày

Để **bật** máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 1.



Để **tắt** máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 0.



#### Hút sạch các loại bụi phát sinh từ các dụng cụ điện (xem hình K)

- **Phải có sẵn hệ số thông gió đầy đủ trong phòng, khi khí phát thải trở lại phòng. Chú ý các quy định quốc gia tương ứng.**

Trong máy hút bụi, công tắc của dụng cụ điện (4) được tích hợp. Bạn có thể kết nối dụng cụ điện ngoài với ố cắm này. Chú ý công suất kết nối tối đa hợp lệ của dụng cụ điện được kết nối.

Lắp cút nối ống hút kết hợp (29) (xem hình B).

Cắm cút nối ống hút kết hợp (29) vào miệng hút của dụng cụ điện.

**1+** Để **bật** hệ thống khởi động/dừng tự động của máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 1+.

Bật dụng cụ điện đã kết nối với ố cắm để chế độ **Đưa vào vận hành hoạt của máy hút bụi** (4). Máy hút bụi bắt đầu tự động.

Tắt dụng cụ điện, để **kết thúc việc hút bụi**.

Chức năng chạy tiếp của chế độ tự động khởi động/dừng chạy cho đến 15 s để xả hết bụi bám còn lại ra khỏi ống mềm hút.

**0** Để **tắt** máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 0.

### Sử dụng hệ thống hút (Phụ kiện)



1

Kết nối hệ thống hút với ống mềm hút (33).

**Để hút bụi bằng hệ thống hút** hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 1.

Giữ hệ thống hút ở tường và bật dụng cụ điện. Do áp suất âm xuất hiện, hệ thống hút sẽ tự bám chặt. Tắt dụng cụ điện và cẩn thận tháo hệ thống hút ra khỏi tường.



**Để tắt máy hút bụi**, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 0.

### Hút Vật Âm Ướt

- Không hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ nổ, ví dụ như xăng, dầu, cồn, dung môi. Không hút các bụi nóng, bụi dễ cháy nổ. Không vận hành máy hút bụi trong các không gian dễ nổ. Rác, chất khí, chất lỏng loại có thể gây cháy hay nổ.
- Máy hút bụi không được phép dùng làm máy bơm nước. Máy hút bụi được thiết kế để hút hỗn hợp khí và nước.

**Lưu ý:** Các yêu cầu về hệ số truyền (Loại bụi M) chỉ được áp dụng cho hút khô.

### Trước khi hút ướt

Làm rỗng khoang chứa (1) và tháo túi bộ lọc nỉ (36).

Kiểm tra độ bẩn của cảm biến mức nạp (46). Chỉ có cảm biến mức nạp sạch mới cho phép tắt tự động máy hút bụi khi khoang chứa đầy (xem „Làm sạch cảm biến mức nạp (xem hình P–Q)“, Trang 108).

- **Chức năng làm sạch bộ lọc tự động phải được hủy kích hoạt trong quá trình hút ướt.**

Hãy nhấn nút làm sạch bộ lọc tự động (10), để kích hoạt làm sạch bộ lọc thủ công (xem „Làm sạch bộ lọc thủ công“, Trang 107). Làm sạch bộ lọc tự động do đó được hủy kích hoạt và hiển thị LED A (5) tắt.

### Hút sạch các chất lỏng

**CẢNH BÁO** **Tắt máy hút bụi ngay lập tức, ngay khi bọt và nước xuất**

**hiện và hãy xả rỗng bình chứa.** Nếu không, máy hút bụi có thể bị hư hại.

**Để bắt máy hút bụi**, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 1.

Máy hút bụi được trang bị cảm biến mức nạp (46). Nếu đạt mức nạp tối đa, máy hút bụi tự động ngắt và cả hai hiển thị LED A (5) và M (6) nhấp nháy đồng thời 1 lần mỗi giây. Chỗng sự khởi động lại được kích hoạt và có thể được hủy kích hoạt bằng cách bật/tắt máy hút bụi 1 lần.

**Lưu ý:** Kiểm tra mức nạp thường xuyên và xả sạch khoang chứa đúng lúc. Nếu tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh phát ra trong quá trình hút ướt thì bạn

không cần thực hiện hành động nào. An toàn khi vận hành máy hút không bị ảnh hưởng.

**Để tắt máy hút bụi**, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 0.

Cầm vào khoang chứa (1) trong vùng tay nắm phía sau (25) và xoay nó về trước để xả cạn chất lỏng.

### Sau khi hút ướt

Sau mỗi lần hút ướt hãy làm sạch cảm biến mức nạp (46) (xem „Làm sạch cảm biến mức nạp (xem hình P–Q)“, Trang 108).

Để tránh hiện tượng mốc sau khi hút bụi ướt:

- Lấy bộ lọc gấp nếp phẳng ra (37) và để nó khô hoàn toàn.
- Tháo nắp trên cùng của máy hút bụi (16), mở lớp phủ của bộ lọc (43) và để cả hai khô hoàn toàn.

### Làm sạch bộ lọc tự động/thủ công (xem hình L)

#### Làm sạch bộ lọc tự động

**Lưu ý:** Làm sạch bộ lọc tự động được đặt theo tiêu chuẩn khi bắt máy hút bụi.

Hiển thị LED A (5) sáng liên tục.

Khi làm sạch bộ lọc tự động, bộ lọc gấp nếp phẳng (37) được làm sạch bằng 2 luồng không khí (tiếng ồn xung). Điều này diễn ra ngay khi cảm biến phát hiện luồng không khí giảm xuống dưới một mức nhất định.

Khi thường xuyên sử dụng chức năng làm sạch bộ lọc, thời gian dừng của bộ lọc tăng thêm.

Để đạt thời gian dừng bộ lọc lý tưởng, chỉ bỏ kích hoạt làm sạch bộ lọc tự động trong một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ khi hút ẩm.

#### Làm sạch bộ lọc thủ công

Hãy nhấn nút làm sạch bộ lọc thủ công (9), để tiến hành làm sạch bộ lọc thủ công. Bộ lọc gấp nếp phẳng (37) được làm sạch bằng 2 luồng không khí. Hiển thị LED M (6) sáng trắng trong 2 s. Nếu hiển thị LED M (6) tắt, có thể kích hoạt luồng không khí tiếp theo. Muốn vậy, hãy nhấn lại nút làm sạch bộ lọc thủ công (9).

**Lưu ý:** Khi làm sạch bộ lọc thủ công, hãy đảm bảo rằng khoảng thời gian giữa mỗi lần nhấn nút là 2–3 s. Nhấn liên tục nút làm sạch bộ lọc thủ công (9) sẽ kích hoạt chức năng chống quá nhiệt của máy hút bụi. Chống quá nhiệt bị hủy bỏ tự động sau vài giây (xem „Loại bỏ trực trặc“, Trang 109).

Để tắt làm sạch bộ lọc thủ công, hãy nhấn nút làm sạch bộ lọc tự động (10).

Bộ lọc gấp nếp phẳng bị bẩn ở bề mặt vẫn hoạt động hiệu quả. Vệ sinh bộ lọc gấp nếp bằng tay bằng cách đập hoặc thổi là không cần thiết và thậm chí còn làm hư hỏng bộ lọc.

## Bảo Dưỡng và Bảo Quản

### Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- ▶ **Hãy tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, trước khi bạn bảo dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc để xa máy hút bụi.** Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.
- ▶ **Để sự hoạt động an toàn và bình thường, luôn luôn giữ máy hút bụi và các khe thông gió được sạch.**

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng **Bosch**, hay một đại lý được **Bosch** ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

- ▶ **Mang khẩu trang khi bảo trì và làm sạch máy hút bụi.**

Thỉnh thoảng lau sạch vỏ của máy hút bụi bằng vải ẩm.

- ▶ **Không vệ sinh máy hút bụi bằng khí nén.** Bộ lọc hoặc các thành phần khác có thể bị hư hỏng.

Ít nhất mỗi năm một lần, máy hút bụi phải được kiểm tra bụi bởi nhà sản xuất hoặc người được đào tạo (ví dụ: kiểm tra bộ lọc xem có bị hỏng không, kiểm tra độ kín ở máy hút bụi và kiểm tra chức năng chính xác ở các thiết bị điều khiển).

#### Làm sạch và bảo trì sau khi hút các chất có hại cho sức khỏe

- Hãy coi tất cả các bộ phận có thể đã tiếp xúc với chất độc hại đều bị nhiễm bẩn.
- Hút bụi, lau kỹ hoặc bịt kín bên ngoài máy hút bụi trước khi tháo nó ra khỏi khu vực có chất gây nguy hiểm cho sức khỏe.
- Chỉ làm sạch, tháo dỡ và bảo trì máy hút bụi, nếu không có nguy hiểm cho bạn và người khác. Mang thiết bị bảo vệ cá nhân khi bảo trì và làm sạch. Hãy tiến hành các công việc trong phòng được thông khí tốt.
- Trước hết, hãy làm sạch mặt ngoài của máy hút bụi, trước khi tháo ra.
- Thải bỏ tất cả bộ phận của máy hút bụi không thể làm sạch kỹ trong túi không thấm nước. Vui lòng tuân thủ các quy định hiện hành về việc xử lý chất thải đó.
- Sau khi hoàn thành công việc, hãy làm việc khu vực bảo trì.

#### Vệ sinh khoang chứa

Thỉnh thoảng, lau sạch khoang chứa (1) bằng chất tẩy không mài mòn thông thường và dễ khô.

#### Làm sạch/thay bộ lọc gấp nếp phẳng (xem Hình M-N)

- ▶ **Khi mở nắp bộ lọc, hãy nắm lấy mấu khóa và đấm bao ráng nắp bộ lọc đã mở khớp vào vị trí thẳng đứng.** Nếu nắp bộ lọc rơi xuống, nó sẽ gây nguy cơ thương tích.

Công suất hút phu thuộc vào tình trạng bộ lọc. Do đó, bạn hãy làm sạch bộ lọc thường xuyên.

Thay bộ lọc gấp nếp phẳng bị hỏng (37) ngay lập tức.

- Trước mỗi lần làm sạch/thay bộ lọc gấp nếp phẳng (37) hãy tháo ống hút mềm (33) và đặt nút bít (23) vào hốc cắm ống (3).
- Kéo tai nắp đóng (44) và xoay lớp phủ của bộ lọc (43) lên trên cho đến khi nó khớp vào vị trí thẳng đứng.
- Cắm vào bộ lọc gấp nếp phẳng (37) tại các thanh móng và kéo ra hướng lên trên.
- Loai bỏ bụi bẩn xuất hiện khi tháo bộ lọc gấp nếp phẳng (37) khỏi mép khoang chứa (1) bằng vải ẩm.
- Bộ lọc gấp nếp phẳng có thể được rửa dưới nước chảy.
- Sử dụng bộ lọc gấp nếp mới hoặc sạch (37) và chú ý vị trí đặt an toàn và chính xác.
- Đóng nắp bộ lọc (43) cho đến khi nghe thấy tiếng khớp vào.

#### Làm sạch bộ sơ bộ (xem hình O)

- ▶ **Không được làm sạch ướt bộ lọc sơ bộ.**
- ▶ **Không với tay từ phía trên vào giữa khung dẫn hướng và máy hút bụi để mở khóa nắp bộ lọc sơ bộ.** Nếu không bạn có thể bị kẹt tay.

Kéo khung dẫn hướng (15) lên trên đến khi nắp bộ lọc sơ bộ có thể tiếp cận dễ dàng từ phía sau.

Nhấn nút mở khóa (31) của nắp bộ lọc sơ bộ (30) và lấy ra khỏi ngăn bộ lọc sơ bộ.

Hãy tháo bộ lọc sơ bộ (45) ra.

Hãy chải sạch các bản móng của bộ lọc sơ bộ bằng bàn chải mềm.

Hãy đặt bộ lọc sơ bộ vào nắp bộ lọc sơ bộ (30).

Hãy lắp nắp bộ lọc sơ bộ (30) vào ngăn bộ lọc sơ bộ và gấp vào.

#### Làm sạch cảm biến mức nạp (xem hình P-Q)

Rút phích cắm của máy hút bụi ra khỏi ổ cắm.

Tháo nắp trên của máy hút bụi (16).

Làm rỗng thùng chứa (1).

Di chuyển phao đo (47) hoặc gõ nhẹ để loại bỏ bụi bẩn.

Làm sạch phao đo (47) bằng vải mềm.

Nếu cần, bạn cũng có thể tháo phao đo. Muốn vậy, hãy nhấn vào khóa (48) và lấy phao đo (47) ra.

Làm sạch nam châm (49) bằng bàn chải.

Lắp lại phao đo (47).

#### Cất Giữ và Vận Chuyển

##### Bảo quản

- Xoắn dây điện vào giá đỡ cáp (24).
- Cắm phụ kiện vào các giá đỡ tương ứng.
- Quấn ống hút mềm (33) vào ngăn chứa ống hút mềm. Kéo cả hai dây kéo (17) lên trên và móc vào các lỗ gắn.

- Gắn L-Boxx vào khung (13).
- Tháo túi bộ lọc nỉ ngay khi nó đầy.
- Mang máy hút bụi chỉ bằng tay cầm máy (12).
- Hãy cắm nút bít (23) vào hốc cắm ống (3) để vận chuyển máy hút bụi.
- Đặt máy hút bụi ở nơi khô ráo với nền phẳng và tránh xa phạm vi của người không được cho phép sử dụng.
- Đá xuống hãm bánh xe nhỏ để khóa bánh xe nhỏ (21) (22).

#### Vận chuyển (xem hình R)

- Hãy cắm nút bít (23) vào hốc cắm ống (3) để vận chuyển máy hút bụi.
- Để giúp bạn vận chuyển máy hút bụi dễ dàng và bảo vệ lưng, hãy xả sạch khoang chứa hoặc vứt bỏ túi bộ lọc nỉ đầy.

- Mang máy hút bụi chỉ bằng tay cầm máy (12).
- Mở khóa hãm bánh xe nhỏ (22) để đẩy hoặc kéo máy hút bụi.
- Chỉ sử dụng khung dẫn hướng đã mở rộng (15) để đẩy hoặc kéo máy hút bụi. Không được kéo máy hút bụi qua cầu thang bằng khung dẫn hướng. Muốn vậy, cần sử dụng tay xách.
- Khi mang máy hút bụi lên cầu thang, hãy đảm bảo không có người nào khác ở ngay phía sau bạn để phòng trường hợp máy hút bụi bị rơi bất ngờ.

#### Loại bỏ trực trặc

► Nếu xảy ra sự cố (ví dụ như vỡ bộ lọc), máy hút bụi phải được tắt ngay lập tức. Trước khi khởi động lại, phải loại bỏ lỗi.

Vấn đề	Biện Pháp Sửa Chữa
Tuabin hút chưa khởi động.	Kiểm tra cáp nối điện nguồn, phích cắm điện nguồn, cầu chì, ổ cắm và cảm biến mức nạp (46). Công tắc chính (2) ở vị trí „Hệ thống khởi động/dừng tự động“. Đặt công tắc chính (2) thành biểu tượng „Hút“ hoặc cắm dụng cụ điện đã kết nối vào ổ cắm (4).
Tuabin hút tắt.	Khi hút ướt, các hiển thị LED A và M nhấp nháy chậm và đồng thời. Làm rỗng thùng chứa (1). Khi hút khô, các hiển thị LED A và M nhấp nháy nhanh và đồng thời: Chống quá tải ổ cắm tại máy hút bụi được kích hoạt. Tắt dụng cụ điện.
Máy hút bụi tắt.	Máy hút bụi quá tải do vượt quá điện áp tối đa của ổ cắm trên máy hút bụi: Cầu chì bảo vệ động cơ được kích hoạt. Hãy gửi máy hút bụi đến trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền của Bosch.
Tuabin hút chưa khởi động lại sau khi làm rỗng thùng chứa.	Tắt máy hút bụi và chờ 5 s, sau 5 s hãy bật lại. Làm sạch cảm biến mức nạp (46) cũng như khoảng trống của cảm biến mức nạp (46) bằng bàn chải.
Giảm lực hút.	Loại bỏ các chất tắc nghẽn từ vòi hút, ống hút cứng, ống hút mềm (33) hoặc bộ lọc gấp nếp phẳng (37). Thay túi bộ lọc nỉ (36). Gài chính xác nắp bộ lọc (43). Đậy khít nắp trên cùng của máy hút bụi (16) và đóng các khóa (19). Làm sạch hoặc thay bộ lọc gấp nếp phẳng (37).
Phát thải bụi khi hút bụi	Kiểm tra việc lắp đặt bộ lọc gấp nếp phẳng (37) chính xác. Làm sạch hoặc thay bộ lọc gấp nếp phẳng (37).
Chế độ tự động tắt (Hút bụi ẩm) không phản hồi.	Làm sạch cảm biến mức nạp (46) cũng như khoảng trống của cảm biến mức nạp (46) bằng vải. Kiểm tra mức nạp đầy ngay lập tức.
Âm cảnh báo vang lên.	Công suất được thiết lập quá thấp. Cài đặt bộ điều chỉnh công suất hút (11) thành giá trị cao hơn. Đã cài đặt đường kính ống mềm sai. Cài đặt đường kính ống mềm chính xác.

Vấn đề	Biện Pháp Sửa Chữa
	Ống hút mềm (33) bị tắc hoặc gấp khúc.
	Loại bỏ tắc nghẽn hoặc gấp khúc.
Túi bộ lọc nỉ đầy	Thay túi bộ lọc nỉ (36).
	Bộ lọc gấp nếp phẳng (37) bị bẩn.
	Làm sạch bộ lọc gấp nếp phẳng hoặc thay nếu cần.
	không đủ luồng không khí qua dụng cụ điện được kết nối
	Nếu có: Mở lỗ khí xâm nhập của dụng cụ điện hoặc sử dụng cút nối ống hút phù hợp có miệng thoát khí.
	Trục trặc hệ thống điện tử giám sát
	Hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền Bosch.
Tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh phát ra khi hút ướt.	Không cần thực hiện hành động nào.
Chế độ vệ sinh bộ lọc tự động không làm việc.	Làm sạch bộ lọc tự động được kích hoạt, nếu luồng không khí giảm xuống dưới một mức nhất định. Để kiểm tra chức năng hoặc làm sạch bộ lọc thủ công, hãy chuyển sang chế độ thủ công bằng cách nhấn nút làm sạch bộ lọc thủ công (9).
Làm sạch bộ lọc thủ công không được kích hoạt.	Chống quá nhiệt máy hút bụi được kích hoạt. Nhấn liên tục nút làm sạch bộ lọc thủ công (9) 10 lần sẽ kích hoạt chức năng chống quá nhiệt. Chống quá nhiệt bị hủy bỏ tự động sau 20 s. Nhấn liên tục nút làm sạch bộ lọc thủ công (9) 30 lần sẽ kích hoạt chức năng chống quá nhiệt. Chống quá nhiệt bị hủy bỏ tự động sau 4 min. Nếu sự cố vẫn tiếp tục, hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền Bosch.
Làm sạch bộ lọc tự động không được kích hoạt.	Hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền Bosch.

## Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

### Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI  
TP.HCM  
Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel.: (028) 6258 3690  
Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694  
Hotline: 1900 9988 50

Email: [tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com](mailto:tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.vn](http://www.bosch-pt.com.vn)

Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Sự thải bỏ

Máy hút bụi, phụ kiện, bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.



Không được vứt bỏ máy hút bụi vào chung với rác sinh hoạt thông thường!

## عربي

### إرشادات الأمان الخاصة بالشافطة



اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية، وإلى نشوب الحرائق وأ/أو الإصابة بجروح خطيرة. احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

- ◀ **هذه الشافطة غير مناسبة للاستعمال من قبل الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدراءة والمعرفة.** وإن فقد ينشأ خطر من الاستخدام الخاطئ أو وقوع إصابات.

### قم بمراقبة الأطفال. لضمان عدم عبث الأطفال بالشافطة.

- ◀ احرص على مراعاة كافة لوائح الأمان الخاصة بالمواد المراد شفطها.

**تحذير** لا تقم أبداً بشفط المواد الأسبستوس. يعتبر الأسبستوس مسؤياً للسرطان.

**تحذير** لا تستخدم الشافطة إلا عند توافر معلومات كافية عن طريقة استخدامها والمواد التي يمكن شفطها وعن التخلص من هذه المواد بشكل آمن. اتباع الإرشادات بعناية يحد من وقوع أخطاء تشغيل أو إصابات.

**تحذير** الشافطة مناسبة لشفط المواد الجافة، ويمكن، عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة، استخدامها أيضاً في شفط السوائل. يزداد خطر التعرض لصدمة كهربائية في حالة تسرب السوائل.

**تحذير** لا تستخدم الشافطة في شفط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين، الزيت، الكحول، المواد المذيبة. لا تقم بشفط غبار ساخن أو مشتعل أو انفجاري. لا تقم بتشغيل الشافطة في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار. من الممكن أشتعال أو انفجار الغبار، والأبخرة والسوائل.

**تحذير** استخدم المقياس فقط للأغراض المحددة في دليل التشغيل.

- ◀ **تحذير** أوقف الشافطة على الفور في حالة خروج رغوة أو ما، وقم بتقريب الوعاء. وإن فقد تتعرض الشافطة للضرر.
- ◀ انتبه! لا يجوز تخزين الشافطة في الأماكن المغلقة فقط.
- ◀ انتبه! قم بتنظيف مستشعرات مستوى ملء السوائل بشكل منتظم، وتأكد من عدم وجود أضرار بها. وإن فقد يتآثر الأداء الوظيفي سلبياً.
- ◀ إن لم يكن بإمكانك تجنب تشغيل الشافطة في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح الوقاية من التيار المترافق. يقلل استخدام مفتاح الوقاية من التيار المنافق من خطر التعرض للصدمة الكهربائية.
- ◀ احرص قيل كل استخدام على إجراء فحص للشافطة والكابل والقبس. لا تستخدم الشافطة في حالة وجود أضرار بها. لا تفتح الشافطة بنفسك، ولا تقم بإصلاحها إلا لدى فنيين متخصصين مؤهلين، واستخدم قطع الغيار الأصلية فقط. يزداد خطر التعرض للصدمة الكهربائية في حالة وجود أضرار بالشافطة أو الكابل أو القبس.
- ◀ لا تقم بدهس الكابل أو تعرضه للانحراف. لا تسحب الكابل بغرض فصل القابس من المقبس أو تمزيق الشافطة. تزيد الكابلات الكهربائية التالفة من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- ◀ افصل القابس عن المقياس قبل صيانة الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة جانباً. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.
- ◀ قم بتوفير تهوية مناسبة في مكان العمل.
- ◀ احرص على إصلاح الشافطة لدى فنيين متخصصين مؤهلين فقط، واستخدم قطع الغيار الأصلية، حيث يضمن هذا الحفاظ على سلامة الشافطة.
- ◀ في حالة استخدام الشافطة في نطاقات بها مواد خطرة على الصحة، فقم بتنظيف الجزء الخارجي للشافطة بالشفط أو مسحه وإحكامه ضد التسريب قبل إخراج الشافطة من نطاق الفطر. في هذه الحالة تعتبر كافة أجزاء الشافطة ملوثة، حيث يجب أن تضمن عن طريق اتخاذ إجراءات مناسبة، عدم إمكانية انتشار المواد الملوثة.
- ◀ **تحذير** تحتوي الشافطة على غبار يمثل خطورة على الصحة. احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك خلط وعاء تجميع الغبار، من قبل عمال متخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلاتر الكامل الذي تم تركيبه بعناية. وإن فسيكون هناك خطر على صحتك.
- ◀ تأكد قبيل التشغيل أن خرطوم الشفط في حالة سليمة. عند القيام بذلك، اترك خرطوم الشفط مركب على الشافطة، حتى لا يفرج الغبار دون قصد. وإن فقد يتسبب ذلك في استنشاقك للغبار.

## الرموز و معانها

لا تقم بتركيب إلا نظام حمل L-BOXX واحد كحد أقصى.


لا يجوز أن يتخطى وزن نظام الحمل 15 كجم. بالإضافة إلى متواه



قم بتعليق الشافطة على خطاف مرفاع، على سبيل المثال لغرض النقل. الشافطة غير قابلة للرفع. ينشأ خطر وقوع إصابات أو أضرار.



لا تستخدم الشافطة كمقدع للجلوس أو كسلم أو للوقوف عليها. وإنما فقد تقع الشافطة أو تتعرض للضرر. خطر التعرض للإصابة.



A موشر LED للوضع الأوتوماتيكي لتنظيف الفلتر

M موشر LED للوضع اليدوي لتنظيف الفلتر

28/22 22 28 مؤشر LED لقطر خرطوم الشفط

زر وظيفة تنظيف الفلتر  
الأوتوماتيكية

زر التنظيف اليدوي للفلتر



زر قطر خرطوم الشفط (التدفق)  
(المجمي)



**آلية التشغيل/الإيقاف**  
شفط الغبار المتساقط من العدد الكهربائية المشغله.  
تعمل الشافطة أتوأوتوماتيكياً وتتأخر بقدر بسيط عند الإيقاف.  
المقبس الكهربائي بالشافطة يسري به جهد كهربائي باستمرا



**الإيقاف**  
المقبس الكهربائي بالشافطة لا يسري به التيار.



**الشفط**  
شفط الغبار المتساقط والغبار من نظام الشفط.  
المقبس الكهربائي بالشافطة يسري به جهد كهربائي باستمرا



► لا تستخدم الشافطة كمقدع للجلوس. قد يؤدي ذلك إلى تلف الشافطة.

► استخدم كابل الشبكة الكهربائية وخرطوم الشفط بحرص. فقد يتسببا في تعرض الآخرين للخطر.

► لا تقوم بتنظيف الشافطة باستخدام تيار ماء موجه بشكل مباشر. يزداد خطر التعرض للصدمات الكهربائية في حالة تسرب الماء إلى الجزء العلوي من الشافطة.

► قم بتوصيل الشافطة بشبكة كهربائية مؤرضة بشكل سليم. يجب أن يحتوي المقبس الكهربائي وكابل الإطالة على وصلة أرضية سليمة.

► لا تستخدم المقبس الكهربائي بالشافطة عند الشفط الرطب أو في البيارات المبتلة. فقد يتسبب ملامسة الماء في خطر حدوث قفلة كهربائية أو التعرض لصدمة كهربائية.

## الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال الشافطة. يرجى حفظ الرموز و معانها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال الشافطة بطريقة أفضل وأكثر أمانا.


### الرموز و معانها

**تحذير! اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتکاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أو إلى نشوب الحرائق وأو الإصابة بجروح خطيرة.**

الشافطة من فئة الغبار M طبقاً للمواصفة IEC/EN 60335-2-69 مخصصة لـ **شفط الجاف** للغبار المضر بالصحة ذي قيمة تعرض حدية  $\leq 0,1 \text{ مجم}/\text{متر}^3$ .




**تحذير! تضيئي الشافطة على غبار**  
يمثل خطورة على الصحة. احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك خلع وعاء تجميع الغبار، من قبل عمال متخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلاتر الكامل الذي تم تركيبه بعناية. وإلا فسيكون هناك خطرا على صحتك.



**الرموز و معناها****Min/Max**

تحكم في قوة الشفط دون تدريج:  
- أقصى قدرة شفط للتطبيقات التي  
تؤدي إلى تصاعد الغبار بدرجة  
كبيرة  
- قدرة شفط مخفضة للتطبيقات  
التي تؤدي إلى تصاعد الغبار  
بدرجة أقل ولتحكم بقوة الشفط  
بين العدة الكهربائية الموصولة  
وسطح قطعة العمل (عند التخليل  
مثلاً)

تسجيل البيانات مفعول في هذه  
الشافطة.



max.  
2100 W  
min.  
100 W

**وصف المنتج والأداء**

انتبه للصور في الجزء الأمامي لتعليمات التشغيل.

**الاستعمال المخصص**

الشافطة مخصصة لتجميع أنواع الغبار الجافة غير  
القابلة للاشتعال والسوائل غير القابلة للاشتعال  
وشفطها ونقلها وفصلها. تم اختيار الشافطة فنياً  
فيما يتعلق بالغبار وفقاً لفئة الغبار M. وهي مناسبة  
لتلبية المطلبات العالمية في حالة الاستخدام المهني،  
مثلاً في الأعمال الحرافية وألصانعة والورش الفنية.  
لا يجوز استخدام الشافطات من فئة الغبار M طبقاً  
للمواصفة IEC/EN 60335-2-69 إلا في شفط  
وامتصاص الغبار المضر بالصحة ذي قيمة تعرض  
حدية ≤ 0,1 مجم/متر<sup>3</sup>.  
استخدم الشافطة فقط إن كنت على دراية بجميع  
وظائفها بشكل كامل وقدر على تنفيذ هذه  
الوظائف دون تقييد أو إن كنت قد استلمت  
التعليمات الموافقة.

**الأجزاء المصورة**

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلى صور الشافطة على  
صفحات الرسوم التخطيطية.

- (6) مؤشر LED M للوضع اليدوي لتنظيف الفلتر
- (7) مؤشر LED 22/28 لقطر خرطوم الشفط
- (8) زر قطر خرطوم الشفط (التدفق الحجمي)
- (9) زر التنظيف اليدوي للفلتر
- (10) زر وظيفة تنظيف الفلتر الأوتوماتيكية
- (11) مفتاح التحكم في قدرة الشفط
- (12) مقبض حمل
- (13) حاضن نظام الحمل L-BOXX
- (14) الزر الانضغاطي لممسك التوجيه
- (15) ممسك توجيه قابل للإخراج
- (16) الجزء العلوي من الشافطة
- (17) شريط السبب
- (18) فتحة التثبيت
- (19) قفل الجزء العلوي من الشافطة
- (20) عجلة
- (21) عجلة توجيه
- (22) مكبح عجلة التوجيه
- (23) سدادات غلق لوصلة الشفط
- (24) حامل الكابل
- (25) نطاق المسك الخلفي
- (26) حامل فوهة الأرضيات
- (27) فوهة الأرضيات
- (28) فوهة الفرشات كومبي
- (29) مهابي الشفط كومبي (للعدة الكهربائية)
- (30) غطاء الفلتر الأولى
- (31) زر فك إقفال الفلتر الأولى
- (32) ماسورة الشفط
- (33) خرطوم الشفط
- (34) القطعة المنحنية
- (35) حامل كيس الفلتر القماشي
- (36) كيس الفلتر القماشي
- (37) فلتر الطيات المسطح
- (38) زر انضغاطي لخرطوم الشفط
- (39) مهابي PowerTool (الجزء الأمامي)
- (40) مهابي PowerTool (الجزء الخلفي)
- (41) زر فك إقفال فوهة الفرشات كومبي
- (42) قضبان التوجيه لممسك التوجيه القابل للإخراج
- (43) غطاء فلتر الطيات المسطح
- (44) طرف غلق غطاء الفلتر
- (45) الفلتر الأولى
- (46) مستشعر مستوى الماء
- (47) عوامة
- (48) قفل العوامة
- (49) مغناطيس

## البيانات الفنية

GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA	شافطة المواد الجافة/الرطبة
... 1D0/... 1G0	... 120/... 1F0	رقم الصنف ... 3 601 JM0
... 1C0	... 180/... 1E0/... 1N0	
... 160	... 1K0	
	... 1L0/... 170	
	... 1H0	
	... 130	
1200	1200	قدرة الدخل الاسمية
60	60-50	تردد
40	40	سعة الوعاء (الإجمالية)
26	28	السعة الصافية (جافة)
18	20	السعة الصافية (السائل)
19	19	حجم كيس الفلتر القماشى
		ضغط تفريغ <sup>(A)</sup>
180	220	- الشافطة
200	230	- التوربينة
		كمية التدفق <sup>(A)</sup>
26	28	- الشافطة
93,6	100,8	متر <sup>3</sup> /ساعة
70	71,5	- التوربينة
252	257	متر <sup>3</sup> /ساعة
M	M	فئة الغبار
14,5	14,1	الوزن <sup>(B)</sup>
I/⊕	I/⊕	فئة الحماية
IPX4	IPX4	نوع الحماية

(A) يتم القياس في وجود خرطوم الشفط بقطر 28 مم وبطول 4 م

(B) الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على القيم الاسمية المقررة. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المقتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الانترنت [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

### المقبس الكهربائي بالشافطة

الحمل الموصى المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة				
أدنى قدرة	أقصى قدرة	الجهد الاسمي	3 601 JM0 ...	
100 واط	2100 واط	فلط 230		... 120/... 1F0
100 واط	2100 واط	فلط 220		... 180/... 1E0/... 1N0
100 واط	2100 واط	فلط 220-230		... 1K0
100 واط	1660 واط	فلط 220-240		... 1L0/... 170
100 واط	1000 واط	فلط 220		... 1H0
100 واط	1100 واط	فلط 230		... 130
100 واط	705 واط	فلط 127		... 1D0/... 1G0
100 واط	525 واط	فلط 115		... 1C0
100 واط	560 واط	فلط 110		... 160

بيان الحمل الموصى المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة.

قد تختلف الموديلات الأخرى الخاصة ببعض الدول عن هذه القيم. يرجى مراعاة البيانات الموجودة على مقبس شافطة الغبار.

## التركيب

◀ افضل القابس عن المقبس قبل صيانة الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة جانبًا. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

### تركيب توابع الشفط (انظر الصورة A)

خرطوم الشفط (33) مجهز بنظام ثبيت، يمكن عن طريقه توصيل تابع الشفط (مهائي شفط كومبي (29) القطعة المنحنية (34)، فوهة الفرشات كومبي (28)).

### تركيب القطعة المنحنية

- أدخل القطعة المنحنية (34) في خرطوم الشفط (33) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (38) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.

- لفرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (38) للداخل وأخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.

### تركيب فوهة الأرضيات والأنباب

- عند اللزوم أدخل أنابيب الشفط (32) في بعضها البعض بإحكام وثبتهما في القطعة المنحنية (34) بإحكام.

- أدخل فوهة الأرضيات (27) بإحكام في أنابيب الشفط (32) أو القطعة المنحنية (34).

### تركيب مهائين الشفط كومبي

يكون مهائين الشفط كومبي (29) مهائين PowerTool (الجزء الأمامي) (39) مهائين PowerTool (الجزء الخلفي) (40).

مهائين الشفط كومبي (29) متافق مع عدد بوش الكهربائية.

يمكن استخدام مهائين PowerTool (الجزء الخلفي) (40) بقطر داخلي يبلغ 38,5 مم وقطر خارجي يبلغ 45 مم مع عدد كهربائية ل الجهات صانعة أخرى.

قم بإدخال مهائين PowerTool (الجزء الأمامي) (39) في مهائين PowerTool (الجزء الخلفي) (40) وقم بتوصيل المهائين من خلال إدارتهما في اتجاهين مختلفين (انظر الصورة B).

أدخل مهائين الشفط كومبي (29) في خرطوم الشفط (33)، إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (38) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.

لفرض الفك اضغط على الأزرار الانضغاطية (38) للداخل وأخلع مهائين الشفط كومبي من خرطوم الشفط.

لفصل المهائين فم بفك الاتصال من خلال الإدارة في اتجاهين مختلفين، وقم بخلع المهائين من بعضهما.

### تركيب فوهة الفرشات كومبي

أدخل فوهة الفرشات كومبي (28) في خرطوم الشفط (33)، إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (38) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.

لفرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (38) للداخل وأخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.

## ضبط فوهة الفرشات كومبي (انظر الصورة C)

يمكنك استخدام فوهة الفرشات كومبي (28) كفوهة شفوقى أو فرشاة.

اضغط على زر تحرير الإقفال (41) وحرك الفرشاة إلى الأمام، لاستخدام فوهة الفرشاة كومبي (28) كفرشاة.

اضغط زر التحرير (41) واسحب الفرشاة إلى الخلف، لاستخدام فوهة الفرشات كومبي (28) كفوهة شفوقى.

## تركيب خرطوم الشفط (انظر الصورة D)

اسحب سدادة الغلق (23) من حاضن الخرطوم (3). ضيع خرطوم الشفط (33) على حاضن الخرطوم (3) وأدبه في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية.

### احرص دائمًا على إغلاق وصلة الشفط

باستخدام سادة غلق عند خall خارج خرطوم الشفط. وبذلك يتم منع إمكانية خروج الغبار.

**ملاحظة:** أثناء الشفط ينشأ تتبّعية احتكاك الغبار بخرطوم الشفط وبنهاية الشافطة شفحة كهروم ستياتيكية يمكن أن يمس بها المستخدم في شكل تفريغ إلكترو ستياتيكي (تبعاً للظروف المحيطة ودرجة حرارة جسم المستخدم).

يشكل عام، توصي شركة بوش باستخدام خرطوم شفط المضادة للشتانات الاستاتيكية (التوابع) عند شفط الأتربة الناعمة والخامات الجافة.

### ثبت خرطوم الشفط في الشافطة (انظر الصورة E)

قم بلف خرطوم الشفط المركب (33) حول حامل خرطوم الشافطة. اسحب شريطي الشد (17) إلى أعلى وقم بشبكهما في فتحات التثبيت (18).

## تغيير كيس الفلتر القماشي (الشفط الجاف)

للشفط الجاف للخامات وفقاً لفتحة الغبار M يجب عليك استخدام كيس الفلتر القماشي (36).

طالما يتم شفط خامات ليس لها قيمة تعرض حدة أو بقيمة تعرض حدة  $\leq 1 \text{ مجم}/\text{م}^3$  (وفقاً لفتحة العبار A) يمكن الشفط مباشرة في الوعاء.

**إرشاد:** قم بإيقاف وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر عند استخدام كيس الفلتر القماشي (انظر "وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي/اليدوي للفلتر" (انظر الصورة L)، الصفحة 118).

### تحذير

تحتوي الشافطة على غبار يمثل خطورة على الصحة.

احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك فحص وعاء تجميع الغبار، من قبل عمال متخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلتر الكامل الذي تم تركيبه بعناية. وإلا فسيكون هناك خطر على صحتك.

### تركيب/إخراج كيس الفلتر القماشي (انظر الصور F-G)

افتح الأقفال (19) وأخلع الجزء العلوي للشافطة (16).

لفرض التركيب قم بإدخال كيس الفلتر القماشي (36) في حامل كيس الفلتر القماشي (35)

يسعى باستخدام الشافطة الخوائية لشفط ومص المواد التالية:

- أنواع الغبار ذات قيمة تعرض حدية  $\leq 0,1 \text{ مجم}/\text{م}^3$
- لا يجوز أساساً استخدام الشافطة في المجرات المعرضة لخطر الانفجار.
- لضمان قدرة شفط مثالية يجب دائماً فك خرطوم الشفط (33) بشكل كامل من الجزء العلوي للشافطة (16).

#### التحكم في قوة الشفط

يمكن عن طريق منظم قدرة الشفط (11) التحكم في قوة الشفط دون تدريب.

قم بضبط منظم قدرة الشفط (11) للتطبيقات التي تؤدي إلى تصاعد الغبار بدرجة كبيرة على أقصى قدرة شفط.

اضبط منظم قدرة الشفط (11) للتطبيقات التي تؤدي إلى تصاعد الغبار بدرجة أقل وللتحكم، على سبيل المثال بقوة الشفط بين العدة الكهربائية الموصلة وسطح قطعة العمل (عند التخليل مثلاً) على وضع قدرة الشفط المخفضة.

#### نظام مراقبة حجم التدفق

الشافطة مزودة بنظام لمراقبة حجم التدفق. نظام مراقبة حجم التدفق مضبوط على طريقة التشغيل «شفط» على القيمة  $20 \text{ م}/\text{ث}$ .

في حالة النزول عن هذه القيمة على سبيل المثال بسبب انسداد خرطوم الشفط من جراء الاستخارات أو امتلاء كيس الفلتر القماشي أو انسداد فلتر الطبات المسطحة، يومض أحد مؤشرات 22 (7) أو 28 LED (7) أو 28 وتصدر إشارة تذير صوتية. في هذه الحالة قم بإيقاف الشافطة وافحصها كما هو موضح في الفقرة «إزالة الاختلالات».

**إرشاد:** عند العمل باستخدام عدد كهربائية ذات دفع منخفض للهواء في خرطوم الشفط (مثلاً مناشير الأركان والمجالج وغيرها)، قد تصدر إشارة تذير صوتية. لتجنب البلاغ التذيري يوصي بشكل إضافي باستخدام مهابي شفط مناسب مزود بفوهة الهواء، الزائف من برنامج التوابع.

#### ضبط قطر الخرطوم

قطر الخرطوم	قيمة ضبط حجم التدفق
28 مم	28 مت <sup>3</sup> /ساعة
28 مم	45 مت <sup>3</sup> /ساعة

للتحكم في قوة الشفط اختر قطر الخرطوم المستخدم.

اضغط على زر قطر خرطوم الشفط (8).  
يضيء مؤشر 22 (7) LED أو 28.



#### المقياس الكهربائي بالشافطة

▪ تُراعي قدرة التوصيل المسموحة للمقياس الكهربائي بالشافطة. تخطي قدرة التوصيل القصوى المسموحة قد يؤدي إلى فرط التحميل على الشافطة. ينطلق مصهر حماية المحرك. أرسل الشافطة إلى أحد مراكز خدمة علامة Bosch المعتمدة.

وضع كيس الفلتر القماشى (36) مع حامل كيس الفلتر القماشى (35) في الوعاء (1).

لغرض الإخراج قم بغلق فتحة كيس الفلتر القماشى الممتنئ من خلال السحب من القفل. أخلع كيس الفلتر القماشى المغلق (36) من حامل كيس الفلتر القماشى (35) وأخرجه من الشافطة.

أعد تركيب الجزء العلوي للشافطة (16)، ومن خلال غلق الأقواف (19) قم بربط الوعاء (1) بالجزء العلوي للشافطة (16).

#### تركيب نظام الحمل L-BOXX (انظر الصورة H)

لنقل الشافطة ولتخزين ملحقات الشفط وأو العدة الكهربائية في أصغر مكان ممكن يمكنك تركيب نظام حمل L-BOXX على الجزء العلوي من الشافطة.

تثبيت خرطوم الشفط في الشافطة (انظر الصورة E). قم بتركيب نظام الحمل L-BOXX على المواطن (13).

▪ لا تقم بالشفط بينما يحمل مركب. ينتقل مركز ثقل الشافطة إلى أعلى. يمكن أن تنقلب الشافطة. ينشأ خطر وقوع إصابات أو أضرار.

▪ لا تمسك الشافطة من مقبض نظام الحمل L-BOXX المركب. فالشافطة ثقيلة للغاية بالنسبة لمقبض نظام الحمل L-BOXX. ينشأ خطر وقوع إصابات أو أضرار.

#### تركيب ممسك التوجيه القابل للإخراج (انظر الصور I-J)

إرشاد: لا يمكن فك ممسك التوجيه القابل للإخراج. احرص أثناء التركيب على مراعاة المحاذة الصحيحة لممسك التوجيه.

قم بمحاذاة ممسك التوجيه (15) قبل التركيب بمساعدة العلامة R (يميناً) و L (يساراً).

قم بتركيب ممسك التوجيه (15) في قضبان التوجيه (42).

اضغط ممسك التوجيه (15) إلى أسفل حتى خط المصد، إلى أن يثبت ممسك التوجيه.

اضغط على الزر الانضغاطي (14)، لتغيير طول ممسك التوجيه (15).

#### التشغيل

▪ أفضل القابس عن المقياس قبل صيانة الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة جانبًا. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

#### بدء التشغيل

▪ انتبه إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لوحة صنع الشافطة.

▪ استعلم عن التشريعات/القوانين السارية في بلدك المتعلقة بالتعامل مع الآتية التي تمثل خطورة على الصحة.

لفرض إيقاف الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.



## الشفط الربط

- ◀ لا تستخدم الشافطة في شفط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين، الزيت، الكحول، المواد المذببة. لا تقم بشفط غبار ساخن أو مشتعل أو انفجاري. لا تقم بتشغيل الشافطة في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار. من الممكن أشتعال أو انفجار الغبار، والأبخرة والسوائل.
- ◀ لا يجوز استخدام الشافطة كمضخة ماء. هذه الشافطة مخصصة لشفط خليط من الهواء والماء. ملحوظة: تم التحقق من اشتراطات درجة التفاذ فئة الغبار M (لشفط الجاف فقط).

## قبل الشفط الربط

قم بتفريغ الوعاء (1) وأخرج كيس الفلتر القماشي (36).

افحص مستشعر مستوى الماء (46) من حيث وجود اتساخات. يتبع مستشعر مستوى الماء التنظيف فقط الإيقاف الآوتوماتيكي للشافطة عند الوصول إلى مستوى الماء الكامل للوعاء (انظر „تنظيف مستشعر مستوى الماء“ (انظر الصور P-Q)، الصفحة 119).

### أثناء الشفط الربط يجب أن تكون وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي للفلتر متوقفة.

اضغط على زر التنظيف الآوتوماتيكي للفلتر (10) لتفعيل وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي للفلتر (انظر „التنظيف اليدوي للفلتر“، الصفحة 118). وبذلك يتم إيقاف تفعيل الوظيفة الآوتوماتيكية لتنظيف الفلتر وينطفئ مؤشر (5) LED A.

## شفط السوائل

**⚠ تحذير** أوقف الشافطة على الفور في حالة خروج رغوة أو ماء، وقم بتفريغ الوعاء، ولا فقد تتعرض الشافطة للضرر.

لفرض تشغيل الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 1.

الشافطة مزودة بمستشعرات مستوى الماء (46). في حالة الوصول إلى أقصى مستوى ملء تنتهي الشافطة آوتوماتيكياً ويتمد مؤشر (5) LED A و M (6) في الوقت نفسه مرة واحدة كل ثانية. تكون واقية إعادة التشغيل مفعولة، ويمكن إيقاف تفعيلها من خلال تشغيل/إيقاف الشافطة مرة واحدة.

**إرشاد:** قم بفحص مستوى الماء، بانتظام، وقم بتفريغ الوعاء، في الوقت المناسب. في حالة صدور إشارة تحذير أثناء الشفط الربط، لا يلزم اتخاذ أي إجراء، لن تتأثر السلامة التشغيلية للشافطة.

لفرض إيقاف الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.

أنمسك الوعاء (1) من نطاق المسك الخلفي (25) وحركه إلى الأمام لتفریغ السائل.

يمهد دخال القابس الكهربائي للشافطة في المقبس الكهربائي بينما المفتاح الرئيسي على الوضع 1 يسرى جهد بالمقبس الكهربائي للعدد الكهربائية (4). يمكن استخدامه كوصلة تيار خارجية للشافطة، على سبيل المثال عند العمل باستخدام أنظمة شفط. في الوضع 1+ تكون آلية التشغيل / الإيقاف لشافطة الغبار مفعلاً. يمكن عن طريق العدة الكهربائية الموصولة تشغيل الشافطة عن بعد.

## الشفط الجاف

**شفط الغبار المتراكم**  
لفرض تشغيل الشافطة أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 1.



لفرض إيقاف الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.

شفط الغبار المتتساقط من العدة الكهربائية المشغلة (انظر الصورة K)

◀ يجب أن يكون معدل تغيير الهواء كافياً في الغرفة في حالة رجوع العادم إلى الغرفة. تراعي التعليمات المحلية المعنية.

يوجد بالشافطة مقبس كهربائي مدمج للعدة الكهربائية (4). يمكن توصيل عدة كهربائية خارجية في هذا المقبس الكهربائي. تراعي قدرة التوصيل القصوى المسموحة بالعدة الكهربائية الموصولة.

قم بتركيب مهابي الشفط كومبي (29) (انظر الصورة B).

أدخل مهابي الشفط كومبي (29) في فوهة شفط العدة الكهربائية.



لفرض تشغيل آلية التشغيل/إيقاف الفاصلة بالشافطة أدر المفتاح الرئيسي (2) على الوضع 1+.

لفرض تشغيل الشافطة قم بتشغيل العدة الكهربائية الموصولة بالمقبس (4).

تبدأ الشافطة في العمل آوتوماتيكياً.

قم بإطفاء العدة الكهربائية، لفرض إنهاء الشفط. تستمر وظيفة التشغيل اللاحقة الفاصلة بآلية التشغيل الإيقاف لمدة تصل إلى 15 ث، لشفط بقايا الغبار من خرطوم الشفط.

لفرض إيقاف الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.



## استخدام نظام الشفط (توابع)

قم بتوصيل نظام الشفط بخرطوم الشفط (33).



لشفط الغبار عبر نظام الشفط أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 1.

ثبت نظام الشفط على المدار وقم بتشغيل العدة الكهربائية. يلتصل نظام الشفط تلقائياً من خلال ضغط التفريغ الناشئ.

قم بإيقاف العدة الكهربائية وأبعد نظام الشفط برص عن الجدار.

## بعد الشفط الطر

قم بعد كل تنظيف رطب بتنظيف مستشعر مستوى الملء (انظر الصور P-Q)، الصفحة 119.

لتتجنب حدوث تعفن بعد عمليات الشفط الطر:

- أخرج فلتر الطيات المسطّح (37) واتركه كذلك ليجف جيداً.

- اخلع الجزء العلوي للشافطة (16) وافتح غطاء الفلتر (43) واتركهما حتى يجفوا جيداً.

## وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي/اليدوي للفلتر (انظر الصورة L)

وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر إرشاد: تكون وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر مضبوطة بشكل قياسي عند تشغيل الشافطة.

يُضيء مؤشر (5) بشكل مستمر.

في حالة وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر (37) بواسطة دفعه الهواء (صورة صافية). يتم هذا بمجرد تعرف المستشعر على انخفاض تدفق الهواء عن مستوى معين.

بؤدي الاستعمال المنتظم لوظيفة تنظيف الفلتر إلى زيادة عمره الافتراضي.

للوصول إلى عمر افتراضي مثالي للفلتر لا تقم بإيقاف تفعيل وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر إلا في حالات استثنائية، على سبيل المثال في حالة عمليات الشفط الطر.

## التنظيف اليدوي للفلتر

اضغط على زر وظيفة التنظيف اليدوي للفلتر (9)، إجراء التنظيف اليدوي للفلتر. يتم تنظيف فلتر الطيات المسطّح (37) من خلال دفعه الهواء. يُضيء مؤشر

LED M (6) لمدة ثانيةين باللون الأبيض. عندما ينطفئ مؤشر (6) يمكن إطلاق دفعه الهواء التالية. لهذا اضغط على زر التنظيف اليدوي للفلتر (9) مجدداً.

إرشاد: انتبه إلى أنه في حالة التنظيف اليدوي للفلتر ينبغي أن يكون الفاصل الزمني بين كل ضغط زر 3-2 ث. يتسبب الضغط المستمر عدة مرات على زر

التنظيف اليدوي للفلتر (9) في تعطيل وظيفة المماية من السخونة المفرطة بالشافطة. يتم إلغاء وظيفة المماية من السخونة المفرطة أوتوماتيكياً بعد بعض الوقت (انظر “إصلاح الاختلالات”， الصفحة 119).

إيقاف التنظيف اليدوي للفلتر اضغط على زر وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر (10).

في حالة اتساخ فلتر الطيات المسطّح من الخارج بظل يعمل بكفاءة. لا حاجة للتنظيف اليدوي لفلتر الطيات المسطّح من خلال الطرق أو النفع للتنظيف، بل قد يضر للفلتر.

## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

افصل القابس عن المقبس قبل صيانة الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة

جانباً. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

### حافظ على نظافة الشافطة وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وأمن.

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزائن المعتمد لشركة Bosch للعدد الكهربائي، لتتجنب التعرض للمخاطر.

**احرص على ارتداء قناع الحماية من الغبار أثناء إجراء أعمال الصيانة والتقطيف على الشافطة.** احرص على تنظيف جسم الشافطة من وقت إلى آخر باستخدام قطعة قماش مبللة.

### لا تقم بتنظيف الشافطة باستخدام الهواء المضغوط. فقد يتعرض الفلتر والأجزاء الأخرى لأضرار.

ينبغي إجراء عملية فحص فنية للغبار من قبل الجهة الصانعة أو من قبل شخص مؤهل مرّة واحدة في السنة على الأقل (على سبيل المثال، من حيث وجود أضرار بالفلتر، وإحكام الشافطة ضد التسريب وسلامة عمل تجهيزات التحكم).

### التنظيف والصيانة بعد شفط المواد المضرة بالصحة

- اعتبر جميع الأجزاء، التي ربما تكون قد لامست المواد المضرة بالصحة ملوثة.

- قم بشفط الاتسخات من السطح الفارجي للشافطة أو مسحها أو قم بتغليف السطح الفارجي قبل إخراجه من نطاق المواد المضرة بالصحة.

- لا تقم بتنظيف الشافطة وفكها وصيانتها إلا إذا كان من الممكن القيام بذلك دون تعريض نفسك أو الآخرين للخطر. قم بارتداء معدات الحماية الشخصية أثناء الصيانة والتنظيف. قم بتنفيذ العمل في غرفة جديدة التهوية.

- قم أولاً بتنظيف الشافطة من الخارج قبل تفكيكها. - تخلص من جميع أجزاء الشافطة التي لا يمكن تنظيفها بشكل مرض في أكياس غير منفذة. يرجى مراعاة الأحكام السارية بقصد التخلص من هذه النفايات.

- قم بتنظيف منطقة الصيانة بعد الانتهاء من العمل.

### تنظيف الوعاء

امسح الوعاء (1) من وقت لآخر من الداخل بواسطة مواد تنظيفية متداولة غير صاقلة ودعه يجف.

### تنظيف/تغيير فلتر الطيات المسطّح (M-N)

(انظر الصور M-N)  
**عند الفتح أمسك غطاء الفلتر من طرف الغلق،** واحرص على ثبات غطاء الفلتر المفتوح في **الوضع الرأسي.** في حالة سقوط غطاء الفلتر يكون هناك خطر إصابة.

توقف قدرة الشفط على حالة الفلتر. لذا قم بتنظيف الفلتر بانتظام.

قم باستبدال فلتر الطيات المسطّح التاليف (37) فوراً.

- قبل كل تنظيف/تغيير لفلتر الطيات المسطّح (37) قم بفك خرطوم الشفط (33) وقم بتركيب سدادة الغلق (23) في حاضن الخرطوم (3).

قم بتنظيف المغناطيس (49) باستخدام الفرشاة.  
قم بتركيب العوامة (47) مجدداً.

### التخزين والنقل

- قم بلف كابل الكهرباء حول حامل الكابل (24).
- أدخل التواير في أماكن التثبيت المخصصة.
- قم بلف خرطوم الشفط (33) حول حامل خرطوم الشافطة. اسحب شريطي الشد (17) إلى أعلى وقم بشبكهما في فتحات التثبيت.
- قم بتركيب نظام المحمل L-BOXX على المواضن (13).

- أخرج كيس الفلتر القماشي، بمجرد امتلاكه.  
- لا تحمل الشافطة من مقبض الحمل (12).  
- لغرض نقل الشافطة أدخل سدادة الغلق (23) في حاضن الخرطوم (3).  
- أوقف الشافطة في مكان جاف وقم بتأمينها على أرضية مستوية ضد الاستخدام غير المسموح به.  
- لثبت عجلات التوجيه (21)، اضغط على مكعب عجلة التوجيه (22).

### (انظر الصورة R)

- لغرض نقل الشافطة أدخل سدادة الغلق (23) في حاضن الخرطوم (3).  
- لنقل الشافطة بشكل أخف مع الحفاظ على ظهرك قم بتفريج الوعاء تماماً أو تخلص من كيس الفلتر القماشي الممتلي.  
- لا تحمل الشافطة من مقبض الحمل (12).  
- قم بتمرير قفل مكعب عجلة التوجيه (22) لدفع الشافطة أو سحبها.
- استخدم الممسك القوسى المخرج فقط (15) لدفع الشافطة أو جذبها. لا يجوز جر الشافطة على درجات السلم باستخدام ممسك التوجيه. يجب لهذا الغرض استخدام مقبض الحمل.
- يُراعى عند حمل الشافطة على درجات سلم عدم وجود أشخاص آخرين خلفك مباشرة تحسباً لوقوع شافطة الغبار بشكل غير متوقع.

### إصلاح الاختلالات

- ◀ في حالة حدوث خلل (مثل انقطاع المرشح) يجب إيقاف الشافطة على الفور. يجب إزالة الخلل قبل موافقة التشغيل.

- اجذب من طرف الغلق (44) وحرك غطاء الفلتر (43) إلى أعلى، إلى أن يثبت في الوضع الرأسي.

- أمسك فلتر الطيات المسطح (37) من الحواف وأخرجه من خلال رفعه للأعلى.

- أخرج الأذرعة والأسنادات المغناطية بعد خلع فلتر الطيات المسطح (37) باستخدام قطعة فمامش مبللة من حافة الوعاء (1).

- يمكن غسل فلتر الطيات المسطح بالماء الجاري.

- قم بتركيب فلتر الطيات المسطح بعد تنظيفه أو الجديد (37) وتأكد من ثباته بشكل جيد وصحيح.

-أغلق غطاء الفلتر (43) إلى أن يثبت بصوت مسموع.

### تنظيف الفلتر الأولي (انظر الصورة O)

◀ لا يجوز تبلييل الفلتر الأولي أثناء تنظيفه.

◀ لا تدخل يدك من أعلى بين ممسك التوجيه والشافطة لتحرير قفل غطاء الفلتر الأولي. وقد تتحصر يديك.

اجذب ممسك التوجيه (15) إلى أعلى، إلى أن يصبح الوصول إلى غطاء الفلتر الأولي من الخلف متاحاً.

اضغط على زر فك الإقفال (31) الخاص بـ غطاء الفلتر الأولي (30) وأخرجه من درج الفلتر الأولي.

اخْلِغَ الفلتر الأولي (45). قم بتنظيف شرائح الفلتر الأولي باستخدام فرشاة ناعمة.

ضع الفلتر الأولي في غطاء الفلتر الأولي (30).

قم بتركيب غطاء الفلتر الأولي (30) في درج الفلتر الأولي وقم بطيه.

### تنظيف مستشعر مستوى الماء (P-Q) (انظر الصور P-Q)

اسحب قابس الشبكة الكهربائية الخاص بالشافطة من المقبس الكهربائي.

اخْلِغَ الماء العلوي من الشافطة (16).

قم بتفريج الوعاء (1). حرك العوامة (47) أو قم بطرق عليه برفق لإزالة الأنساخ.

قم بتنظيف العوامة (47) باستخدام قطعة فمامش ناعمة.

عند النزول يمكنك إخراج العوامة. للقيام بذلك اضغط على المفل (48) واتخلع العوامة (47).

### العلاج

### المشكلة

توربين الشفط لا يعمل.

افصل كابل الكهرباء والقابس الكهربائي والمصهر والمقبس ومستشعرات مستوى الماء (46).

يكون المفتاح الرئيسي (2) على وضع «آلية التشغيل/إيقاف».

اضبط المفتاح الرئيسي (2) على الرمز «شفط» أو قم بتشغيل العدة الكهربائية المتصلة بالقابس الكهربائي (4).

في حالة الشفط الرطب توافق مؤشرات A LED و M ببطء وفي الوقت نفسه.

توقف توربينية الشفط.

### قم بتفريج الوعاء (1).

في حالة الشفط الجاف توافق مؤشرات A LED و M بسرعة وفي الوقت نفسه: تكون واقية فرط السخونة للمقبس الكهربائي بالشافطة مفعالة.

أوقف العدة الكهربائية.

المشكلة	العلاج
توقف الشافطة.	تحميل مفرط للشافطة من خلال تخطي الحد الأقصى لجهد المقبس الكهربائي بالشافطة: ينطلق مصهر حماية المكرك.
لا تقم بإعادة تشغيل توربين الشفط بعد إفراج الوعاء.	أرسل الشافطة إلى أحد مراكز خدمة العملاء <b>Bosch</b> المعتمدة.
انخفاض قوة الشفط.	أوقف الشافطة وانتظر لمدة 5 ث، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد 5 ث. قم بتنظيف مستشعرات مستوى الماء (46) بالإضافة للحiz البني لمستشعرات مستوى الماء (46) باستخدام فرشاة.
خروج الغبار أثناء الشفط	قم بإزالة الانسدادات من فوهة الشفط أو أنبوب الشفط أو خرطوم الشفط (33) أو فلتر الطيات المسطح (37).
آلية الإيقاف الآوتوماتيكية لا تستجيب (الشفط الرطب).	قم بتغيير كيس الفلتر القماشي (36).
تصدر إشارة تحذير صوتية.	قم بتنشيط غطاء الفلتر (43) بشكل صحيح.
قدرة الشفط مضبوطة على درجة منخفضة للغاية.	قم بتركيب الجزء العلوي من الشافطة (16) بشكل صحيح وقم بتأمين الأفغال (19).
تصدر إشارة تحذير صوتية.	قم بتنظيف فلتر الطيات المسطح (37) أو تغييره.
آلة عمليات الشفط الرطب	تأكد من التركيب الصحيح لفلتر الطيات المسطح (37).
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	قم بتنظيف فلتر الطيات المسطح (37) أو تغييره.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	قم بتنظيف مستشعرات مستوى الماء (46) بالإضافة للحiz البني لمستشعرات مستوى الماء (46) باستخدام قطعة قماش.
تصدر إشارة تحذير صوتية.	تحكم باستمرار في مستوى الماء.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	قدرة منظم قدرة الشفط (11) على قيمة أعلى.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	اضبط قطر الخرطوم بشكل غير صحيح.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	قم بضبط القطر الصحيح لخرطوم الشفط.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	خرطوم الشفط (33) مسدود أو مثني.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	قم بإزالة الانسداد أو الثنية.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	كيس الفلتر القماشي ممتليء.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	قم بتغيير كيس الفلتر القماشي (36).
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	فلتر الطيات المسطح (37) متنس.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	قم بتنظيف فلتر الطيات المسطح أو تغييره عند اللزوم.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	لا يوجد تيار هواء كاف من خلال العدة الكهربائية الموصولة في حالة وجوده: افتح فوهة الهواء الزائف الخاصة بالعدة الكهربائية أو استخدم مهابي شفط مناسب مزود بفتحة هواء زائف.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	عدم قيام آلة المراقبة بوظيفتها.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	انصل بأحد مراكز خدمة عملاء <b>Bosch</b> المعتمدة.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	لا يلزم اتخاذ أي إجراءات.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	يتم تعطيل وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي للفلتر عند ما ينخفض تدفق الهواء عن مستوى معين. لفحص الوظيفة أو الامتناع إلى التنظيف اليدوي للفلter انتقل إلى الوضع اليدوي من خلال الضغط على زر التنظيف اليدوي للفلter (9).
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي للفلتر لا تعمل.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي للفلتر.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي للفلتر.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي للفلتر.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	وظيفة الحماية من السخونة المفرطة بالشافطة مفعولة.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	تسbib الضغط المستمر لعشر مرات على زر التنظيف اليدوي للفلter (9) في تفعيل وظيفة الحماية من السخونة المفرطة بالشافطة. يتم إلغاء وظيفة الحماية من السخونة المفرطة أوتوماتيكياً بعد 20 ث.
تصدر إشارة تحذير صوتية في حالة عمليات الشفط الرطب.	تسbib الضغط المستمر لثلاثين مرة على زر التنظيف اليدوي للفلter (9) في تفعيل وظيفة الحماية من السخونة المفرطة بالشافطة. يتم إلغاء وظيفة الحماية من السخونة المفرطة أوتوماتيكياً بعد 4 دقائق.

**المشكلة****العلاج**

في حالة استمرار المشكلة اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء **Bosch** المعتمدة.

لا تنطلق وظيفة التنظيف  
الأوتوماتيكي للفلتر.

**خدمة العملاء واستشارات الاستخدام**

يجب مركز خدمة الزبائن على أسئلتكم بصدق تصليح  
وصيانة المنتج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. ستجد  
الرسوم الممدددة والمعلومات عن قطع الغيار

**www.bosch-pt.com**  
يسهل فريق استشارات الاستخدام لدى شركة بوش أن  
يقدم لك العون إذا كان لديك أي استفسارات  
بخصوص منتجاتنا وملحقاتها التكميلية.  
يلزم ذكر رقم الصنف ذو الآ酣ات العشر وفقاً للوحة  
صنع المنتج عند إرسال أي استفسارات أو طلبات  
قطع غيار.

**المغرب**

Robert Bosch Morocco SARL  
53، شارع الملازم محمد محروق  
20300 الدار البيضاء  
الهاتف: +212 5 29 31 43 27  
البريد الإلكتروني: sav.outillage@ma.bosch.com  
تجد عناوين أخرى للخدمات تحت:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**التخلص من العدة الكهربائية**

يجب التخلص من الشافطة الخوائية والتوابع  
والتعليق بطريقة محافظة على البيئة عن طريق  
تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع.  
لا ترم الشافطة في النفايات المنزلية!



## راهنمایی‌های ایمنی برای جاروبرقی



همه دستورات ایمنی و راهنماییها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق‌گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت‌های شدید شود.

همه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

**◆ این مکنده (جاروبرقی) برای استفاده توسط کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی مناسب نیست.** در غیر اینصورت خطر کاربرد اشتباه و جراحت وجود دارد.

**◆ مواطبه کودکان باشید.** اینگونه اطمینان حاصل می‌کنید که کودکان با جاروبرقی بازی نمی‌کنند.

**◆ تمام مقررات ایمنی مربوط به موادی که قرار است جاروبرقی شوند را رعایت کنید.**

**◆ هشدار خودداری کنید.** آزبست سرطان زا می‌باشد.

**◆ هشدار پرید که اطلاعات کافی در مورد نحوه کاربری آن، مواد مورد مکش و دفع مطمئن آنها را دریافت کرد هاید. بکارگیری دقیق راهنماییها، استفاده اشتباه و بروز جراحت را کاهش می‌دهد.**

**◆ هشدار مواد خشک و در صورت تدبیرات متناسب جهت مکش مایعات نیز مناسب است. نفوذ مایعات خطر برق گرفتگی را آفراش می‌دهد.**

**◆ از مکش مایعات دارای قابلیت اشتعال یا انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. از مکش گرد و غبارهای دارای قابلیت اشتعال یا انفجار خودداری کنید. از به کارگیری مکنده در فضاهای دارای خطر انفجار خودداری کنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می‌توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.**

**◆ هشدار از پریز تنها برای موارد تعیین شده در دفترچه راهنمای استفاده کنید.**

**◆ هشدار** به محض خارج شدن گفتاب اب از جاروبرقی، آن را سریع خاموش کنید و محفظه را تخلیه کنید. جاروبرقی ممکن است در غیر اینصورت آسیب بیند.  
▪ **توجه!** جاروبرقی را بایستی تنها در فضاهای داخلی نگهداری کرد.

**◆ توجه!** جگرها و ضعیعت طرفیت مایعات را مرتب تبیز کنید و آنها را از نظر آسیبدیدگی کنترل نمایید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه دچار اختلال می‌گردد.

**◆ در صورت لزوم کار با جاروبرقی در محیط و اماکن مرتبط، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطأ و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطأ و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می‌دهد.**

**◆ قبل از هر بار استفاده، جاروبرقی، کابل و دوشاخه را کنترل کنید. در صورت تشخیص هر گونه آسیب دیدگی، از جاروبرقی استفاده نمکنید. جاروبرقی را سر خود باز نکنید و برای تعمیر دستگاه فقط به متخصصین حرفة ای رجوع و از وسائل یکدیگی اصل استفاده کنید. کابل، دوشاخه و کلید آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را آفراش می‌دهند.**

**◆ کابل را لگدمال یا به نکنید. جهت درآوردن دوشاخه از پریز یا حرکت دادن جاروبرقی از کشیدن کابل خودداری کنید. کابل های آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را آفراش میدهند.**

**◆ قبل از تبیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخه را از پریز بکشید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می‌کند.**

**◆ مراقب باشید که محل کار شما از تهویه کافی برخوردار باشد.**

**◆ برای تعمیر دستگاه فقط به متخصصین حرفة ای رجوع و از وسائل یکدیگی اصل استفاده کنید. اینگونه ایمنی جاروبرقی تصمین می‌شود.**

**◆ اگر جاروبرقی در مناطقی که دارای مواد خطرناک بوده، استفاده شده است، قبل از اینکه جاروبرقی را از آن ناگهی خارج کنید، قسمت بیرونی مکنده را با جاروبرقی بکشید، پاک کنید یا مکم کنید. تمام قسمت های جاروبرقی آلوده محسوس می‌شوند و باید اقدامات لازم را برای اطمینان از عدم انتشار مواد مضر انجام دهید.**

**◆ هشدار** مکنده هاوی گرد و غبار مضر برای سلامتی می‌باشد.

عملیات سرویس و تخلیه و نیز دفع محفظه جمجمه ای گرد و غبار، فقط توسط متخصصین حرفة ای انجام شود. تجهیزات ایمنی مناسب ازایمیست. مکنده را بدون سیستم فیلتر نصب شده کامل و دقیق بکار نبرید. در غیر اینصورت به سلامتی خود صدمه می‌زنید.

**◆ قبل از راهاندازی، از بینقصی شلنگ مکش اطمینان حاصل کنید. در این حالت، شلنگ مکش را روی جاروبرقی نصب شده بگذارید تا**

### علایم و مفهوم آنها

تنهای حد اکثر یک L-BOXX را باز کنید.

وزن L-BOXX به همراه محتویات  
نباید از 15 kg بیشتر شود.




max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg

جاروبرقی را، برای مثال جهت  
حمل و نقل، به قلاب چرخیل  
اویزان نکنید. جاروبرقی قابل حمل  
با جرچیل نیست. خطر جراحت و  
آسیب دیدگی وجود دارد.



از جاروبرقی به عنوان صندلی،  
نردن باز یا پله استفاده نکنید.  
جاروبرقی ممکن است واژگون شود  
و آسیب بینند. خطر جراحت وجود  
دارد.



A

شناسنگر LED حالت تمیزکاری خودکار  
فیلتر

A

M

شناسنگر LED حالت تمیزکاری دستی  
فیلتر

M

28/22

22 28

شناسنگر LED قطر شلنگ مکش  
دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر



دکمه تمیزکاری فیلتر به صورت  
دستی



دکمه قطر شلنگ مکش (چریان  
حجمی)



**شروع/توقف خودکار**  
مکش گرد و غبارهای تولید شده  
توسط ابزارهای برقی در حال کار؛  
جاروبرقی به طور اتوماتیک روش و  
با تأخیر زمانی دوباره خاموش  
می شود.



پریز روی جاروبرقی به طور دائم  
دارای ولتاژ است.



**خاموش کردن**

پریز جاروبرقی دارای ولتاژ نیست.

Min/Max



تنظیم بدون درجه توان مکش:



ناخواسته هیچ گرد و غباری خارج نشود. در

غیر اینصورت ممکن است، گرد و غبار تنفس کنید.  
جاروبرقی نشینید. این باعث آسیب دیدگی  
جاواربرقی می شود.

در نحوه کاربری کابل برق و شلنگ مکش  
دققت کنید. امکان به خطر اندختن اشخاص دیگر  
وجود دارد.

جاروبرقی را با فشار مستقیم آب تمیز نکنید.  
غرفتگی را افزایش می دهد.

دستگاه مکش را به یک منبع جریان برق که  
مطابق مقررات، ارت دار شده باشد، متصل  
کنید. پریز و کابل رابط باید دارای هادی حفاظتی  
فعال باشند.

از پریز جاروبرقی در مکش ۷۰ یا محیط مرطوب  
استفاده نکنید. تماس با آب خطر اتصال کوتاه یا  
برق گرفتگی را دارد.

### علایم

علایم زیر ممکن است برای استفاده از جاروبرقی شما  
حائز اهمیت باشند. لطفاً این علایم و معانی آنها را  
به خاطر بسپارید. تعریف درست این علایم به شما  
جهت استفاده بهتر و ایمن تر از جاروبرقی کمک می  
کند.

### علایم و مفهوم آنها


**هشدار!** تمامی نکات ایمنی و  
دستورالعمل ها را بخوانید. عدم  
رعایت نکات ایمنی درستور العمل  
ها ممکن است باعث برق گرفتگی،  
سوختگی و/یا جراحات شدید شود.



جاروبرقی کلاس M مطابق  
IEC/EN 60335-2-69



**خشک** گرد و غبارهای مضر برای  
سلامتی با آستانه انفجار  
≤ 0,1 mg/m³



**هشدار!** جاروبرقی حاوی گرد  
و غبار مضر برای سلامتی  
می باشد. عملیات سروپس و  
تخلیه و همچنین دفع محفظه  
جمع آوری گرد و غبار، فقط  
توسط متخصصین حرفة ای انجام  
شود. تجهیزات ایمنی مناسب  
الزمیست. جاروبرقی را بدون  
نصب کامل و دقیق سیستم  
فیلتر، به کار نبرید. در غیر  
اینصورت به سلامتی خود صدمه  
می زنید.



**علام و مفهوم آنها**

- (7) نشانگر LED 22/28 قطر شیلنگ مکش
- (8) دکمه قطر شیلنگ مکش (جربان حجمی)
- (9) دکمه تمیزکاری فیلتر به صورت دستی
- (10) دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر
- (11) تنظیم کننده توان مکش
- (12) دسته حمل و نقل
- (13) نگهدارنده L-BOXX
- (14) دکمه فشاری دسته فرمان
- (15) دسته فرمان تلسکوپی
- (16) قسمت بالای جاروبرقی
- (17) نوار کششی
- (18) دهانه ثبیت
- (19) قفل قسمت بالای جاروبرقی
- (20) چرخ
- (21) چرخ گردان
- (22) ترمز چرخ های گردان
- (23) درپوش اتصال مکش
- (24) نگهدارنده کابل
- (25) مدد وده دستگیره عقب
- (26) نگهدارنده نازل کف
- (27) نازل کف
- (28) نازل برس ترکیبی
- (29) آداپتور مکش ترکیبی (برای ابزار برقی)
- (30) درپوش فیلتر اولیه
- (31) دکمه آزادکننده قفل فیلتر اولیه
- (32) لوله مکش
- (33) شیلنگ مکش
- (34) نازل خمیده
- (35) نگهدارنده کیسه فیلتر نمدی
- (36) کیسه فیلتر نمدی
- (37) فیلتر پره ای تخت
- (38) دکمه فشاری شیلنگ مکش
- (39) آداپتور Tool Power (قسمت جلویی)
- (40) آداپتور Tool Power (قسمت عقبی)
- (41) دکمه آزادکننده قفل نازل برس ترکیبی
- (42) ریل راهنمای برای دسته فرمان
- (43) درپوش فیلتر پره ای تخت
- (44) زبانه قفل درپوش فیلتر
- (45) فیلتر اولیه
- (46) حسگر میزان پر شدن
- (47) شناور
- (48) قفل شناور
- (49) آهنربا

- حداقل توان مکش برای کاربردهای با تولید گرد و غبار زیاد
- توان مکش کم برای کاربردهای با تولید گرد و غبار کم و برای تنظیم نیروی مکش بین ابزار برقی متصل شده و سطع قطعه کار (مثلث برای سایش کاری)
- ثبت اطلاعات در این جاروبرقی فعال است.



مشخصات مربوط به توان اتصال  
مجاز ابزار برقی متصل شده (برمسب  
کشور)

max.  
2100 W  
min.  
100 W

**توضیحات محصول و کارکرد**

به تصاویر مربوط در ابتدای بخش دفترچه راهنمای توجه نکنید.

**موارد استفاده از دستگاه**

این جاروبرقی برای جمع آوری، مکش، هدایت و جداسازی گرد و غبار خشک و غیرقابل اشتعال و مایعات غیر قابل اشتعال در نظر گرفته شده است. این جاروبرقی از نظر فنی نسبت به گرد و غبار کنترل شده است و مطابق با کلاس گرد و غبار M می باشد. برای انتظارات بالا استفاده حرفة ای، به طور مثال صنعتی، کارگاهی و کار فنی مناسب است. جاروبرقی کلاس گرد و غبار M مطابق IEC/EN 60335-2-69 دمیدن گرد و غبارهای مضر برای سلامتی با آستانه انفجار کمتر از  $0,1 \text{ mg/m}^3$  به کار برد. تنها وقتی از چاروبرقی استفاده کنید که با تمام کارایهای آن آشنا هستید و می توانید بدون مدد و دنبی آن را بکار گیرید و یا راهنماییهای مربوطه را دریافت کرده اید.

**تصاویر اجزاء دستگاه**

شماره اجزایی که در تصویر مشاهده می شود، مربوط به شرح مکنده می باشد که تصویر آن در این دفترچه راهنمای آمده است.

- (1) محفظه
- (2) کلید اصلی
- (3) نگهدارنده شیلنگ
- (4) پریز برقی ابزار برقی
- (5) نشانگر LED A حالت تمیزکاری خودکار فیلتر
- (6) نشانگر LED M حالت تمیزکاری دستی فیلتر

## مشخصات فنی

GAS 12-40 MA	GAS 12-40 MA		جارو برقی تر/خشک شماره فنی ... 3 601 JMO
... 1D0/... 1G0	... 120/... 1F0		
... 1C0	... 180/... 1E0/... 1N0		
... 160	... 1K0		
	... 1L0/... 170		
	... 1H0		
	... 130		
1200	1200	W	توان ورودی نامی
60	50-60	Hz	فرکانس
40	40	I	حجم محفظه (ناخالص)
26	28	I	حجم خالص (خشک)
18	20	I	حجم خالص (مایع)
19	19	I	حجم کیسه فیلتر نمدی
			فشنار خلاه <sup>(A)</sup>
180	220	hPa	- جارو برقی
200	230	hPa	- توربین
			حداکثر میزان جریان <sup>(A)</sup>
26	28	l/s	- جارو برقی
93,6	100,8	m <sup>3</sup> /h	- توربین
70	71,5	l/s	
252	257	m <sup>3</sup> /h	
M	M		کلاس گرد و غبار
14,5	14,1	kg	وزن <sup>(B)</sup>
I/⊕	I/⊕		کلاس ایمنی
IPX4	IPX4		نوع حفاظت

(A) اندازهگیری شده با یک شلنگ مکش دارای قطر 28 میلیمتر و طول 4 متر

(B) وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

اطلاعات برای ولتاژهای نامی داده شده معین هستند. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات خاص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استخدامه و محیطی دارد. اطلاعات پیشتر را در سایت

مشاهده نمایید. [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac)

## پریز روی جارو برقی

توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده			
حداکثر توان	حداکثر توان	حداکثر نامی	3 601 JMO ...
100 W	2100 W	230 V	... 120/... 1F0
100 W	2100 W	220 V	... 180/... 1E0/... 1N0
100 W	2100 W	220-230 V	... 1K0
100 W	1660 W	220-240 V	... 1L0/... 170
100 W	1000 W	220 V	... 1H0
100 W	1100 W	230 V	... 130
100 W	705 W	127 V	... 1D0/... 1G0
100 W	525 W	115 V	... 1C0
100 W	560 W	110 V	... 160

اطلاعات مربوط به توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده.

در مورد سایر مدل های مربوط به هر کشور ممکن است این مقادیر تغییر کنند. لطفاً به اطلاعات روی پریز مکنده توجه کنید.

به منظور باز کردن، دکمه های فشاری (38) را به سمت داخل فشار دهید، و قطعات را از یکدیگر باز کنید.

**تنظیم نازل برس ترکیبی (رجوع کنید به تصویر C)**  
از نازل ترکیبی (28) به عنوان نازل دوکی یا برس استفاده کنید.

برای استفاده از نازل ترکیبی (28) به عنوان برس، دکمه آزادکننده قفل (41) را فشار دهید و برس را به جلو هدایت کنید.

برای استفاده از نازل ترکیبی (28) به عنوان نازل دوکی، دکمه آزادکننده قفل (41) را فشار دهید و برس را به عقب بکشید.

#### نحوه نصب شیلنگ مکش (رجوع کنید به تصویر D)

دروپوش (23) را از روی نگهدارنده شیلنگ (3) بردازید.

شیلنگ مکش (33) را روی نگهدارنده شیلنگ (3) قرار دهید و آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت انتهای بچرخانید.

◀ **همیشه هنگام برداشتن شیلنگ مکش، اتصال مکش را با دروپوش بیندید.** با این روش می توان از خارج شدن گرد و غبار جلوگیری نمود.  
**نکته:** هنگام کار، به دلیل مالش گرد و غبار در شیلنگ مکش و متعلقات، بار الکترومغناطیسی ایجاد می شود که ممکن است کاری به شکل تخیله بار الکتریکی حس کند (بر حسب شرایط مبینه و حس کاربر).

به طور کلی شرکت Bosch استفاده از یک شیلنگ مکش ضد استاتیکی (متصلات) را جهت مکش ریزگرد و مواد خشک توصیه میکند.

#### نحوه تثبیت شیلنگ مکش روی جاروبرقی (رجوع کنید به تصویر E)

شیلنگ مکش (33) نصب شده را در محفظه شیلنگ مکش بپیچید. دو نوار کششی (17) را به بالا بکشید و در دهانه (18) ثابت قلاب کنید.

#### تعویض کیسه فیلتر نمدی (مکش خشک)

برای مکش خشک مواد مطابق با کلاس گرد و غبار M، می توانید از یک کیسه فیلتر نمدی (36) استفاده کنید.

در صورت مکش مواد بدون مقدار مرزی انفجاری  $1 \text{ mg/m}^3$  (مطابق با کلاس گرد و غبار A) می توان مستقیم به داخل محفظه مکش انعام داد.  
**نکته:** هنگام استفاده از کیسه نمدی، تمیزکاری خودکار فیلتر را خاموش کنید (رجوع کنید به "تمیزکاری خودکار/دستی فیلتر" (رجوع کنید به تصویر L)، صفحه 129).

#### ۴ هشدار مکنده حاوی گرد و غبار مضر برای سلامتی می باشد.

عملیات سرویس و تخلیه و نیز دفع محفظه جمع‌آوری گرد و غبار، فقط توسط متخصصین حرفه ای انجام شود. تجهیزات ایمنی مناسب از امامیست. مکنده را بدون سیستم فیلتر نصب شده کامل و دقیق پکار نباید. در غیر اینصورت به سلامتی خود صدمه می زنید.

## نصب

◀ قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخرا را از پریز بکشید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

#### نصب متعلقات مکش (رجوع شود به تصویر A)

شیلنگ مکش (33) مجهز به سیستم قرارگیری کلیک است، که می تواند به متعلقات مکش (آدپتور مکش ترکیبی (29)، نازل سرکج (34) نازل برس دار ترکیبی (28)) متصل شود.

#### نصب نازل سرکج

- نازل سرکج (34) را روی شیلنگ مکش (33) قرار دهید تا هر دو دکمه فشاری (38) شیلنگ مکش به طور محسوس جا بیفتد.

- به منظور باز کردن، دکمه های فشاری (38) را به سمت داخل فشار دهید، و قطعات را از یکدیگر باز کنید.

#### نصب نازلها و لوله ها

- در صورت نیاز لوله های مکش (32) را محکم در هم و سپس در نازل سرکج (34) فرو کنید.

- نازل کف (27) را محکم روی لوله مکش (32) یا نازل سرکج (34) وارد کنید.

#### نحوه نصب آداتپور مکش ترکیبی

آداتپور مکش ترکیبی (29) از آداتپور PowerTool (قسمت جلویی) (39) و آداتپور PowerTool (قسمت عقبی) (40) تشکیل شده است.

آداتپور مکش ترکیبی (29) با ابزارهای برقی بوش سازگار است.

آداتپور PowerTool (قسمت عقبی) (40) به دلیل قطر داخلی 38,5 mm و قطر بیرونی 45 mm می تواند برای ابزارهای برقی سایر سازندگان استفاده شود.

آداتپور PowerTool (قسمت جلویی) (39) را به آداتپور PowerTool (قسمت عقبی) (40) وصل کنید و دو آداتپور را با چرخاندن آنها در جهت مخالف به هم متصل کنید (رجوع کنید به تصویر B).

آداتپور مکش ترکیبی (29) را روی شیلنگ مکش (33) قرار دهید، تا جایی که هر دو دکمه فشاری (38) شیلنگ مکش طور محسوس جا بیفتد.

برای جدا کردن، دکمه های فشاری (38) را به سمت داخل فشار دهید و آداتپور مکش ترکیبی را از شیلنگ مکش بیرون بکشید.

برای جدا کردن هر دو آداتپور، اتصال را با چرخاندن آنها در جهت مخالف باز کنید و آداتپورها را از هم جدا کنید.

#### نصب نازل برس ترکیبی

نازل برس ترکیبی (28) را روی شیلنگ مکش (33) قرار دهید، تا جایی که هر دو دکمه فشاری (38) شیلنگ مکش بطور محسوس جا بیفتد.

**راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه**

◀ به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب جارو برقی مطابقت داشته باشد.

◀ در مورد نحوه‌ی برخورد با گرد و غبار های مضر برای سلامتی از قوانین و مقررات معابر مربوط به کشور خود کسب اطلاع کنید.

از مکنده می‌توان برای جارو کردن و مکش مواد زیر استفاده نمود:

- گرد و غبارهای با مقدار مرزی انفجار کمتر از  $0,1 \text{ mg/m}^3$  از جاروبرقی کلا در مکانهای دارای خطر انفجار استفاده نکنید.
- (33) جهت تضمین کارایی بهینه، بایستی شلنگ مکش را همیشه کاملا دور قسمت بالایی مکنده (16) کلاف کنید.

#### تنظیم قدرت مکش

با استفاده از تنظیم کننده توان مکش (11) می‌توانید قدرت مکش را به طور مداوم تعدیل کنید.

تنظیم کننده توان مکش (11) را برای کاربردهایی که گرد و غبار زیادی تولید می‌کنند روی حداکثر قدرت مکش تنظیم کنید.

تنظیم کننده قدرت مکش (11) را برای کاربردهایی با تولید گرد و غبار کم و تنظیم نیروی مکش بین ابزار برقی متصل شده و سطح قطعه کار (مثلث برای سایش کاری)، روی توان مکش کم قرار دهید.

**سیستم ناظارت بر دبی حجمی**

جاروبرقی به یک سیستم ناظارت بر دبی حجمی مجهز است. ناظارت بر دبی حجمی در عملکرد "مکش" روی مقدار  $20 \text{ m/s}$  تنظیم شده است.

اگر این مقدار، برای مثال به دلیل اینباشته شدن آلوودگی در شلنگ مکش، پر شدن فیلتر پره ای تفت، حاصل نشود یکی از نشانگرهای 22 (7) LED را 28 چشمک می‌زند و یک هشدار صوتی به صدا درمی‌آید. در این صورت جاروبرقی را خاموش کنید و آن را مطابق توضیحات بخش "رجوع اپرادها" کنترل نمایید.

**نکته:** هنگام کار با ابزارهای برقی با جریان هوای کم در شلنگ مکش (مانند اره عمودی، دستگاه ساپ و غیره..) به منظور جلوگیری از پیام هشدار، توصیه می‌شود از آپاتور مکش با سوراخ هوایگیری مناسب از طیف متعلقات نیز استفاده کنید.

#### تنظیم قطر شلنگ

قطر شلنگ	مقدار تنظیمی دبی حجمی
22 mm	$28 \text{ m}^3/\text{h}$
28 mm	$45 \text{ m}^3/\text{h}$

برای تنظیم قدرت مکش، قطر شلنگ مورد استفاده را انتخاب کنید.

دکمه قطر شلنگ (8) را فشار دهید.

نشانگر LED (7) 22 یا 28 روشن می‌شود.

#### نحوه قرار دادن/برداشتن کیسه فیلتر نمدی (رجوع کنید به تصویر G)

قفل ها (19) را باز کنید و قسمت بالای جاروبرقی (16) را بردارید.

برای نصب، کیسه فیلتر نمدی (36) را روی نگهدارنده کیسه فیلتر نمدی (35) قرار دهید و کیسه فیلتر نمدی (36) را به همراه نگهدارنده (35) داخل محفظه (1) قرار دهید.

برای بیرون آوردن، دهانه کیسه فیلتر نمدی پر شده را با کشیدن سرپوش آن بینند. کیسه فیلتر نمدی (36) سسته شده را از نگهدارنده کیسه فیلتر نمدی (35) بیاورید و از جاروبرقی خارج کنید. قسمت بالای جاروبرقی (16) را دوباره در جای خود قرار دهید و با بستن قفل های (19) (محفظه (1) را به قسمت بالای جاروبرقی (16) وصل کنید.

#### باز کردن L-Boxx (رجوع کنید به تصویر H)

برای حمل و نقل مکنده و جهت صرفه جویی در جا هنگام نگهداری متعلقات مکنده در ابزار و/یا ابزار برقی می‌توان L-Boxx از قسمت بالایی مکنده باز کرد.

شلنگ مکش را روی جاروبرقی ثابت کنید (رجوع کنید به تصویر E).

L-Boxx را در نگهدارنده (13) جا بیندازید.

◀ از مکنده بدون L-Boxx استفاده نکنید. نقطه ثقل مکنده به بالا تغییر می‌کند. ممکن است مکنده واگن شود. خطر جراحت یا آسیبدیدگی وجود دارد.

◀ مکنده را از طرف دسته L-Boxx باز شده حمل نکنید. مکنده برای دسته L-Boxx بسیار سنگین است. خطر جراحت یا آسیب دیدگی وجود دارد.

#### نصب دسته فرمان تلسکوپی (رجوع کنید به تصویر J-I)

نکته: امکان جداسازی دسته فرمان تلسکوپی وجود ندارد. در طول نصب، مطمئن شوید که دسته فرمان به درستی تراز شده است.

قبل از قرار دادن، دسته فرمان (15) را با استفاده از عالمتهای R (راست) و L (چپ) تراز کنید.

دسته فرمان (15) را درون ریل راهنمای (42) قرار دهید.

دسته فرمان (15) را تا خط توقف فشار دهید تا به طور محسوس در محل خود جا بیفتد.

با فشار دادن دکمه فشاری (14)، طول دسته فرمان (15) را تغییر دهید.

#### طرز کار با دستگاه

◀ قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخ را از پریز بکشید. رعایت این اقدامات پیشگیری اینمی از راه افتادن تأثراسته جاروبرقی جلوگیری می‌کند.

**استفاده از سیستم مکش (متعلقات)**  
سیستم مکش را به شیلنگ مکش (33) وصل کنید.

**برای مکش گرد و غبار از طریق سیستم مکش، کلید اصلی (2) را در موقعیت 1 قرار دهید.**

سیستم مکش را روی دیوار نگه دارید و ابزار برقی را روشن کنید. به دلیل فشار منفی حاصل شده، سیستم مکش به طور مستقل می‌چسبد.

ابزار برقی را خاموش کنید و سیستم مکش را با دقت از دیوار جدا کنید.

**برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 0 قرار دهید.**



1  
0

**پریز روی جاروبرقی**

▪ لطفاً به ظرفیت اتصال مجاز پریز روی جاروبرقی توجه کنید. تجاوز از حداقل ظرفیت مجاز می‌تواند باعث ایجاد بار اضافی روی جاروبرقی شود. فیوز محافظ موتور فعال می‌شود. جاروبرقی را به کمی از مراکز مجاز خدمات مشتریان ارسال کنید.

▪ به مضم اینکه دوشاخه جاروبرقی وارد پریز شود و کلید اصلی در موقعیت 1 قرار گیرد، پریز ابزار برقی (4) دارای ولتاژ می‌شود. می‌توان از آن به عنوان یک اتصال برق خارجی در جاروبرقی استفاده کرد، به عنوان مثال هنگام کار با سیستم های مکش. در موقعیت 1+ شروع/توقف خودکار جاروبرقی فعال می‌شود. جاروبرقی را می‌توان با استفاده از ابزار برقی متصل از راه دور روشن کرد.

## مکش خشک

**مکش گرد و غبارهای جمع شده**

برای روشن کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 1 قرار دهید.



1  
0

**برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 0 قرار دهید.**

▪ از مکش مایعات دارای قابلیت اشتعال یا انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. از مکش گرد و غبارهای دارای قابلیت اشتعال یا انفجار خودداری کنید. از به کارگیری مکنده در فضاهای دارای خطر انفجار خودداری کنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می‌توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

▪ از مکنده به عنوان پمپ آب استفاده نکنید. مکنده برای مکش هوا و مخلوط آب در نظر گرفته شده است.

نکته: شرابط مربوط به درجه ورودی (کلاس گرد و غبار M) برای مکش خشک در نظر گرفته شده است.

**قبل از مکش ۷**  
محفظه (1) را خالی کنید و کیسه فیلتر نمدی (36) را بردارید.

حسگر میزان پر شدن (46) را از نظر آلودگی بررسی کنید. فقط یک حسگر میزان پر شدن تمیز به جاروبرقی امکان می‌دهد هنگام بر شدن محفظه به طور خودکار خاموش شود (رجوع کنید به "تمیز کردن حسگر میزان پر شدن" (رجوع کنید به تصویر P-Q)، صفحه 130).

**تمیزکاری خودکار فیلتر باشد هنگام جارو زدن مواد مربوط غیرفعال شود.**

دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر (10) را فشار دهید تا تمیز کردن دستی فیلتر فعال شود (رجوع کنید به "تمیزکاری فیلتر به صورت دستی" (رجوع کنید به تصویر A)، صفحه 129). تمیزکاری خودکار فیلتر غیرفعال شده و نشانگر LED خاموش می‌شود.

## مواد مربوط

**۴ هشدار**  
به محض خارج شدن کف یا خاموش کنید و محفظه را تخلیه کنید. جاروبرقی ممکن است در غیر اینصورت آسیب بیند. برای روشن کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 1 قرار دهید.

جاروبرقی به حسگرهای میزان پر شدن ظرف (46) مجهز است. هنگامی که میزان پر شدن به سطح مداکثر برسد، جاروبرقی به طور خودکار خاموش

نحوه مکش گرد و غبار ناشی از ابزارهای برقی در حال کار (رجوع کنید به تصویر K)

▪ چنانچه خروجی هوا در اتاق کاهش یابد، باید جریان تهویه کافی هوا در اتاق برقرار باشد.

▪ یک پریز برای ابزار برقی (4) در جاروبرقی تعییه شده است. شما می‌توانید یک ابزار برقی خارجی را به این پریز متصل کنید. به حداقل توان مجاز اتصال ابزار برقی متصل توجه داشته باشید.

▪ نصب آداتور مکش ترکیبی (29) (رجوع کنید به تصویر B).

آداتور مکش ترکیبی (29) را در لوله اتصال به دستگاه مکش ابزار برقی وارد کنید.

**برای روشن کردن شروع/توقف خودکار جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 1+ بچرخانید.**

▪ برای راه اندازی جاروبرقی، ابزار برقی متصل به پریز (4) را روشن کنید.

جاروبرقی به طور خودکار شروع به کار می‌کند. برای متوقف کردن مکش، ابزار برقی را خاموش کنید.

▪ تداوم عملکرد شروع/توقف خودکار تا 15 ثانیه ادامه دارد تا بتواند بقایای گرد و غبار را از شیلنگ مکش بیرون بکشد.

▪ برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 0 قرار دهید.



1+  
0

برای خاموش کردن حالت تمیزکاری دستی فیلتر، دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر (10) را فشار دهید. یک فیلتر پره ای تخت با آلودگی سطحی، هنوز قابل استفاده است. تمیز کردن دستی فیلتر پره ای تخت با به ضربه زدن با دمیدن باد ضروری نیست و ممکن است حتی به فیلتر آسیب بررساند.

## مراقبت و سرویس

### مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

▪ قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخرا را از پریز بکشید. رعایت این اقدامات بیشگیری اینمی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

▪ **جاروبرقی و دریچه‌ی تهویه را برای کارایی خوب و امن تمیز نگهدازید.**

در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت Bosch و یا به نماینده‌ی محاز Bosch (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات بر قبی مراجعه کنید تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید.

▪ **هنگام تمیز کردن و سرویس مکنده از یک ماسک تنفسی استفاده کنید.**

بدنه جاروبرقی را کاه به گاه با یک دستمال مرتبط تمیز کنید.

▪ **جاروبرقی را با هوای فشرده تمیز نکنید.** ممکن است به فیلتر یا سایر قطعات آسیب برسد. حداقل سالی یک بار، بازرسی فنی مربوط به گرد و غبار جاروبرقی باید توسط سازنده یا یک فرد آموزش دیده انجام شود (برای مثال فیلتر را از نظر آسیب دیدگی، مکنده را از نظر نشتی و تهیرات کنترل را برای عملکرد مناسب بررسی کنید).

▪ **نظافت و سرویس و نگهداری پس از مکش موادی که برای سلامتی مضر هستند**

- تمام قسمت هایی را که ممکن است با مواد خطرناک تماس داشته باشند را آلوده در نظر بگیرید.

- قبل از اینکه جاروبرقی را از منطقه خطر خارج کنید، قسمت بیرونی جاروبرقی را جارو بشکید، پاک کنید یا محکم کنید.

- جاروبرقی را فقط در صورتیکه خطری برای شما و سایر افراد نداشته باشد، تمیز، باز و نگهداری و سرویس کنید. هنگام سرویس و نگهداری از تهیرات اینمی شخصی استفاده کنید. کار را در اتاقی با تهویه مناسب انجام دهید.

- قبل از باز کردن جاروبرقی، ابتدا قسمت بیرونی آن را تمیز کنید.

- هر قسمت از جاروبرقی را که نمی توان به طور مطلوب تمیز کرد را در کیسه های غیرقابل نفوذ دور ببریزید. مقررات معنیر مربوطه را برای دفع این گونه زباله ها رعایت کنید.

- محدوده سرویس و نگهداری را پس از اتمام کار، تمیز کنید.

می شود و هر دو نشانگر (5) LED و (6) LED هر 1 ثانیه هم زمان چشمک می زند. محافظ استارت مجدد فعال می شود و می تواند با 1 بار روشن / خاموش کردن جاروبرقی غیرفعال شود.

**نکته:** سطح را به طور مرتب بررسی کنید و محفظه را به موقع خالی کنید. اگر هنگام مکش تر هشدار صوتی به صدا درآید، نیاز به انجام هیچ اقدامی نیست. اینمی کارکرد جاروبرقی تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 0 قرار دهید.

محفظه (1) را از محدوده دستگیره عقب (25) بگیرید و آنرا به جلو بپردازید تا مایع خالی شود.

**پس از مکش تر**

حسگر میزان پر شدن (46) را بعد از مکش تر تمیز کنید (رجوع کنید به "تمیز کردن حسگر میزان پر شدن (P-Q)"، صفحه 130).

برای جلوگیری از تشکیل قارچ پس از مکش تر:

- فیلتر پره ای تخت (37) را بپرون بباورد و بگذارد

- قسمت بالای جاروبرقی (16) را بردارید، در پوش فیلتر (43) را باز کنید و بگذارد هر دو تای آنها خوب خشک شوند.

تمیزکاری خودکار/دستی فیلتر (رجوع کنید به تصویر L)

### تمیزکاری خودکار فیلتر

**نکته:** هنگام روشن کردن جاروبرقی، تمیزکاری خودکار فیلتر به صورت پیش فرض تنظیم شده است.

نشانگر (5) LED به طور مداوم روشن می ماند.

هنگام تمیزکاری خودکار فیلتر پره ای تخت (37) با دو پمپاژ هوا تمیز می شود (صدای ضربانی). به

محض اینکه حسگر تشخیص دهد که جریان هوا به زیر یک سطح معین رسیده است، این اتفاق میافتد.

در صورت استفاده مرتب از تمیز کننده فیلتر، زمان ماندگاری فیلتر افزایش می باید.

برای بدست آوردن مدت زمان عالی ماندگاری فیلتر، تمیزکاری خودکار فیلتر را تنها در موارد استثناء غیر

فعال کنید، برای مثال هنگام مکش تر.

### تمیزکاری فیلتر به صورت دستی

برای تمیز کردن دستی فیلتر، دکمه تمیزکاری دستی فیلتر (9) را فشار دهید. فیلتر پره ای تخت (37) با 2 پمپاژ هوا تمیز می شود. نشانگر (6) LED به مدت

2 ثانیه با رنگ سفید روشن می شود. هنگامی که نشانگر (6) LED خاموش شد، پمپاژ بعدی هوا

می تواند فعال شود. برای انجام این کار، دکمه تمیز کردن دستی فیلتر (9) را دوباره فشار دهید.

**نکته:** هنگام تمیز کردن دستی فیلتر، اطمیناً توجه داشته باشید که فاصله زمانی بین هر بار فشار

دادن دکمه باشد 2 تا 3 ثانیه باشد. چندین بار فشار

دادن مداوم دکمه تمیزکاری دستی فیلتر (9)،

حافظت در برابر گرم شدن بیش از حد جاروبرقی را

فعال می کند. حافظت در برابر گرم شدن بیش از حد، بعد از مدتی به طور خودکار غیرفعال می شود (رجوع کنید به "رفع ابرادها"، صفحه 130).

- قسمت بالای جاروبرقی (16) را بردارید.
- محفظه (1) را خالی کنید.
- شناور (47) را تکان دهید یا آرام به آن ضربه بزنید تا ذرات و آلودگی ها از آن جدا شوند.
- شناور (47) را با یک دستمال نرم تمیز کنید.
- در صورت لزوم، می توانید شناور را ببرون نیز بپارید. برای این منظور، قفل (48) را فشار دهید و شناور (47) را بردارید.
- آهنترا (49) را با یک برس تمیز کنید.
- شناور (47) را دوباره نصب کنید.
- نگهداری و حمل و نقل**
- کابل برق را دور نگهدارنده کابل (24) کلاف کنید.
- متعلقات را در نگهدارنده های مربوطه قرار دهید.
- شیلنگ مکش (33) را در محفظه شیلنگ مکش بپیمیدد. دو نوار کششی (17) را به بالا بکشید و در دهانه های ثبیت قلاب کنید.
- L-Boxx را در نگهدارنده (13) جا بیندازید.
- کیسه فیلتر نمدی را به مضمض پر شدن خارج کنید.
- جاروبرقی را از دسته (12) حمل کنید.
- برای حمل و نقل جاروبرقی، دربوش اتصال (23) را روی نگهدارنده شیلنگ (3) بپیچانید.
- جاروبرقی را در یک اتاق خشک با سطح صاف قرار دهید و از آن در برابر کاربری غیر مجاز محافظت کنید.
- جهت ثبیت کردن چرخ های گردان (21)، ترمز چرخ های گردان (22) را پایین بیاورید.
- حمل و نقل (رجوع کنید به تصویر R)**
- برای نگهدارنده شیلنگ (3) بپیچانید.
- برای حمل و نقل رامات جاروبرقی و بدون آسیب زدن به کمر خود، محفظه را کاملاً خالی کنید یا کیسه فیلتر نمدی پر شده را دور بیاندازید.
- جاروبرقی را از دسته (12) حمل کنید.
- برای کشیدن یا جلو راندن جاروبرقی، ترمز چرخ های گردان (22) را آزاد کنید.
- برای جلو راندن یا کشیدن جاروبرقی، فقط از دسته فرمان بیرون امده (15) استفاده کنید.
- جاروبرقی حمل آن را روی پله ها، مطمئن شوید که پله ها کشیده شود. برای این کار باید از دسته حمل و نقل استفاده شود.
- برای مقابله با خطر احتمال سقوط جاروبرقی هنگام حمل آن را روی پله ها، مطمئن شوید که افراد دیگری مستقیماً پشت سر شما نیاشند.

### رفع ایرادها

- در صورت بروز اختلال (مانند شکستگی فیلتر) بایستی جاروبرقی را فوراً خاموش کرد. قبل از راه اندازی مجدد بایستی رفع اشکال شود.

### تمیز کردن محفظه گرد و غبار

محفظه (1) را هر چند وقت یکبار با مواد شوینده غیر ساینده موجود در بازار تمیز کنید و بگذارید خشک شود.

### تمیز کردن/تعویض فیلتر پره ای تخت (رجوع کنید به تصویر N-M)

► هنگام باز کردن دربوش فیلتر، زبانه قفل را بگیرید و دقت کنید که دربوش فیلتر باز شده در حالت عمومی قفل شود. در صورت افتادن دربوش فیلتر، خطرو وارد آمدن چراحت وجود دارد. توان مکش به وضعیت فیلتر بستگی دارد. بنابراین فیلتر را مرتب تمیز کنید.

فیلتر پره ای تخت (37) آسیب دیده را سریع تعویض کنید.

- قبل از تمیزکاری/تعویض فیلتر پره ای تخت (37)، شیلنگ مکش (33) را جدا کنید و دربوش اتصال (23) را روی نگهدارنده شیلنگ (3) قرار دهید.

- زبانه قفل (44) را بکشید و دربوش فیلتر (43) و را به سمت بالا بچرخانید تا در حالت عمومی قفل شود.

- فیلتر پره ای تخت (37) را از لبه ها بگیرید و آن را از بالا ببرون بکشید.

- هر گونه گرد و غبار و آلودگی ناشی از دستمال مرطوب، از لبه های محفظه (1) پاک کنید.

- فیلتر پره ای تخت را می توان با آب روان شستشو داد.

- یک فیلتر پره ای تخت (37) جدید یا فیلتر تمیز شده را قرار دهید و از قرارگیری محکم و صحیح آن مطمئن شوید.

- دربوش فیلتر (43) را ببندید تا به طور محسوس جا بیفتد.

### تمیز کردن فیلتر اولیه (رجوع کنید به تصویر O)

► فیلتر اولیه را نباید به حالت مرطوب تمیز کرد.

► برای باز کردن دربوش فیلتر اولیه، دست خود را از بالا از بین دسته فرمان و جاروبرقی رد نکنید. در غیر این صورت ممکن است دستان گیر کند.

دسته فرمان (15) را به سمت بالا بکشید تا دربوش فیلتر اولیه از قسمت عقب آزادانه در دسترس باشد. دکمه آزادکننده قفل (31) فیلتر اولیه (30) را فشار دهید و آنرا از محفظه فیلتر اولیه خارج کنید.

فیلتر اولیه (45) را ببرون بیاورید.

پره های فیلتر اولیه را با یک برس نرم پاک کنید.

فیلتر اولیه را در دربوش فیلتر (30) قرار دهید.

دربوش فیلتر اولیه (30) را در محفظه فیلتر اولیه قرار دهید و آنرا ببندید.

تمیز کردن حسگر میزان پر شدن (رجوع کنید به تصویر P-Q)

► دو شاخه جاروبرقی را پریز برق جدا کنید.

### راه حل

توربین جاروبرقی کار نمی کند.  
کنید.

### ایراد

## ایراد

## راه حل

کلید اصلی (2) را روی "شروع/توقف خودکار" قرار دارد.

کلید اصلی (2) را روی علامت "مکش" قرار دهید یا ابزار برقی متصل شده به پریز (4) را روشن کنید.

در حین مکش ۷، نشانگرهای LED A و M به آرامی و همزمان چشمک می‌زنند.

توربین جاروبرقی خاموش می‌شود.

**محفظه (1)** را تخلیه کنید.

در حین مکش خشک، نشانگرهای LED A و M سریع و همزمان چشمک می‌زنند: حفاظت از اضافه بار پریز جاروبرقی فعال شده است.

ابزار برقی را خاموش کنید.

جاروبرقی خاموش می‌شود.

بار اضافی روی جاروبرقی به دلیل تجاوز از حد اکثر ظرفیت مجاز پریز روی

جاروبرقی: فیوز محافظ موتور فعلی شده است.

جاروبرقی را به یکی از مراکز مجاز **Bosch** خدمات مشتریان ارسال کنید.

پس از تخلیه محفوظه، توربین جاروبرقی دوباره راه اندازی نمی‌شود.

جاروبرقی را خاموش کنید و ۵ ثانیه منتظر بمانید، پس از ۵ ثانیه دوباره آن را روشن کنید.

مسگرهاي ميزان پر شدن (46) و همچنین فضای بين آنها (46) را با يك برس تمیز کنید.

توان مکش کاهش یافته است.

تخت (37) را برطرف کنید.

کيسه فیلتر نمدی (36) را تعویض کنید.

دروپش فیلتر (43) را درست جا بزنید.

قسمت بالای جاروبرقی (16) را درست قرار داده و قفل ها (19) را بیندید.

فیلتر پره ای تخت (37) را تمیز یا تعویض کنید.

نصب صحیح فیلتر پره ای تخت (37) را کنترل کنید.

فیلتر پره ای تخت (37) را تمیز یا تعویض کنید.

خروج گرد و غبار هنگام مکش

مسگرهاي ميزان پر شدن (46) و همچنین فضای بين آنها (46) را با يك بارچه تمیز کنید.

توقف خودکار (مکش ۷) فعال نمی‌شود.

ميزان پر شدن را به طور مداوم کنترل کنید.

توان مکش بسیار کم تنظیم شده است.

کنترل کننده توان مکش (11) را روی ميزان پیشتری قرار دهید.

قطر شیلنگ، اشتباهی تنظیم شده است.

قطر شیلنگ مکش را درست تنظیم کنید.

شیلنگ مکش (33) مسدود شده یا تاب خورد است.

گرفتگی یا تاب خوردگی را برطرف کنید.

پر شدن کيسه فیلتر نمدي

کيسه فیلتر نمدي (36) را تعویض کنید.

فیلتر پره ای تخت (37) کنیف است.

فیلتر پره ای تخت را تمیز یا در صورت لزوم تعویض کنید.

جييان هواي نا كافي از طريق ابزار برقی متصل شده

در صورت وجود: سوراخ هواگيری روی ابزار برقی باز کنید یا از آدابتور

مکش مناسب با سوراخ هواگيری استفاده کنید.

عدم عملکرد سیستم کنترل الکترونیکی

با مرکز مجاز خدمات مشتریان **Bosch** تماس بگیرید.

هنگام مکش ۷ یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید.

**راه حل****ایراد**

تمیز کننده خودکار فیلتر کار نمی کند.

تمیزکاری خودکار فیلتر تنها زمانی فعال می شود که جریان هوا به زیر سطح معینی بررسد. برای بررسی عملکرد یا تمیز کردن فیلتر به صورت دستی، با فشار دادن دکمه تمیز کردن دستی فیلتر (9) به حالت دستی بروید.

تمیز کردن دستی فیلتر نمی تواند محافظه گرمای بیش از حد جاروبرقی فعال شده است.

10 بار فشار دادن مداوم دکمه تمیز کردن دستی فیلتر (9) باعث فعال شدن محافظت در برابر گرمای بیش از حد می شود. محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد، بعد از 20 ثانیه به طور خودکار غیرفعال می شود.

30 بار فشار دادن مداوم دکمه تمیز کردن دستی فیلتر (9) باعث فعال شدن محافظت در برابر گرمای بیش از حد می شود. محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد، بعد از 4 دقیقه به طور خودکار غیرفعال می شود.

در صورت نداوم مشکل، با مرکز مجاز خدمات مشتریان **Bosch** تماس بگیرید.

تمیزکاری خودکار فیلتر فعال نمی شود.

**خدمات و مشاوره با مشتریان**

دفتر خدمات پس از فروش به سروالات شما در باره تعییرات، سرویس و همچنین قطعات بدلکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات در باره قطعات بدلکی و متعلقات را میتوانید در سایت [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) نامبرده زیر پستجو نمایید: **Tيم مشاوره Bosch** شما را در مورد سؤالهایتان نسبت به محصولات و متعلقات ما حمایت می کند. برای هرگونه سؤال و یا سفارش ابزار بدلکی و متعلقات، حتی شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

**ایران**

روبوت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب ساختمان مادریان، شماره ۳، طبقه سوم.  
تهران 1994834571  
تلفن: +9821 42039000

**سایر اطلاعات مربوط به خدمات را اینجا می یابید:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**از رده خارج کردن دستگاه**

جارو برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

مکنده را داخل زباله دان خانگی  
نیاندارید!





2 608 000 889



2 608 000 886



2 608 000 585



2 608 000 769



2 608 000 887



2 608 000 661



2 608 000 797



2 608 000 806




2 608 000 890



2 608 001 109



2 608 000 891



2 608 438 691

5 m  
4 m22 mm  
28 mm

ANTISTATIC

● 2 608 000 568  
● 2 608 000 885